



تقریظات علمائے المکیہ
عن الدولۃ المکیہ

امام احمد رضا محدث بریلوی

اور

علماء مکہ مکرمہ رحمہم اللہ

غور سے سن تو رضا
کعبہ سے آئی ہے صدا

تحریر: علامہ بہاء الدین شاہ

ناشر: ادارہ تحقیقات امام احمد رضا اعظمی کلکتہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

امام احمد رضا محدث بریلوی

اور

علماء مکہ مکرمہ رحمہم اللہ

تصریح

محمد بہاء الدین شاہ

ناشر

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا انٹرنیشنل (رجسٹرڈ)

کراچی (پاکستان)

جملہ حقوق بحق ادارہ تحقیقات امام احمد رضا انٹرنیشنل (رجسٹرڈ) محفوظ ہیں

نام کتاب امام احمد رضا اور علماء مکہ مکرمہ
مصنف محمد بہاء الدین شاہ
مقدمہ صاحبزادہ سید وجاہت رسول قادری
کمپوزنگ خلیل احمد رانا

ranakhalilahmed@gawab.com

خلیل احمد رانا

پروف ریڈنگ

336

صفحات

1000

تعداد اشاعت

2006ء/ ۱۴۲۷ھ

سن اشاعت بار اول

تاریخ

ہدیہ

ملنے کا پتہ

ادارہ تحقیقات امام احمد رضا انٹرنیشنل (رجسٹرڈ)

۲۵/ جاپان مینشن، رضا چوک (ریگل چوک) صدر، کراچی، پوسٹ کوڈ ۷۴۴۰۰

فون 021-2725150، فیکس 021-2732369

ای میل: imamahmadraza@gmail.com

ویب سائٹ www.imamahmadraza.net

مقدمہ

از صاحبزادہ سید وجاہت رسول قادری

”الذی افتخر بوجودہ الزمان“..... ”وہ جس کے وجود پر زمانے کو ناز ہے“

یہ الفاظ حرم مکہ مکرمہ کے عالم جلیل، فاضل نبیل علامہ مولانا فضیلۃ الاستاد محمد یوسف الافغانی الہمکی علیہ الرحمہ نے شیخ الاسلام امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمۃ الرضوان کی محدثانہ شان دیکھتے ہوئے آج سے تقریباً ایک صدی قبل کہے تھے [۱] اور بلاشبہ آج بھی اتنے ہی صادق ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سر زمین عرب، بلکہ دنیائے اسلام میں اہل سنت و جماعت کی حکومت ”سلطنت عثمانیہ“ کے طمطراق کے ساتھ جاری تھی اور امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کا شہرہ اکناف عالم اسلام میں دور و نزدیک تک پھیلا ہوا تھا۔

عالم اسلام میں امام احمد رضا کا پہلا تعارف اس وقت ہوا جب وہ ۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۸ء میں اپنے والد ماجد علامہ مولانا تقی علی خاں علیہ الرحمۃ کے ہمراہ حج بیت اللہ کے لئے حرمین شریفین پہلی بار حاضر ہوئے۔ اس موقع پر حرم کعبہ مکرمہ کے منصب جلیلہ ”مفتی شافعیہ“ پر فائز اور اس وقت کے عالم اسلام کی عظیم شخصیت علامہ مولانا مفتی شیخ حسین بن صالح جمل اللیل الہمکی قدس سرہ سامی (م۔ ۱۳۰۲ھ / ۱۸۸۳ء) نے بغیر کسی سابقہ تعارف کے (کعبہ میں بعد فراغت نماز مغرب) امام احمد رضا کا ہاتھ پکڑا اور ان کی پیشانی دیکھ کر بے ساختہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے:

انی لاجد نور اللہ من هذا الجبین (یقیناً میں اس پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں) [۲]

اس سفر میں علامہ شیخ جمل اللیل الہمکی سمیت متعدد جید علمائے مکہ مثلاً علامہ شیخ احمد بن زین دحلان کی مفتی شافعیہ (م۔ ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۱ء) اور علامہ شیخ عبدالرحمن سراج کی مفتی حنفیہ (م۔ ۱۳۰۱ھ / ۱۸۸۳ء) [۳] نے امام احمد رضا کو فقہ و اصول تفسیر و حدیث و طرق سلاسل

و دیگر علوم میں اسناد سے نوازا۔

الغرض حرمین شریفین میں امام احمد رضا کا جو ابتدائی شاندار تعارف ہوا اس نے مستقبل کے لئے راہ ہموار کر دی اور پھر علماء عرب، امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی نگارشات سے برابر مستفید ہوتے رہے اور ان کی علمی و جاہت و صلاحیت کو اپنی تقاریط اور تائثرات کی صورت میں خراج تحسین پیش کرتے رہے۔

بقول ماہر رضویات علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب مدظلہ العالی: [۳]

”محدث بریلوی علیہ الرحمہ کی مندرجہ ذیل عربی تصانیف نے علماء عالم اسلام خصوصاً علمائے حرمین شریفین میں ان کے علمی وقار اور فقہ و حدیث و علوم اسلامیہ میں ان کے بلند مقام کو روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔“

۱۔ فتاویٰ الحرمین برجف ندوة المین ۱۳۱۷ھ/۱۸۹۹ء

۲۔ المستند المعتمد بناءً نجاه الابد ۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲ء

۳۔ الدولة المکیہ بالمادة الغیبیہ ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء

۴۔ الاجازة الرضویہ لمبجل مكة البهیہ ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء

۵۔ الاجازة المیتنہ لعلماء بكة والمدینہ ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۶ء

۶۔ کفل الفقیہ الفاهم فی احکام قرطاس الدراهم ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۶ء

۷۔ الفیوضات المکیہ لمحبا الدولة المکیة ۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷ء

ان میں بعض تصانیف کے بارے میں مجملاً یہاں عرض کیا جاتا ہے تاکہ عالم اسلام سے امام احمد رضا کے تعلق پر روشنی پڑ سکے اور عالم اسلام کی طرف سے ان کے افکار کی پذیرائی کے متعلق حقائق معلوم ہو سکیں۔

۱۔ فتاویٰ الحرمین: ندوة العلماء (بھارت) کے بارے میں امام احمد رضا کے

۲۸ سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے۔ یہ جوابات بقول امام احمد رضا، ۲۰ گھنٹے میں قلمبند کئے

گئے، یعنی ۶ شوال ۱۳۱۷ھ کو بعد نماز صبح سے لے کر ۷ شوال ۱۳۱۷ھ طلوع فجر سے پہلے پہلے مسودہ اور مبیضہ مکمل کر لیا گیا۔ امام احمد رضا اپنے عربی اشعار میں اس کی تفصیل یوں بیان فرماتے ہیں!

فما هو الا شغل عشرين ساعه
ونها الى السجادات والاكل يفرد
فما كان ذالا بتوفيق ربنا
له الحمد حمدا دائما يتابد

یہ استفتاء و فتویٰ تقریباً ۴۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ جب یہ علمائے حریم کے سامنے پیش کیا گیا تو مکہ معظمہ کے ۱۶ اور مدینہ منورہ کے ۷ علماء اعلام (اللہ عزوجل ان پر رحمت و رضوان کی بارشیں برسائے، آمین) نے اس کی تصدیق و توثیق فرمائی۔ حافظ کتب الحرم شیخ اسماعیل بن خلیل مکی کی تصدیق ۲۲ صفحات پر مشتمل ہے جس میں سوالات پر بحث اور جوابات کی تصدیق کے علاوہ امام احمد رضا کو ان کے علم و فضل کی بنا پر خراج عقیدت پیش کیا ہے اور بلند القاب و آداب سے نوازا گیا ہے۔

۲۔ شاہ فضل رسول بدایونی (م۔ ۱۲۸۹ھ/۱۸۷۲ء) کی عربی تصنیف المعتمد المستند (۱۲۷۰ھ/۱۸۵۳ء) پر امام احمد رضا نے المعتمد المستند (۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲ء) کے نام سے عربی میں تعلیقات و حواشی کا اضافہ کیا ہے، ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۶ء میں علمائے حریم کے سامنے پیش کیا گیا جس پر ۳۷ علماء نے اپنی اپنی تقاریظ اور تصدیقات ثبت کیں، ان تعلیقات میں امام احمد رضا نے اپنے بعض معاصرین کی قابل اعتراض نگارشات کا تعاقب کیا ہے اور مطمع نظر پیش کیا ہے، اسی پس منظر میں ۱۳۲۶ھ/۱۹۰۸ء کو امام احمد رضا نے ایک کتاب ”تمہید ایمان بآیات قرآن“ تصنیف فرمائی جس میں قرآنی آیات و احادیث نبویہ کی روشنی میں شان رسالت مآب ﷺ کی جھلک دکھائی ہے۔

۳۔ الدولة المكيه بالمادة الغيبية: چند سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے جو قیام مکہ معظمہ کے زمانے میں ۱۳۲۳ھ میں پیش کئے گئے تھے، اس کتاب کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں مسئلہ علم غیب پر فاضلانہ بحث کی ہے اور حضور ﷺ کے لئے علم غیب ثابت کرتے ہوئے بڑے معقول اور دل نشین انداز سے اپنا موقف بیان کیا ہے، دوسرے حصے میں دیگر چار سوالات ہیں۔

جب یہ کتاب علمائے عرب کے سامنے پیش کی گئی تو انہوں نے بڑی پذیرائی کی اور تقریباً ۷۰ علماء نے اس پر اپنی تصدیقات لکھیں۔ الدولۃ المکیہ ۱۳۲۳ھ میں مکہ معظمہ میں تصنیف فرمائی، ہندوستان واپسی کے بعد ۱۳۲۵ھ میں اس پر حواشی تحریر فرمائے جس کا تاریخی عنوان یہ ہے:

الفيوضات المكيه لمحبا الدولة المكيه (۱۳۲۵ھ)

۴، ۵۔ الاجازات الرضويه لمجل بكة البهيه: (۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء)، الاجازات المتينه لعلماء بكة المدينة (۱۳۲۴ھ/۱۹۰۶ء) ان سندت پر مشتمل ہیں جو امام احمد رضا نے علماء اسلام کو عنایت فرمائیں۔ اس میں وہ خطوط بھی شامل ہیں جو علماء اسلام نے امام احمد رضا کو لکھے۔

۶۔ كفل الفقيه الفاهم في احكام قرطاس الدراهم (۱۳۲۴ھ/۱۹۰۶ء): کی تفصیل یہ ہے کہ قیام مکہ معظمہ کے زمانے میں امام مسجد الحرام مولانا عبداللہ مراد اور ان کے استاد مولانا حامد محمود جدادی نے نوٹ کے متعلق ایک استفتاء امام احمد رضا کے سامنے پیش کیا۔ امام احمد رضا نے اس کے جواب میں ڈیڑھ دن سے کم مدت میں عربی میں رسالہ كفل الفقيه الفاهم تحریر فرمایا۔ جب یہ رسالہ علمائے حرمین کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس کی نقلیں لیں، مثلاً شیخ الآئمہ احمد ابوالخیر مراد حنفی، قاضی مکہ شیخ صالح کمال مکی، حافظ کتب الحرم سید اسمعیل بن خلیل حنفی، مفتی حنفیہ شیخ عبداللہ صدیق وغیرہم۔ امام احمد رضا سے قبل آپ کے استاذ الاساتذہ مفتی اعظم مکہ معظمہ مولانا جمال بن عبداللہ بن عمر حنفی سے بھی نوٹ کے متعلق سوال کیا گیا تھا کہ اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، لیکن انہوں نے جواب سے اعراض فرمایا مگر امام احمد رضا نے شافی

جواب دیا جس پر مفتی حنفیہ عبداللہ بن صدیق پھڑک اٹھے۔

الحاصل یہ کہ اس دور میں امام احمد رضا کی شخصیت بلاد عرب خصوصاً حرمین شریفین میں جانی پہچانی تھی اور ان کے علم و فضل کا عوام و خواص میں چرچا تھا جس کا اندازہ ان تقاریظ اور تاثرات سے ہوتا ہے جو علماء عرب نے امام موصوف رحمۃ تعالیٰ کی مذکورہ کتب پر تحریر کئے ہیں بلکہ ان کے مطالعہ سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ ان علماء یگانہ روزگار کی نظر میں امام احمد رضا کا علمی مقام اس قدر بلند و بالا تھا کہ ان کے معاصرین میں کوئی بھی ان کا ہم پلہ نہ تھا۔ مشت از خروارے چند تاثرات ملاحظہ ہوں:

(۱)۔ علامہ مولانا شیخ صالح کمال مفتی حنفیہ حرم کعبہ فرماتے ہیں کہ!

”فضائل کے دریا، علمائے عمائد کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت مولانا محقق، زمانہ کی

برکت، احمد رضا خاں بریلوی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے“۔ [۵]

(۲)۔ شیخ الخطباء علامہ مولانا شیخ ابو الخیر مراد فرماتے ہیں!

”بے شک وہ علامہ فاضل کہ اپنی آنکھوں کی روشنی سے مشکلوں اور دشواریوں کو حل کرتا

ہے، احمد رضا خاں، جو اسم باسما ہے“۔ [۶]

(۳)۔ علامہ مولانا شیخ عبدالرحمن دھان تحریر کرتے ہیں!

”بالخصوص عالمان کا معتمد، رسوخ والے خلاصوں کا خلاصہ، علامہ زماں، یکتائے

روزگار، جس کے لئے علمائے مکہ معظمہ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ سردار ہے، بے نظیر ہے، امام

ہے، میرے سردار میرے جائے پناہ حضرت احمد رضا خاں بریلوی، اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب

مسلمانوں کو اس کی زندگی سے بہرہ مند فرمائے اور مجھے اس کی روش نصیب کرے کہ اس کی روش

سید عالم ﷺ کی روش ہے“۔ [۷]

(۴)۔ الشیخ محمد مختار بن عطاء الجاوی الہکی فرماتے ہیں!

”بے شک مؤلف اس زمانے میں علماء و محققین کا بادشاہ ہے اور اس کی ساری باتیں

پچی ہیں، گویا وہ ہمارے نبی ﷺ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، جو اس یگانہ امام کے دست مبارک پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ [۸]

(۵)۔ شیخ موسیٰ علی شامی الازہری احمد دردیروی مدنی تحریر فرماتے ہیں!

”امام الائمة المجدد لهذه الامة“ (اماموں کے امام اور اس امت مسلمہ کے

مجدد) [۹]

[۶]۔ شیخ محمد یسین احمد الخیاری مدنی اپنی ایک تحریر میں امام احمد رضا کا مقام علم و فضل

یوں بیان کرتے ہیں!

”هو امام المحدثين“ (وہ امام المحدثین ہیں) [۱۰]

[۷]۔ علامہ مولانا تفضل الحق مکی ان کی وسعت مطالعہ، استحضار علمی و دلائل و براہین

میں گہرائی و گیرائی ملاحظہ کرتے ہوئے انہیں یوں خراج تحسین پیش کرتے ہیں!

”یہ جوابات بتا رہے ہیں کہ مولف، عالم علامہ، فاضل فہامہ ہے اور عمائد میں ایسا ہے

جیسے بدن میں آنکھ“ [۱۱]

غرض کہ امام احمد رضا کا اکابر علماء حرمین شریفین کی نگاہ میں بڑا مرتبہ اور مقام تھا، چنانچہ

ان کی قدر و منزلت کا اندازہ کچھ ان واقعات سے بھی لگایا جاسکتا ہے:

۱۔ مکہ مکرمہ میں شیخ الخطباء، استاذ العلماء، علامہ مولانا الشیخ احمد ابوالخیر مر داد ضعیفی کی وجہ

سے امام احمد رضا کی قیام گاہ پر نہ آسکے، انہوں نے امام احمد رضا کو یاد فرمایا اور ان سے ان کا رسالہ

”الدولۃ المکیہ“ زبانی سماعت فرمایا، رخصت ہوتے وقت امام احمد رضا نے ان کے زانوئے

مبارک کو ادباً ہاتھ لگایا تو آپ نے انہیں مخاطب کر کے بے ساختہ ارشاد فرمایا:

”انا اقبل أرجلكم أنا اقبل نعالکم“

(میں آپ کے قدموں کو بوسہ دوں، میں آپ کی جوتیوں کو چوموں) [۱۲]

۲۔ علامہ مولانا محمد کریم اللہ مدنی علیہ الرحمۃ اپنی یعنی شہادت بیان کرتے ہیں کہ:

”میں ساہا سال سے مدینہ منورہ میں مقیم ہوں، سرزمین ہند اور اکناف عالم ازادوں سے سینکڑوں ہزاروں انسان آتے رہتے ہیں، ان میں علماء صلحاء، اتقیاء سب ہی ہوتے ہیں، میرا مشاہدہ ہے کہ یہ لوگ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا (کہ کون سی شخصیت جا رہی ہے) لیکن ان کی (امام احمد رضا کی) مقبولیت کی عجب شان دیکھی کہ بڑے بڑے علماء اور اکابرین صلحاء آپ کو دیکھتے ہی آپ کی طرف لپکتے چلے آ رہے ہیں اور تعظیم بجا لانے میں عجلت کر رہے ہیں“ [۱۳]

مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ شیخ الاسلام امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ العزیز کی حرین شریفین میں بڑی پذیرائی تھی اور وہاں کے اجلہ علماء، فقہاء، صلحاء اور محدثین کرام میں آپ کی شخصیت اور علمیت معروف تھی اور یہ علماء حرین شریفین ہی تھے جنہوں نے آپ کو ”امام الائمه“، ”المجدد لہدہ الامۃ“ اور ”یگانہ بروزگار“ تسلیم کیا۔

جن دنوں امام احمد رضا (۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء) میں دوسرے حج پر تشریف لے گئے تھے، حرین شریفین اور حجاز مقدس، عثمانیہ سلطنت ترکی کے زیر نگرانی تھا، ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۵ء میں یہود نصاریٰ کی سازشوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ میں شکست و ریخت کا آغاز ہوا، تو صوبہ جات شام و عراق، نجد و مصر کی طرح صوبہ حجاز نے بھی آزاد مملکت ہونے کا اعلان کر دیا اور یہاں ہاشمی حکومت قائم ہوئی۔ پھر ۱۳۳۳ھ/۱۹۲۳ء میں نجد کے حکمران عبدالعزیز ابن سعود نے انگریزوں کی مدد سے حجاز پر قبضہ کر کے سعودی (نجدی و ہابی) حکومت کی بنیاد ڈالی، اس انقلاب میں حرین شریفین کے علماء و صلحاء اہلسنت پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، بہت سے شہید کئے گئے، کچھ آس پاس کے عرب ممالک اور دیگر اسلامی ملکوں کو ہجرت کر گئے، جو بچ رہے ان سے ان کے منصب چھین لئے گئے۔ دونوں مقدس حرموں کی انتظامیہ، نظام تعلیم، مسند افتاء و قضا پر ریاض و نجد سے لائے ہوئے علماء کو قابض کر دیا گیا، تو اب سعودی دور کے ابتدائی ۵۰ سالوں میں حرین شریفین کے اہل سنت

کے ان اجلہ علماء کرام کی مسندوں، مدرسوں اور گھروں کے ویران ہو جانے کی وجہ سے ان کے بے شمار شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد بھی سارے عالم اسلام میں منتشر ہو گئے اور جو بچ رہے، ظلم و جور اور لالچ کے آگے انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور جان و مال اور عزت و آبرو کی امان کی خاطر وہابیت قبول کر لی۔ لہذا اب ان علماء کرام کی حیات اور کارناموں سے متعلق دنیا کو بتانے والا کوئی نہ رہا، لیکن رفتہ رفتہ ان کے پسماندگان، اولاد و احفاد و تلامذہ اور ان کی نسلوں نے حرمین شریفین کے ان جید علماء کے تذکروں کو ضبط تحریر میں لانا شروع کر دیا، جس کے بعد اب اتنا لٹریچر مہیا ہو گیا ہے کہ عثمانی اور ہاشمی دور کے علماء کے حالات منظر عام پر آنے لگے۔ لیکن چونکہ یہ تمام تذکرے عربی میں تھے اس لئے ایک زمانے تک اردو داں طبقہ ان سے استفادہ نہیں کر سکا۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مخالفین اہل سنت، دیوبندیوں اور وہابیوں نے یہ تحریک چلائی کہ جن علماء حرمین شریفین نے امام احمد رضا کی مذکورہ کتب پر تقریظات تحریر کی تھیں یا جو امام موصوف کے مدح خواں اور ہم نوا تھے ان کا علماء عرب میں کوئی مقام نہیں تھا اور دراصل یہ عام شد بد کے لوگ تھے جن کو بطور علماء پیش کیا گیا، کیونکہ اگر واقعی وہ جید علماء ہوتے تو ان علماء کا کسی کتاب میں تو ذکر ملتا؟ ان کی تصنیف کردہ کوئی کتاب تو دستیاب ہوتی؟ جیسا کہ سعودی علماء پر لکھی ہوئی اور ان کی اپنی تصانیف کثرت سے دنیائے عرب میں موجود ہیں۔ پھر یہ بھی دلیل دی جانے لگی کہ یہی وجہ ہے کہ آج علماء عرب خصوصاً حرمین شریفین میں بحیثیت عالم امام احمد رضا کا کوئی تعارف نہیں ہے البتہ ”بدنام بدعتی“ کی حیثیت سے وہ ضرور معروف ہیں۔

ہم جناب محمد بہاء الدین شاہ صاحب کے ممنون ہیں کہ انہوں نے زیر نظر کتاب تالیف فرما کر اس جھوٹ کا پول کھول دیا ہے۔ یہ کتاب ”امام احمد رضا اور علمائے مکہ مکرمہ“ کے نام سے آپ کے سامنے ہے۔ اس کتاب میں مؤلف نے تفصیلاً بتایا ہے کہ متذکرہ علماء افاضل علماء ہی نہیں تھے بلکہ یہ اس دور کے حکومتی اعلیٰ منصبوں پر بھی فائز تھے، جن کے نام یہ ہیں:

شیخ السادات، شیخ العلماء، شیخ الخطباء، امام حرم، خطیب حرم، مدرس حرم، محافظ کتب حرم،

مفتی احناف، مفتی مالکیہ، مفتی شافعیہ، مفتی حنابلہ، مفتی مکہ اور قاضی مکہ وغیرہم۔ ان تمام مناصب کی اہمیت و فضیلت محتاج بیان نہیں کیونکہ خلیفہ عثمانی کی طرف سے متعین امیر مکہ (گورنر مکہ) اعلیٰ اعیان حکومت اور کبار مذہبی شخصیات کے مشوروں سے ان مناصب پر علماء کا تقرر کرتا تھا۔

اس کتاب میں شاہ صاحب نے امام احمد رضا کے اساتذہ، خلفاء، تلامیذ، مقررین (ان کی مذکورہ بالا کتب پر تقریظات لکھنے والے) اور متوسلین علماء اور دیگر اہم اجلہ علماء اہل سنت کی حیات اور تصنیفی، تدریسی اور تحقیقی کارناموں کا محققانہ انداز میں تمام سیاق سباق کے ساتھ ذکر کیا ہے، یہ کتاب چھ ابواب پر مشتمل ہے۔

باب اول۔	فاضل بریلوی اور علماء مکہ مکرمہ
باب دوم۔	فاضل بریلوی اور علماء مرداد
باب سوم۔	فاضل بریلوی اور مفتی مالکیہ شیخ حسین مکی الازہری کا خاندان
باب چہارم۔	فاضل بریلوی اور امام ابراہیم دھان مکی کا خاندان
باب پنجم۔	فاضل بریلوی شیخ الاسلام محمد سعید باصیل مکی شافعی
باب ششم۔	فاضل بریلوی اور مکہ مکرمہ کے کمال علماء

مؤلف موصوف نے سینکڑوں قدیم و جدید عربی کتب و رسائل کے علاوہ پرانے ماخذ اور مخطوطات اور اردو کتب و رسائل سے بھی استفادہ کیا ہے۔ فہرست ماخذ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ مؤلف ممدوح نے حقائق کی چھان بین میں بڑی محنت اور جانفشانی سے کام لیا ہے۔ جو تفصیل یا متعلقہ ذیلی واقعات اصل متن میں بیان نہ ہو سکیں اسے اشاریات کے ساتھ ”حوالے اور حواشی“ کے تحت بیان کیا ہے۔ قاری کی سہولت کے لئے ان مزید ماخذ کا ذکر بھی کیا ہے جہاں سے موضوع سے متعلق مزید معلومات مہیا ہو سکتی ہیں، گویا انداز تحریر نہایت سادہ، محققانہ تسلسل اور تاریخی تواتر کے ساتھ ہے، مؤلف ممدوح نے بڑی متانت اور تحقیق سے اس دور کا سیاسی نقشہ بھی پیش کیا ہے اور اس دور کے علماء حرمین شریفین (جو سارے کے سارے اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتے

تھے) کے سرزمین حجاز سے بے دخلی اور تذلیل و تضحیک کے اسباب و علل پر بحث کی ہے۔
 امام احمد رضا کے علماء حرمین شریفین سے رابطے تلاش کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت محنت کی ہے اور جہاں کہیں بھی کسی تحریر میں کوئی اشارہ بھی نظر آیا تو انہوں نے اس کا ذکر کر کے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ گذشتہ سو سال کے علماء حرمین شریفین پر جتنے تذکرے سعودی دور میں لکھے گئے یا پرانے مخطوطات اب تک شائع کئے گئے، ان میں قصداً عقائد اہل سنت اور بعض اہم شخصیات اہل سنت کے ذکر کو یا تو بالکل حذف کر دیا گیا یا تحریف شدہ انداز میں بیان کیا گیا ہے، لیکن مؤلف ممدوح نے دورانِ مطالعہ اس تحریف و تحذیف کو بھانپ لیا اور نہایت دیانت داری و متانت کے ساتھ اصل حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے، مثلاً فاضل بریلوی کے خلیفہ امام حرم علامہ مولانا شیخ عبداللہ ابوالخیر مراد علیہ الرحمہ کی مایہ ناز تصنیف ”نشر النور والذہر“ کا تعارف کراتے ہوئے تحریر کرتے ہیں:

”یہ کتاب مکہ مکرمہ میں خدمت انجام دینے والے گذشتہ پانچ صدیوں کے علماء کرام کے حالات پر مشتمل ہے..... اور یہ بجا طور علامہ تقی الدین فاسی (م۔ ۸۳۳ھ) کی کتاب ”العقد الشمین فی تاریخ البلد الامین“ (مطبوعہ مصر ۱۳۷۹ھ/۱۹۵۹ء) جس میں مکہ مکرمہ کے (ابتداء اسلام سے لے کر ان کے دور تک کے) آٹھ سو علماء کے حالات درج ہیں، اس کے بعد اہم ترین کتاب ہے۔“

آگے چل کر مؤلف موصوف نے بتایا کہ یہ مخطوطہ جو بہت ضخیم تھا اس کو من و عن شائع کرنے کی بجائے سعودی علماء کی کمیٹی نے اس کا اختصار شائع کرنے کا فیصلہ کیا جو سات سال میں تیار ہوا اور ایسا انہوں نے کیوں کیا، وہ بہاء الدین شاہ صاحب کی زبانی سنئے:

”یہ دونوں قلمکار (جو اس کا خلاصہ تیار کر رہے تھے) اپنے مخصوص نظریات کے تناظر میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے ایسے مواد جو غیر مفید یا تکرار پر مبنی تھا، نیز اس میں

درج ایسی حکایات واقوال جو بلاسند تھے اور اس میں موجود بکثرت مواد جو مبالغہ آمیز تھا، سب نکال دیا ہے اور پھر ہم نے اس کتاب کو نئے سرے سے مرتب کیا، اس پر تحقیق کی، حواشی لکھے اور ارقام درج کئے۔

قارئین کرام! اس اجمال میں آپ نے پوری تفصیل ملاحظہ فرمائی، گویا مصنف کی اصل کتاب کا صرف اس لئے حلیہ بگاڑ دیا گیا کہ وہ اہل سنت کے علماء کے کارناموں اور ان کے عقائد کے ذکر سے بھری ہوئی تھی، علمی بددیانتی اور اصل متون میں تحریف والحاقت کی ایسی بدترین مثال وہ بھی تحقیق کے نام پر شاید ہی کہیں ملے۔

اس پس منظر میں اختتامی سطور میں مزید لکھتے ہیں!

”اس کتاب نے جن ہاتھوں سے گزر کر طباعت کے مراحل طے کئے، اس بنا پر مطبوعہ نسخے میں مصنف کے مرشد فاضل بریلوی کا کسی بھی حوالے سے تفصیلی ذکر نہ ہونا تعجب کی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں ایک مقام پر ایک سطر میں آپ کا ذکر آ گیا ہے، جس سے مصنف اور فاضل بریلوی کے درمیان تعلق اور اس کی نوعیت بخوبی عیاں ہے، شیخ عبداللہ ابوالخیر مراد لکھتے ہیں:

”شیخنا العلامة احمد رضا خاں بریلوی“

”ہمارے شیخ علامہ احمد رضا خاں“ (رحمۃ اللہ تعالیٰ)

غرضیکہ اس وقت پاک و ہند، بنگلہ دیش اور قاہرہ و بغداد کی اور دیگر عالمی جامعات اور تحقیقی اداروں میں کام کرنے والے محققین جو امام احمد رضا کے عرب اساتذہ اور خلفاء و تلامذہ کے احوال و آثار کے متلاشی تھے، انہیں زیر نظر کتاب کے متن اور اس میں درج مآخذ و مراجع میں بڑی معلومات مل جائیں گی۔

ہم مولف ممدوح محترم بہاء الدین شاہ صاحب کو ان کے اس تحقیقی اور تصنیفی کارنامے پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے ان سے امتنان و تشکر کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے اردو زبان

میں تیرھویں، چودھویں صدی ہجری کے علماء مکہ مکرمہ کے احوال پر ایک مفید تاریخی کتاب تالیف فرما کر خصوصاً ”رضویات“ کے حوالے سے ایک اہم تحقیقی پیش رفت کی ہے، اللہ تعالیٰ مؤلف ممدوح کو جزائے جزیل عطا فرمائے اور ان کے علم و فضل میں مزید اضافہ فرمائے۔

آمین و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علیٰ آلہ

و صحبہ اجمعین۔

<http://t.me/Tehqiqat>

حوالہ جات

- [۱]- حسام الحرمین، مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ، کراچی ۲۰۰۰ء، ص ۶۲
- [۲]- محمد مسعود احمد، ڈاکٹر، امام احمد رضا اور عالم اسلام، مطبوعہ ادارہ مسعودیہ، کراچی ۱۴۲۰ھ/۲۰۰۰ء، ص ۱۲
- [۳]- رحمن علی، تذکرہ علماء ہند (فارسی)، مطبوعہ لکھنؤ ۱۹۱۴ء۔ ص ۱۵، ۱۶، بحوالہ امام احمد رضا اور عالم اسلام، ص ۱۴، ۱۵
- [۴]- محمد مسعود احمد، ڈاکٹر، امام احمد رضا اور عالم اسلام، ص ۱۸
- ☆ رضا فاؤنڈیشن لاہور نے ۲۲ رمضان ۱۴۲۲ھ/نومبر ۲۰۰۱ء کو ”الدولتہ المکیہ“ کا جدید عربی اڈیشن حواشی اور تخریجات کے ساتھ شائع کیا ہے اور ”الفیوضات المکیہ“ کو اس میں بطور تعلیقات شامل کیا ہے اور اس کا سن تحریر ۱۳۲۶ھ لکھا ہے۔ (وجاہت)
- [۵]- حسام الحرمین (اردو) مطبوعہ مکتبہ نبویہ لاہور ۱۴۱۰ھ/۱۹۸۹ء، ص ۲۵
- [۶]- ایضاً، ص ۲۳ [۷]- ایضاً، ص ۲۶
- [۸]- احمد رضا خاں، امام، الدولتہ المکیہ، مطبوعہ مؤسسۃ رضا، الجامعۃ النظامیۃ الرضویہ، لاہور ۱۴۲۲ھ/۲۰۰۱ء، ص ۱۶۶
- [۹]- ایضاً، ص ۲۰۳
- [۱۰]- احمد رضا خاں، امام، رسائل رضویہ، مرتبہ مولانا محمد عبدالحکیم شاہ جہان پوری، مطبوعہ لاہور، ج ۱، ص ۱۳۸
- [۱۱]- ایضاً، ج ۱، ص ۱۳۶ [۱۲]- احمد رضا خاں، امام، المملقوظ، ج ۱، ص ۱۰
- [۱۳]- احمد رضا خاں، امام، رسائل رضویہ، ص ۲۵۴، بحوالہ ”امام احمد رضا خاں اور عالم اسلام، ص ۶۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلا حصہ

فاضل بریلوی اور علماء مکہ مکرمہ

ام القریٰ مکہ مکرمہ، جہاں بیت اللہ و مسجد الحرام، میزابِ رحمت، مقام ابراہیم، جبل صفا و مروہ، جبل ابوقبیس، چاہ زم زم، غار حراء و غار ثور واقع ہیں، اسی شہر مقدس میں خاتم النبیین، سید المرسلین، حبیب رب العالمین سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، یہیں پر آپ مبعوث فرمائے گئے اور بنی آدم کو اسلامی عقائد پر مطلع فرمایا، یہیں سے سفر معراج کا آغاز ہوا، اور اسی شہر مقدس کے پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔

مولانا احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۷۲ھ - ۱۳۳۰ھ / ۱۸۵۶ء - ۱۹۲۱ء) دوبار اس شہر بلد الحرام میں حاضر ہوئے، پہلی بار ۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۸ء میں اور دوسری بار ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۵ء میں، چودھویں صدی ہجری میں مکہ مکرمہ کن حکومتوں کے دور سے گزرا، اس دوران وہاں مذہبی تعلیم کے کون سے ذرائع رائج رہے، اہل مکہ مکرمہ کن معتقدات و افکار پر عمل پیرا ہیں، ذیل کی سطور میں اس کا سرسری جائزہ پیش ہے۔

اس بلد الحرام میں چند خاندان ایسے آباد ہیں جن میں نسل در نسل علماء و مشائخ نے جنم لیا اور ان سے پورا عالم اسلام فیض یاب ہوتا رہا، چودھویں صدی ہجری کے نصف اول میں مکہ مکرمہ پر بالترتیب تین خاندانوں عثمانی، ہاشمی اور سعودی کی حکمرانی رہی، اس دوران وہاں پر جو خاندان علم و فضل کے اعتبار سے عروج پر رہے ان میں مرداد، عجمی، خو قیر، ریس، کتھی، شطا، عبدالشکور بیت المال، زواوی، کمال، مالکی، بن حمید، صدیق، فقیہ، مفتی، کردی، حریری، جمل اللیل، تقی، جی، بسیونی، قلعی، دحلان، حبشی، بابصیل [۱]، غمری اور دھان خاندانوں کے نام اہم ہیں۔ [۲]

عثمانی عہد

ترکی کے عثمانی خاندان نے ۹۲۳ھ - ۱۳۳۵ھ / ۱۵۱۷ء - ۱۹۱۶ء تک مکہ مکرمہ سمیت پورے حجاز مقدس پر تقریباً چار صدیوں تک حکمرانی کی، اس دوران وہاں پر فروغِ تعلیم کے چار ذرائع رائج تھے، اولاً مسجد الحرام میں حکومت کی طرف سے علماء کرام کے حلقاتِ دروس قائم تھے، دوسرا اہل خیر کے تعاون سے شہر کے مختلف محلوں میں دینی مدارس رو بہ عمل تھے، تیسرا ااکابر علماء کرام کے گھر مدارس کی صورت اختیار کئے ہوئے تھے اور چوتھا ذریعہ تعلیم کتاب کا تھا۔

عثمانی دور کی مسجد الحرام میں درس و تدریس کا سلسلہ پورے عروج پر تھا، جس کے نتیجہ میں لاتعداد علماء تیار ہوئے اور انہوں نے خدمتِ اسلام میں اہم مقام پایا، ۱۳۰۳ھ / ۱۸۸۵ء میں حکومت کی طرف سے مشاہرہ پر مسجد الحرام کے مدرسین کے چھ درجے مورر تھے، ان میں درجہ اول کے بارہ، درجہ دوم کے چھ، درجہ سوم کے اٹھائیس، درجہ چہارم و پنجم کے چار چار اور اڑتالیس نائب مدرسین تھے، اس طرح مذاہبِ اربعہ سے تعلق رکھنے والے کل ایک سو دو علماء کرام مسجد الحرام کے اندر مقرر کردہ مقامات پر مختلف اسلامی علوم کی تعلیم دینے میں مصروف تھے [۳]۔ ان حلقاتِ دروس میں فقہ وغیرہ دینی علوم کے علاوہ نھو، صرف، فلک، منطق پڑھائی جاتی اور بعض اوقات ان حلقات کی تعداد ایک سو بیس تک پہنچ جاتی جس سے مسجد میں دن رات طالبانِ علم کا ازدحام دیکھنے میں آتا۔ [۴]

عمر عبدالجبار کی (۱۳۲۰ھ - ۱۳۹۱ھ) جنہوں نے مسجد الحرام میں متعدد علماء کے دروس میں شرکت کی بعد ان کا خلاصہ اپنی کتاب میں درج کیا، آپ لکھتے ہیں کہ مسجد الحرام کے مدرسین حکومت سے تنخواہ پانے، طلباء اور اہل خیر سے صدقہ و زکوٰۃ یا کسی بھی قسم کی مالی مدد کی طلب سے بے نیاز ہو کر فی سبیل اللہ تعلیم دیتے رہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ان علماء نے جب وفات پائی تو اپنے ترکہ میں اچھی یاد کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا۔ [۵]

تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ ترین سند کے لئے امتحان کا مرحلہ آتا جس کے لئے حکومت کی طرف سے علماء کرام کا ایک بورڈ مقرر کیا جاتا [۶] جو فارغ التحصیل علماء سے توحید، فقہ، نحو، معانی، بیان، بدیع، منطق، صرف، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث اور تفسیر کے علوم و فنون میں امتحان لیتا اور کامیابی حاصل کرنے والے علماء کرام کو سند دی جاتی جس پر گورنر مکہ، مذاہب اربعہ کے مفتی اور اکابر علماء کی مہریں لگی ہوتیں، ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۴ء میں یہ سند گورنر مکہ مکرمہ حسین بن علی ہاشمی (۱۲۷۰ھ-۱۳۵۰ھ/۱۸۵۴ء-۱۹۳۱ء) اور [۷] چیف جسٹس مکہ شیخ عبداللہ سراج حنفی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۹۶ھ-۱۳۶۸ھ/۱۸۷۸ء-۱۹۴۹ء) کے علاوہ مسجد الحرام سے وابستہ دیگر اکابر علماء کرام کے دستخطوں سے مزین ہوتی تھی [۸] یہی شیخ عبداللہ سراج بعد ازاں اردن کے وزیر اعظم رہے اور آپ نے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشہور تالیف ”الدولۃ المکیہ“ پر تقریظ لکھی جو مطبوع ہے [۹]۔ غرض کہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ اس سند کی بڑی اہمیت تھی، مسجد الحرام میں علماء کرام سے متعلق تمام مناصب یعنی شیخ العلماء، چاروں مذاہب حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کے لئے ایک ایک مفتی، شیخ الخطباء والائمہ، چاروں مذاہب کے لئے آئمہ، خطیب، مدرس، نائب مدرس اور نائب امام پر تعیناتی کے لئے یہ سند بنیاد تھی، حسین بن عبداللہ باسلامہ مکی (۱۲۹۹ھ-۱۳۵۹ھ) اپنی تصنیف ”تاریخ عمارة المسجد الحرام“ میں لکھتے ہیں کہ اس دور کی مسجد الحرام میں پچاس خطباء اور ایک سو بیس آئمہ کی بیک وقت موجودگی کے شواہد محکمہ اوقاف کے ریکارڈ سے ملتے ہیں [۱۰]۔ اس دران مسجد الحرام سے وابستہ اہم علماء کرام کے مناصب اور مسلک اہل سنت کی تائید میں ان کی تحریروں کا مختصر تعارف یہ ہے۔

☆۔ علامہ شیخ سید احمد بن زینی دحلان مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام، مدرس، مفتی شافعیہ

(۱۲۳۲ھ-۱۳۰۴ھ/۱۸۱۷ء-۱۸۸۶ء)، آپ نے متعدد کتب تصنیف کیں، نیز عالم اسلام کے

لا تعداد اکابر علماء و مشائخ نے آپ سے استفادہ کیا اور آپ شیخ الاسلام کہلائے، مولانا احمد رضا خاں

بریلوی، زبدۃ الفصلاء مولانا غلام حسین چکوالوی (۱۲۳۴ھ-۱۳۰۵ھ/۱۸۲۱ء-۱۸۸۸ء)

جیسے اکابر علماء نے آپ کی شاگردی کا شرف حاصل کیا، علامہ دحلان مکی کی ایک اہم تصنیف ”

الدرر السیہ فی الرد علی الوہابیہ“ ۱۲۹۹ھ میں قاہرہ (مصر) میں شائع ہوئی۔ [۱۱]

☆۔ علامہ شیخ سید حسین بن صالح جمل اللیل مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام، خطیب، شیخ

الخطباء والائمة (م۔ ۱۳۰۵ھ/ ۱۸۸۷ء)، آپ نے فاضل بریلوی کو اپنے گھر مدعو کیا اور جمیع علوم

اسلامیہ میں سند اجازت عطا کی، بعد ازاں فاضل بریلوی نے مناسک حج و زیارت سے متعلق

آپ کی ایک تصنیف کی شرح لکھی۔ [۱۲]

☆۔ شیخ عبدالرحمن سراج حنفی مکی رحمۃ اللہ علیہ، امام، خطیب، مفتی احناف، مدرس

(۱۲۲۹ھ۔ ۱۳۱۲ھ/ ۱۸۳۳ء۔ ۱۸۹۶ء)، آپ نے اسلامی عقائد و احکامات پر چار ضخیم جلدوں پر

مشتمل مجموعہ فتاویٰ ”ضوء السراج علی جواب المحتاج“ یادگار چھوڑا، فاضل بریلوی نے آپ کے

سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا۔ [۱۳]

☆۔ علامہ شیخ سید ابوبکر بن سالم البار مکی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس، فقیہ (۱۳۰۱ھ۔

۱۳۸۲ھ/ ۱۸۸۳ء۔ ۱۹۶۳ء) تصوف کے اہم پیر طریقت، فاضل بریلوی کے خلیفہ۔ [۱۴]

☆۔ علامہ شیخ سید ابوبکر شطا شافعی مکی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس (م۔ ۱۳۱۰ھ)، صوفیاء کرام

کی تعلیمات پر کتاب ”ہدایۃ الاذکیاء الی طریقۃ الاولیاء“ تالیف کی۔ [۱۵]

☆۔ علامہ شیخ ابوالخیر مراد مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، امام، خطیب، مدرس، شیخ الخطباء

والائمة (۱۲۵۹ھ۔ ۱۳۳۵ھ/ ۱۸۲۳ء۔ ۱۹۱۶ء) ”الدولۃ المکیہ“ اور ”حسام الحرمین“ پر تقریظ قلم

بند کی، آپ کی خواہش پر فاضل بریلوی نے الدولۃ المکیہ میں بعض مباحث کا اضافہ کیا۔ [۱۶]

☆۔ شیخ احمد حضراوی منصوری مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس (۱۲۵۲ھ۔ ۱۳۲۷ھ/

۱۸۳۶ء۔ ۱۹۰۹ء)، فاضل بریلوی کے خلیفہ، آپ نے فضائل مدینہ منورہ اور زیارت روضہ رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب ”نفحات الرضی والقبول فی فضائل المدینۃ و زیارۃ الرسول“ تالیف

کی۔ [۱۷]

☆ - شیخ احمد بن ضیاء الدین مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ

اللہ علیہ کے خلیفہ، حسام الحرمین کے مقرر۔ [۱۸]

☆ - قاری شیخ احمد بن عبداللہ مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۰۹ھ - ۱۳۵۹ھ / ۱۸۹۱ء -

۱۹۳۰ء)، آپ کے والد ماجد مکہ مکرمہ میں شیخ القراء تھے، آپ کا پورا گھرانہ حضرت پیر مہر علی شاہ

گوڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل تھا، حضرت گوڑوی نے شیخ احمد مکی کو علوم عقلیہ و

نقلیہ اور دیہی اور ادواذ کار میں سند اجازت عطا فرمائی۔ [۱۹]

☆ - شیخ احمد ناصرین مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس (۱۲۹۹ھ - ۱۳۷۰ھ / ۱۸۸۱ء -

۱۹۵۰ء) فاضل بریلوی کے خلیفہ۔ [۲۰]

☆ - شیخ اسد دھان مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس (۱۲۸۰ھ - ۱۳۳۸ھ / ۱۸۶۳ء -

۱۹۱۹ء)، الدولۃ المکیہ و حسام الحرمین کے مقرر، فاضل بریلوی کے خلیفہ مجاز۔ [۲۱]

☆ - علامہ شیخ سید اسمعیل بن خلیل رحمۃ اللہ علیہ، مکتبہ حرم کے ناظر، الدولۃ المکیہ و

حسام الحرمین کے مقرر، فاضل بریلوی کے خلیفہ، آپ کے بھائی علامہ سید مصطفیٰ بن خلیل رحمۃ اللہ

علیہ بھی آپ کے خلیفہ اور آپ کے والد فاضل بریلوی کے احباب میں سے تھے۔ [۲۲]

☆ - شیخ جمال مکی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس (۱۲۸۵ھ - ۱۳۳۹ھ / ۱۸۶۸ء -

۱۹۳۰ء)، الدولۃ المکیہ و حسام الحرمین کے مقرر، فاضل بریلوی کے خلیفہ۔ [۲۳]

☆ - شیخ حسن بن عبدالرحمن عجمی مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس (۱۲۸۹ھ - ۱۳۶۱ھ /

۱۸۷۲ء - ۱۹۳۲ء) فاضل بریلوی کے خلیفہ۔ [۲۴]

☆ - علامہ شیخ سید حسین بن صادق دحلان مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس، امام

(۱۲۹۳ھ - ۱۳۳۰ھ / ۱۸۷۷ء - ۱۹۲۱ء) فاضل بریلوی کے خلیفہ۔ [۲۵]

☆ - شیخ خلف بن ابراہیم جنبلی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی حنابلہ، مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ

اللہ علیہ کی کتاب "تقدیس الوکیل عن توہین الرشید و الخلیل" پر تقریظ قلم بند فرمائی۔ [۲۶]

☆ - مولانا رحمت اللہ کیرانوی مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ، آپ کا ذکر آئندہ سطور میں

آ رہا ہے۔

☆ - شیخ صالح بافضل مکی شافعی رحمتہ اللہ علیہ، مدرس (۱۲۷۷ھ - ۱۳۳۳ھ / ۱۸۶۰ء -

۱۹۱۳ء)، الدولتہ المکیہ وحسام الحرمین پر تقيظ لکھی۔ [۲۷]

☆ - شیخ صالح کمال مکی حنفی رحمتہ اللہ علیہم مدرس، امام، خطیب، مفتی احناف، شیخ

العلماء (۱۲۶۳ھ - ۱۳۳۲ھ) سانحہ کربلا پر ایک کتاب لکھی، نیز حیلہ اسقاط کے موضوع پر ”القول

المختصر المفید لأهل الانصاف فی بیان الدلیل لعمل اسقاط الصلاة والصوم المشهور عند الاحناف“ لکھی

جو ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۰ء کو مکہ مکرمہ سے شائع ہوئی، الدولتہ المکیہ، حسام الحرمین اور تقدیس الوکیل پر

تقریظات موجود ہیں، فاضل بریلوی کے خلیفہ۔ [۲۸]

☆ - شیخ عبد الحمید قدس مکی شافعی رحمتہ اللہ علیہ، امام، مدرس (۱۲۸۰ھ - ۱۳۳۲ھ /

۱۸۶۳ء - ۱۹۱۵ء)، زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ”الذخائر القدسیہ فی زیارة خیر البریة“

[۲۹] اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ”بلوغ المرام فی مولد النبی علیہ الصلاة والسلام“

لکھی۔ [۳۰]

☆ - شیخ عبدالرحمن دھان مکی حنفی رحمہ اللہ علیہ، مدرس (۱۲۸۳ھ - ۱۳۳۷ھ /

۱۸۶۶ء - ۱۹۱۸ء)، الدولتہ المکیہ اور حسام الحرمین کے مقررظم فاضل بریلوی کے خلیفہ۔ [۳۱]

☆ - علامہ سید عبدالکریم داغستانی مکی شافعی رحمتہ اللہ علیہ، مدرس (۱۲۶۷ھ -

۱۳۳۸ھ / ۱۸۵۰ء - ۱۹۱۹ء) آپ سے لاتعداد علماء کرام بالخصوص مدرسین نے استفادہ کیا اور

آپ ”الامام الکبیر“ کہلائے، حسام الحرمین پر تقریظ لکھی۔ [۳۲]

☆ - شیخ عبداللہ ابوالخیر مراد مکی حنفی رحمتہ اللہ علیہ، مدرس، امام، خطیب، شیخ الخطباء

والآئمہ (۱۲۸۵ھ - ۱۳۳۳ھ / ۱۸۶۸ء - ۱۹۲۳ء)، دسویں سے چودھویں صدی ہجری تک کے اہم

علماء مکہ مکرمہ کے حالات و کرامات پر ”نشر النور والزهرة“ جیسی اہم کتاب تصنیف فرمائی جس میں

فاضل بریلوی کا ذکر خیر کیا، آپ کے استفتاء کے جواب میں فاضل بریلوی نے ”کفل الفقہ الفہم فی احکام قرطاس الدرہم“ (کرنسی نوٹ کی شرعی حیثیت کے موضوع پر) تصنیف کی، آپ حجاز مقدس میں آل سعود کے برپا کردہ انقلاب کے دوران طائف میں شہید کئے گئے، فاضل بریلوی کے خلیفہ۔ [۳۳]

☆۔ شیخ عبداللہ بن حمید عنیزی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس، امام، مفتی حنابلہ (۱۲۹۰ھ۔ ۱۳۲۶ھ/۱۸۷۳ء۔ ۱۹۲۷ء)، آپ مفتی حنابلہ شیخ محمد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۳۶ھ۔ ۱۲۹۵ھ/۱۸۲۱ء۔ ۱۸۷۸ء) صاحب ”السب الوابلۃ فی طبقات الحنابلۃ“ کے پوتے ہیں، الدولۃ المکیہ پر تقریظ لکھی۔ [۳۴]

☆۔ شیخ عبداللہ سراج حنفی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس، مفتی احناف (م۔ ۱۹۴۹ء) الدولۃ المکیہ کے مقرظ۔

☆۔ علامہ شیخ سید عبداللہ دحلان مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام، مدرس (۱۲۹۱ھ۔ ۱۳۰۶ھ/۱۸۷۴ء۔ ۱۹۴۱ء)، انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور اور بعض عرب ممالک میں مدارس اسلامیہ قائم کئے، انڈونیشیا میں وفات پائی، فاضل بریلوی کے خلیفہ، الدولۃ المکیہ کے مقرظ۔ [۳۵]

☆۔ شیخ علی بن صدیق کمال مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس (۱۲۵۳ھ۔ ۱۳۳۵ھ/۱۸۳۷ء۔ ۱۹۱۶ء)، الدولۃ المکیہ وحسام الحرمین کے مقرظ۔ [۳۶]

علامہ شیخ سید علوی بن احمد سقاف مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ السادۃ العلویہ (۱۲۵۵ھ۔ ۱۳۳۷ھ/۱۸۳۹ء۔ ۱۹۱۸ء)، آپ نے ”القول الجامع النجیح فی احکام صلاۃ التسبیح“ کے علاوہ زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھی۔ [۳۷]

☆۔ علامہ شیخ سید علوی بن عباس مکی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس (۱۳۲۸ھ۔ ۱۳۹۱ھ/۱۹۱۰ء۔ ۱۹۷۱ء)۔ آپ نے ”مجموع فتاویٰ و رسائل“ میں اختلافی مسائل نماز کے بعد دعا، تلقین میت، قبر والہ ماجدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سماع موتی وغیرہ

پر دلائل پیش کئے [۳۸]۔ آپ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۱۰ھ۔
 ۱۳۰۲ھ/۱۸۹۲ء۔۱۹۸۱ء) کے خلیفہ اور قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین قادری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ
 علیہ (۱۲۹۲ھ۔۱۳۰۱ھ/۱۸۷۷ء۔۱۹۸۱ء) کے اراتمندوں میں شامل ہیں۔ [۳۹]

☆۔ شیخ عمر بن ابی بکر باجنید حضرمی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس، مفتی شافعیہ

(۱۲۶۳ھ۔۱۳۵۳ھ/۱۸۴۶ء۔۱۹۳۵ء)، الدولۃ المکیہ وحسام الحرمین کے مقرر۔ [۴۰]

☆۔ شیخ عمر بن حمدان محرمی تیوسی مکی مدنی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس (۱۲۹۲ھ۔

۱۳۶۸ھ/۱۸۷۵ء۔۱۹۹۳ء)، آپ ”محدث حرمین شریفین“ کے لقب سے مشہور ہوئے، فاضل
 بریلوی سے خلافت پائی اور حسام الحرمین پر تقریظ لکھی۔ [۴۱]

☆۔ علامہ سید محمد حامد بن احمد جداوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس (۱۲۷۷ھ۔۱۳۳۲ھ/

۱۸۶۱ء۔۱۹۲۳ء)، جامعہ الازہر میں تعلیم پائی، ”کفل الفقیہ“ کی تصنیف کے محرک اور حسام
 الحرمین کے مقرر۔ [۴۲]

☆۔ شیخ محمد سعید باصیل حضرمی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس، مفتی شافعیہ (۱۲۳۵ھ۔

۱۳۳۰ھ/۱۸۲۹ء۔۱۹۱۱ء) آپ ”شیخ الاسلام“ کے لقب سے معروف ہوئے، رد و عاہدیت پر ایک
 کتاب تصنیف کی، تقدیس الوکیل، الدولۃ المکیہ وحسام الحرمین پر تقریظات قلم بند کیں۔ [۴۳]

☆۔ شیخ محمد عابد مالکی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس، مفتی مالکیہ (۱۲۷۵ھ۔۱۳۳۱ھ/

۱۸۵۸ء۔۱۹۲۲ء)، وسیلہ کے موضوع پر ایک کتاب لکھی، تقدیس الوکیل، الدولۃ المکیہ اور حسام
 الحرمین پر تقریظات موجود ہیں۔ [۴۴]

علامہ پروفیسر ڈاکٹر سید محمد بن علوی مکی مالکی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۶۲ھ۔۱۳۲۵ھ/

۱۹۲۳ء۔۲۰۰۴ء) آپ نے عقائد اہل سنت کی توضیح و تشریح پر حوالہ الاحفال بالمولد النبوی
 الشریف، الذخائر الحمدیہ، اور مفہیم حجب ان تصحیح جیسی اہم کتب لکھیں، جن کے اردو تراجم شائع
 ہو چکے ہیں ۱۳۱۹ھ/۱۹۹۸ء میں اس موضوع پر آپ کی تازہ تصنیف ”منہج السلف فہم النصوص بین

النظریۃ والتطبیق“ ۶۲۳ صفحات پر مشتمل منظر عام پر آئی، علاوہ ازیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلاف کی اہم کتب پر تحقیق کر کے انہیں شائع کیا، مکہ مکرمہ کے ایک قلم کار زہیر محمد جمیل کتبی (پ۔ ۱۳۷۵ھ/۱۹۵۵ء) نے آپ کے حالات و خدمات پر ایک ضخیم کتاب ”الما لکی عالم الحجاز“ لکھی جو مصر سے شائع ہوئی اور اس میں آپ کو پندرہویں صدی ہجری کا مجدد قرار دیا گیا، مولانا ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ۔ [۴۵]

☆۔ شیخ محمد علی مکی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس، مفتی مالکیہ (۱۲۸۶ھ۔ ۱۳۶۷ھ/۱۸۶۹ء۔ ۱۹۲۸ء)، آپ امام انخوین، سیبویۃ العصر اور سکا کی زماں کے القاب سے جانے گئے، مختلف موضوعات پر ۴۴ سے زائد کتب تصنیف کیں، جن میں مسلک اہل سنت کی ترجمانی کی، چند کے نام یہ ہیں: انتصار الاعتصام بمعتمد کل مذهب من مذاہب الائمة الاعلام، سعادة الدارين بنجاة الابوين، الصارم المبيد لمنكر حكمة التقليد، ضياء الافلاك بحديث لولاك لما خلقت الافلاك، القواطع البرهانية في بيان افك غلام احمد و اتباعه القاديانية، المقصد السديد في بيان خطاء الشوكاني فيما افتتح به رسالة القول المفيد، الورد العلوي، اور الهدى التام في موارد المولد النبوي وما اعتيد فيه من القيام۔ الدولته المكيه و حسام الحرمين پر تقارین لکھیں اور فاضل بریلوی سے خلافت پائی نیز آپ کی مدح میں ساٹھ اشعار کا قصیدہ لکھا جو آخر الذکر کتاب میں مطبوع ہے۔ [۴۶]

☆۔ شیخ محمد مراد قازانی مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء)، آپ نے مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی (شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ) کا عربی ترجمہ کیا جو مکہ مکرمہ سے شائع ہوا۔ [۴۷]

☆۔ علامہ سید محمد مرزوقی ابو حسین مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، امام مدرس (۱۲۸۴ھ۔ ۱۳۶۵ھ/۱۸۶۷ء۔ ۱۹۲۶ء) آپ ”ابو حنیفہ صغیر“ کے لقب سے ملقب ہوئے، الدولتہ المکیہ و

حسام الحرمین پر تقریظات لکھیں نیز فاضل بریلوی سے خلافت پائی جس کا ذکر ان الفاظ میں کیا: وقد اجازنی الاجازة العامة العظيمة النفع، مولانا برکتہ الوجود وزینۃ الدنیا، تاج العلماء الاعلام، صاحب التالیف الكثيرة، والفصائل الشهيرة المولوی الحاج احمد رضا خان البریلوی رحمہ اللہ رحمۃ واسعة۔ [۴۸]

☆۔ شیخ محمد یوسف خیاط مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس، انڈونیشیا میں وفات پائی، ماہر فلکیات، الدولۃ المکیہ وحسام الحرمین پر تقاریر موجود ہیں۔ [۴۹]

☆۔ شیخ محمود شکری نقشبندی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، ناظر مکتبہ مسجد الحرام، مدرس (۱۲۳۳ھ - ۱۳۰۴ھ / ۱۸۱۷ء - ۱۸۸۶ء) آپ نے مشائخ نقشبندیہ کی تعلیمات پر کتاب لکھی۔ [۵۰]

☆۔ شیخ مختار بن عطار دجاوی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس (۱۲۷۸ھ - ۱۳۴۹ھ / ۱۸۶۱ء - ۱۹۳۰ء)، عارف باللہ، آپ کے حلقہ درس میں چار سو تک علماء و طلباء بیک وقت دیکھنے میں آئے، الدولۃ المکیہ پر تقریر لکھی۔ [۵۱]

گزشتہ سطور میں چودھویں صدی ہجری کی مسجد الحرام میں مختلف مناصب عالیہ پر فائز صف اول کے اکتالیس علماء کرام کا فاضل بریلوی سے تعلق یا ان کے معتقدات کا ہلکا سا خاکہ بطور نمونہ پیش کیا گیا، ان میں سے متعدد علماء کرام دیگر اہم عہدوں چیف جسٹس، جسٹس، مدارس اسلامیہ کے بانی یا مدرسین، اصلاحی و تعمیری اور تعلیمی تنظیموں، اداروں کے رکن یا سرپرست رہے، لیکن راقم نے طوالت کے خوف سے ان علماء کرام کی خدمات کا مفصل تذکرہ کرنے کی بجائے ان کے مسجد الحرام سے تعلق کو ہی تحریر کا موضوع بنایا، البتہ حواشی میں ان کے سوانحی ماخذ کی نشان دہی کر دی گئی ہے، مذکورہ دور کے پورے عالم اسلام کی فروغ علم، تصنیف و تالیف اور عقائد اسلامیہ کے دفاع کی تاریخ مرتب کرتے ہوئے کسی بھی مکتب فکر کے منصف مزاج مورخ و محقق کے لئے ان علماء کرام کی خدمات جلیلہ کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔

مکہ مکرمہ میں رائج دوسرے ذریعہ تعلیم ”مدارس“ کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو مسجد الحرام سے باہر سب سے قدیم مدرسہ کا نام ”مدرسہ سلطان قایتبائی“ ملتا ہے، جسے مصر کے سلطان ابو النصر سیف الدین قایتبائی محمودی (۸۱۵ھ - ۹۰۱ھ / ۱۴۲۱ء - ۱۴۹۶ء) نے مسجد الحرام کے قریب ۸۸۲ھ / ۱۴۷۷ء میں بنوایا، دوسرا مدرسہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر کے قریب سلطان بنگالہ غیاث الدین نے قائم کیا، ان مدارس کے ساتھ غریب طلباء کے لئے قیام کا انتظام بھی کیا گیا تھا، اور ان میں مذاہب اربعہ کے مطابق نصاب رائج کیا گیا، ایک اور مدرسہ علم و فضل میں مشہور مکہ مکرمہ میں آباد منونی خاندان [۵۲] کے عالم شیخ عبدالجواد منونی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۰۶۸ھ) نے قائم کیا، لیکن اس سے قبل عثمانی خلیفہ سلطان سلیمان نے ۹۷۲ھ / ۱۵۶۵ء میں مذاہب اربعہ کی مناسبت سے مسجد الحرام سے ملحق شمالی جانب چار مدارس قائم کئے [۵۳]، اس دوران حجاج کرام اور اہل ثروت کے تعاون سے مدارس کے قیام کا سلسلہ جاری رہا۔ ابتدائے اسلام سے عہد عثمانی کے آخر تک مسجد الحرام کی ایک بین الاقوامی یونیورسٹی کی حیثیت مستلم رہی، سلطان سلیم عثمانی نے اپنے دور خلافت ۹۸۱ھ سے ۹۸۴ھ تک مسجد الحرام کی بڑے پیمانے پر تعمیر جدید اور توسیع کرائی، اور یہ کام ان کے بیٹے سلطان مراد کے دور خلافت میں مکمل ہوا [۵۴]۔ مسجد الحرام کی اسی عظیم توسیع کے بعد غالباً مزید مدارس کے قیام کی ضرورت نہ رہی، تا آنکہ انیسویں صدی کے آخر میں عثمانیوں نے ”مدرسہ رُشدیہ“ قائم کیا جس کا نصاب ترکی زبان میں مرتب کیا گیا [۵۵]، یہ خلافت عثمانیہ کے زوال کا دور تھا، اس دوران مسجد الحرام میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ بدستور درجہ کمال پر رہا لیکن سیاسی زوال کے باعث حکمران بڑھتی ہوئی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے مزید مدارس قائم نہ کر سکے، اس پر اہل خیر حضرات آگے بڑھے اور چار بڑے مدارس قائم کئے جن کے نام اور سن تالیس یہ ہیں:

☆۔ مدرسہ صولتیہ ۱۲۹۰ھ / ۱۸۷۳ء

☆۔ مدرسہ فخریہ ۱۲۹۶ھ / ۱۸۷۸ء

☆۔ مدرسہ خیریہ ۱۳۲۶ھ/۱۹۰۸ء

☆۔ مدرسہ فلاح ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۲ء

۱۲۸۹ھ/۱۸۷۲ء میں کلکتہ کی ایک صاحب حیثیت خاتون صولت النساء بیگم حج زیارت کے لئے گئیں تو ان کی مالی معاونت سے مولانا رحمت اللہ کیرانوی مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ (۱۲۳۳ھ-۱۳۰۸ھ/۱۸۱۷ء-۱۸۹۱ء) کی سرپرستی میں مدرسہ صولتیہ قائم ہوا جو مسجد الحرام کے حلقات دروس کے بعد اس صدی کے نصف اول کے مکہ مکرمہ کی دوسری بڑی درس گاہ ثابت ہوئی، مملکت ہاشمیہ حجاز کے پہلے بادشاہ سید حسین بن علی ہاشمی (۱۲۷۰ھ-۱۳۵۰ھ/۱۸۵۳ء-۱۹۳۱ء) نے اسی مدرسہ میں تعلیم پائی، نیز اس کے فارغ التحصیل علماء کرام مختلف اہم مناصب مفتی احناف، مفتی مالکیہ، مفتی شافعیہ، شیخ العلماء، شیخ الخطباء والائمہ، مدرس حرم، امام حرم، خطیب حرم، شیخ القراء، جسٹس، چیف جسٹس، وزیر اعظم، رئیس مجلس شوریٰ، شرعی عدالت کے جج اور بیت اللہ کے کنجی بردار وغیرہ پر فائز رہے، اسلامی علوم پر متعدد کتب تصنیف کیں، نیز مختلف اسلامی ممالک میں مدارس اور تنظیمیں قائم کیں۔ [۵۶]

اس مدرسہ کے بانی حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمتہ اللہ علیہ ہندوستان کے جلیل القدر اہل سنت عالم دین، صوفی کامل، مناظر اسلام، رد عیسائیت پر ”اظہار الحق“ جیسی بے مثل کتاب کے مصنف تھے۔

عثمانی خلیفہ عبدالحمید، ان کے وزیر اعظم خیر الدین پاشا تیوسی اور خلافت عثمانیہ میں علماء کے اعلیٰ ترین منصب ”شیخ الاسلام“ پر تعینات شیخ احمد اسعد مدنی سمیت حکومت کے اعلیٰ عہدیداران مولانا کیرانوی کے قدر دانوں میں شامل تھے، سلطان عبدالحمید نے آپ کو ایوارڈ ”نشان مجیدی“ پیش کرنے کے علاوہ شیخ الاسلام کی تجویز پر ”پایہ حریم“ کا خطاب دیا۔

موجودہ دور میں سعودی حکومت کے اکابر علماء میں سے ایک اہم قلمکار، ندوۃ العالمیہ للشباب الاسلامی، ورلڈ اسمبلی آف مسلم یوتھ (wamy) کے سیکرٹری جنرل مانع بن حماد

الجھنی (م۔ ۱۳۲۳ھ/۲۰۰۲ء) رقمطراز ہیں:

”موجودہ صدی کے آغاز میں دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل ایک عالم نے مکہ مکرمہ میں مدرسہ صولتیہ قائم کیا جس نے دینی علوم کے فروغ میں شاندار خدمات انجام دیں۔“ [۵۷]

ڈاکٹر موصوف نے دو جلدوں پر مشتمل اپنی اس تصنیف میں متعدد مقامات پر بہت سی باتیں بے بنیاد لکھ دی ہیں، مذکورہ بالا عبارت ان میں سے ایک ہے، جب کہ اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ مدرسہ صولتیہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے قائم کیا، جن کا دارالعلوم دیوبند سے کسی بھی نوعیت کا کوئی تعلق نہ تھا، اور یہ مدرسہ موجودہ صدی کے آغاز کی بجائے گزشتہ صدی کے آخر میں قائم ہوا۔ ۱۲۷۰ھ/۱۸۵۳ء میں مولانا کیرانوی اور پادری فنڈر کے درمیان آگرہ ہندوستان میں مناظرہ ہوا، جس کی روئیداد عربی اردو وغیرہ زبانوں میں شائع ہو چکی ہے، اس مناظرہ میں عیسائی مناظر کو شکست فاش ہوئی، مناظرہ آگرہ کی وجہ سے انگریز حکمران مولانا کیرانوی پر برہم تھے، اس پر مزید یہ کہ ۱۲۷۳ھ/۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں مولانا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس پر انگریزوں نے آپ کی جائیداد ضبط کر کے آپ پر فوجداری مقدمہ چلانے کا حکم دے کر مولانا کی گرفتاری پر انعام مقرر کر دیا، چنانچہ آپ ہندوستان سے ہجرت کر کے یمن کے راستے ۱۲۷۴ھ/۱۸۵۸ء میں مکہ مکرمہ پہنچ گئے، ادھر انگریز حکمرانوں نے ہندوستان میں مولانا کیرانوی کی تمام جائیداد و املاک ۳۰ جنوری ۱۸۶۳ء کو نیلام کر دی۔ [۵۸]

ڈاکٹر مانع تسلیم کرتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا قیام ۱۲۸۳ھ/۱۸۶۶ء کو عمل میں آیا۔ [۵۹] لہذا اوپر دیئے گئے حقائق کی روشنی میں یہ بات پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے کہ مولانا کیرانوی دارالعلوم دیوبند کے قیام سے آٹھ سال پہلے ہندوستان چھوڑ چکے تھے اور پھر لوٹ کر نہیں آئے تا آنکہ مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ دارالعلوم کے قیام کے زمانہ میں آپ کی عمر ۴۹ برس سے زائد تھی اور آپ مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے اور نہ صرف

ہندوستان بلکہ پورے عالم اسلام میں آپ کے علم و فضل کا طوطی بول رہا تھا، چنانچہ یہ دعویٰ کہ مولانا کیرانوی نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم پائی، یا اس کے قیام میں کسی قسم کی معاونت کی، یا یہ کہ اس دارالعلوم کے فارغ التحصیل کسی عالم نے مدرسہ صولتیہ کی بنیاد رکھی، سراسر بے بنیاد ہے۔

مولانا کیرانوی کا عقیدہ خود ان کی تحریروں سے واضح ہے، چنانچہ عارف باللہ حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ (۱۲۳۳ھ-۱۳۱۷ھ) کے مرید و خلیفہ [۶۰] مولانا عبد السمیع بیدل راپوری میرٹھی رحمتہ اللہ علیہ (م-۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء) رقمطراز ہیں کہ تصحیح عقائد اہل سنت کا حصہ میں نے مولانا رحمت اللہ کیرانوی مہاجر کی سے لیا، آپ میرے اساتذہ میں اول استاد ہیں [۶۱]۔ اور پھر ۱۳۰۲ھ میں جب مولوی رشید احمد گنگوہی و مولوی خلیل احمد انبیٹھوی وغیرہ علماء دیوبند نے مسلک اہل سنت کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا تو مولانا عبد السمیع میرٹھی نے اسی برس اس کی تردید میں ایک ضخیم کتاب ”انوار ساطعہ در بیان مولود و فاتحہ“ لکھ کر شائع کر دی، ۱۳۰۷ھ میں انوار ساطعہ کے دوسرے ایڈیشن پر ہندوستان بھر کے چوبیس اکابر علماء اہل سنت نے تقریظات لکھیں، ان میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی تقریظ بھی شامل ہے، علاوہ ازیں ”تقدیس الوکیل“ پر آپ کی مفصل تقریظ موجود ہے، مزید برآں حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمتہ اللہ علیہ نے مولانا کیرانوی کو ”فخر العلماء“ کا خطاب دیا، تجلیات مہر انور کی پہلی جلد میں اس موضوع پر سیر حاصل مواد موجود ہے۔ [۶۲]

مولانا رحمت اللہ کیرانوی بن خلیل الرحمن رحمتہ اللہ علیہ پہلے مسجد الحرام اور پھر مدرسہ صولتیہ میں مدرسہ کی خدمات انجام دیتے رہے تا آنکہ آپ نے مکہ مکرمہ میں ہی وفات پائی، اس وقت مدرسہ صولتیہ پورے جزیرہ عرب کا سب سے اہم مدرسہ بن چکا تھا، آپ کے بعد آپ کے بھائی کے پوتے مولانا محمد سعید بن محمد صدیق بن علی اکبر بن خلیل الرحمن کیرانوی رحمتہ اللہ علیہ (۱۲۹۰ھ-۱۳۵۷ھ/۱۸۷۳ء-۱۹۳۸ء) نے مہتمم مدرسہ کی ذمہ داری سنبھالی [۶۳]، تقدیس الوکیل پر مولانا محمد سعید کی تقریظ موجود ہے، علاوہ ازیں حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ کی

اختلافی مسائل پر فیصلہ کن تصنیف ”فیصلہ ہفت مسئلہ“ کا پہلا ایڈیشن انہی مولانا محمد سعید کے اہتمام سے مکہ مکرمہ سے شائع ہوا، جو ان کے اہل سنت ہونے کا تین ثبوت ہے۔

علاوہ ازیں صولتیہ کے مدرس اول مولانا حضرت نور افغانی پشاوری مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ (م۔ ۱۳۲۱ھ/۱۹۰۳ء) اور [۶۴] مدرس دوم مولانا عبدالسبحان رحمتہ اللہ علیہ نے تقدیس الوکیل پر تقریظ لکھی، فاضل بریلوی کے خلیفہ علامہ سید احمد ناضرین مدرس اور شیخ عبدالرحمن دھان حنفی مدرس اول رہے، جن علماء مکہ مکرمہ نے مسجد الحرام میں اور بعد ازاں صولتیہ میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی سے تعلیم پائی اور پھر مسلک اہل سنت پر اپنی تحریریں یادگار چھوڑیں ان میں مفتی احناف شیخ عبدالرحمن سراج، مفتی احناف و چیف جسٹس شیخ عبداللہ سراج، شیخ الخطباء شیخ احمد ابوالخیر مرداد، قاضی مکہ شیخ اسعد دھان، علامہ سید حسین دحلان، مفتی مالکیہ شیخ محمد عابدین حسین مالکی، قاضی مکہ شیخ عبداللہ ابوالخیر مرداد شہید، مبلغ اسلام علامہ سید عبداللہ دحلان، قاضی جدہ علامہ سید محمد حامد احمد جداوی اور قاضی جدہ و مفتی احناف شیخ محمد صالح کمال حنفی کے اسماء گرامی اہم ہیں، رحمہم اللہ تعالیٰ۔ بعد ازاں ڈاکٹر علامہ سید محمد بن علوی مالکی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی مدرسہ صولتیہ میں تعلیم پائی۔

حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمتہ اللہ علیہ ۱۳۰۷ھ/۱۸۸۹ء میں مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو مدرسہ صولتیہ میں قیام فرمایا جبکہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمتہ اللہ علیہ زندہ اور مدرسہ میں موجود تھے۔ [۶۵]

مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے زندگی کے آخری ایام میں محلہ جیاد میں مدرسہ احمدیہ قائم کیا، جس میں تجوید و حفظ قرآن پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی، حاجی امداد اللہ مہاجر کی کے خلیفہ اور فاضل بریلوی کی کتاب حسام الحرمین کے مقرر ظقاری حافظ شیخ احمد کی بنگالی رحمتہ اللہ علیہ اس کے مدرس و مہتمم تھے، ۱۳۱۰ھ میں اس مدرسہ میں ۶۵ طلباء پڑھتے تھے، جنازہ کے ساتھ بہ آواز بلند ذکر اللہ کے جواز پر مولانا محمد عمر الدین ہزاروی رحمتہ اللہ علیہ کی اردو کتاب ”الاجازة فی الذکر الجھر مع الاجازة“ پر انہی شیخ احمد کی نے عربی میں پانچ صفحات کی تقریظ لکھی۔ [۶۶]

مدرسہ صولتیہ کے بعد اس شہر مقدس کا دوسرا اہم مدرسہ فخریہ، مدرس مسجد الحرام شیخ عبدالحق القاری نے اور تیسرا مدرسہ خیریہ، مدرس مسجد الحرام شیخ محمد حسین خیاط نے قائم کیا، اور یہ دونوں علماء مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے شاگرد تھے۔ [۶۷]

جدہ شہت کے ایک تاجر [۶۸] الحاج محمد علی زینل آل رضا (م۔ ۱۳۸۹ھ/۱۹۶۹ء) نے جدہ، مکہ مکرمہ، بمبئی، عدن، دہلی اور بحرین میں ”الفلاح“ کے نام سے دینی مدارس قائم کئے، مدرسہ فلاح عثمانی عہد کے مکہ مکرمہ میں قائم ہونے والا آخری مدرسہ تھا جو کارکردگی کے اعتبار سے مدرسہ صولتیہ کے بعد دوسرا بڑا مدرسہ ثابت ہوا، علامہ سید محمد احمد جدوی رحمۃ اللہ علیہ (حسام الحرمین کے مقرر) ۱۳۳۰ھ-۱۳۳۳ھ/۱۹۱۱ء-۱۹۱۵ء تک مدرسہ فلاح مکہ مکرمہ کے پہلے مہتمم و صدر مدرس رہے، اور جسٹس مکہ علامہ سید ابو بکر حبشی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۲۰ھ-۱۳۷۲ھ/۱۹۰۲ء-۱۹۵۲ء) جو ۱۳۵۲ھ-۱۳۶۲ھ/۱۹۳۳ء-۱۹۴۳ء تک اس مدرسہ کے چھٹے مہتمم رہے [۶۹] آپ اپنے دادا مفتی شافعیہ شیخ الاسلام علامہ سید حسین بن محمد حبشی مکی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۵۸ھ-۱۳۳۰ھ/۱۸۲۲ء-۱۹۱۲ء) کے علاوہ [۷۰] حسان العصر امام یوسف بن اسمعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۶۵ھ-۱۳۵۰ھ/۱۸۲۹ء-۱۹۳۱ء) سمیت [۷۱] عالم اسلام کے متعدد علماء و مشائخ سے تصوف کے مختلف سلاسل میں مجاز تھے [۷۲] علامہ سید ابو بکر حبشی نے اپنی ”عظیم تصنیف“ ”الدلیل المشیر“ میں متعدد مقامات پر فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کیا ہے۔ [۷۳]

مدرسہ فلاح کے ساتویں مہتمم حجاز مقدس کے مشہور ماہر تعلیم علامہ سید اسحاق عزوز مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۳۰ھ-۱۳۱۵ھ/۱۹۱۲ء-۱۹۹۴ء) طالب علم، مدرس اور پھر مہتمم کی حیثیت سے ساٹھ برس تک اس مدرسہ سے وابستہ رہے، آپ فاضل بریلوی کے خلیفہ، شیخ احمد ناصر مکی کے بھانجا اور شاگرد ہیں، علامہ سید اسحاق عزوز نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی، ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی مکی نے اپنی اہم تصنیف ”انھا فاطمة الزہراء“ رضی اللہ عنہا کا انتساب اپنے استاد علامہ سید اسحاق عزوز کے نام کیا۔ [۷۴]

شیخ عبدالرحمن رضوان مکی شافعی ۱۳۷۸ھ - ۱۴۰۵ھ / ۱۹۵۸ء - ۱۹۸۵ء تک مدرسہ فلاح کے آٹھویں مہتمم رہے [۷۵] جن کے ایک چچا علامہ سید محمد عبدالباری رضوان مدنی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۹۵ھ - ۱۳۵۸ھ / ۱۸۷۸ء - ۱۹۳۰ء) نے الدولۃ المکیہ پر [۷۶] اور دوسرے چچا علامہ سید عباس رضوان مدنی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۹۳ھ - ۱۳۳۶ھ / ۱۸۷۶ء - ۱۹۲۷ء) نے الدولۃ المکیہ وحسام الحرمین پر تقریظات لکھیں [۷۷] اور آپ کے والد علامہ سید عبدالرحمن رضوان مدنی ثم مکی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۹۲ھ - ۱۳۸۱ھ / ۱۸۷۵ء - ۱۹۶۱ء) سے اہل علم کی کثیر تعداد نے دلائل الخیرات و قصیدہ بردہ کی اجازت حاصل کی، نیز آپ نے حضرت سید عبدالقادر جیلانی، حضرت شیخ سید احمد کبیر رفاعی، و حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحم اللہ تعالیٰ وغیرہ اکابر صوفیاء کرام کے اوراد و اذکار کو ان سے متعلق اپنی اسناد کے ساتھ یکجا مصر سے شائع کرایا۔ [۷۸]

مختلف اوقات میں مدرسہ فلاح میں تدریسی خدمات انجام دینے والے علماء میں محدث حرمین شیخ عمر حمدان محری، شیخ احمد ناظرین شافعی، علامہ سید علوی مالکی، شیخ محمد نور سیف مالکی مکی (۱۳۲۳ھ - ۱۴۰۳ھ / ۱۹۰۶ء - ۱۹۸۲ء) اور علامہ سید محمد امین کتبی مکی حنفی (۱۳۲۷ھ - ۱۴۰۳ھ / ۱۹۰۹ء - ۱۹۸۳ء) رحمہم اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی اہم ہیں، شیخ سید محمد امین کتبی نے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خاں بریلوی علیہ الرحمہ سے خلافت پائی [۷۹] شیخ محمد نور سیف مالکی اور شیخ سید محمد امین کتبی حنفی رحمہم اللہ تعالیٰ، مولانا ضیاء الدین احمد قادری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ارادت مند تھے۔

مدرسہ فلاح میں تعلیم پانے والوں میں شیخ احمد ناظرین، علامہ سید علوی مالکی اور ان کے فرزند ڈاکٹر سید محمد علوی مالکی، شیخ محمد نور سیف اور ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی مکی کے اسماء گرامی شامل ہیں۔ سعودی دور کے سابق وزیر اطلاعات ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی آج کے حجاز کی مشہور علمی و سماجی شخصیات میں سے ہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت رسول نیز صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت کے جذبہ کو اجاگر کرنے کے لئے ان موضوعات پر الگ الگ کتب تالیف کیں جنہیں

شائقین نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کے متعدد اڈیشن شائع ہوئے، علاوہ ازیں لندن (برطانیہ) سے شائع ہونے والے عربی کے کثیر الاشاعت روزنامہ ”الشرق الاوسط“ میں گذشتہ کئی سال سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اس مناسبت سے آپ کے مضامین شائع ہو رہے ہیں، پاکستان کے علماء اہل سنت نے ڈاکٹر محمد عبدہ کی متعدد مؤلفات کے اردو تراجم شائع کر دیئے ہیں اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے۔

مدارس فلاح کے ضمن میں عرض ہے کہ اس کی بمبئی شاخ میں عرب دنیا کے اساتذہ تعینات تھے، نیز اس کے طلباء میں عرب بھی شامل تھے، چنانچہ مدرسہ فلاح بمبئی کے مدرس علامہ فقیہ شیخ محمد امین سوید دمشقی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۷۳ھ - ۱۳۵۵ھ / ۱۸۵۶ء - ۱۹۳۶ء) نے دولت المکیہ پر تقریظ لکھی [۸۰] اور دوسرے مدرس امام العالم العادل فقیہ محدث شیخ محمود عطار دمشقی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۸۳ھ - ۱۳۶۲ھ / ۱۸۶۷ء - ۱۹۴۳ء) نے میلاد و قیام کے بارے میں [۸۱] شیخ رشید احمد گنگوہی و شیخ خلیل احمد انیسٹھوی کے جاری کردہ فتویٰ [۸۲] کی تردید میں ایک مفصل مقالہ بعنوان ”استحباب القیام عند ذکر ولادۃ علیہ الصلوٰۃ والسلام لکھ کر ماہنامہ ”الحقائق“ دمشق (سن اجراء ۱۳۲۸ھ) سے شائع کرایا [۸۳] جس کا کتابی صورت میں تازہ اڈیشن ۱۳۱۹ھ / ۱۹۹۸ء میں شام سے شائع ہوا۔

مذکورہ دور میں مسجد الحرام اور شہر مقدس میں قائم مدارس کے علاوہ متعدد علماء کرام کے گھر علمی مراکز کی حیثیت رکھتے تھے جیسا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، شیخ الدلائل مولانا محمد عبدالحق الہ آبادی (۱۲۵۲ھ - ۱۳۳۳ھ / ۱۸۳۶ء - ۱۹۱۵ء) اور شیخ محمد عابد مالکی رحمہم اللہ تعالیٰ کے گھر، عارف باللہ حاجی امداد اللہ اپنی رہائش گاہ پر تفسیر، توحید، فقہ اور تصوف پر درس دیا کرتے، امام العصر شیخ یوسف بن اسماعیل بھانی نے آپ سے استفادہ کیا اور سلسلہ نقشبندیہ میں آپ سے بیعت کی [۸۴] حاجی صاحب کے معتقدات ان کی تصنیفات بالخصوص فیصلہ ہفت مسئلہ سے ظاہر ہیں، یہ کتاب آپ نے مکہ مکرمہ میں لکھی، نیز انوار سلطعہ پر آپ کے تائیدی کلمات اور تقدیس الوکیل پر

تقریظ موجود ہے۔

مولانا عبدالحق الہ آبادی مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ [۸۵] پچاس برس تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور وہیں وفات پائی، اس دوران آپ نے عربی زبان میں تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ درس و تدریس پر بھرپور توجہ دی اور اسلامی دنیا کے لاتعداد طلباء نے آپ سے استفادہ کیا اور اپنے دور کے اکابر علماء میں شمار ہوئے، آپ کے گھر میں اگر ایک طرف طلباء تعلیم و تعلم میں مشغول ہوتے تو دوسری طرف زائرین حرم آپ سے ملاقات، بیعت و ارادت اور دلائل الخیرات کی اجازت کے لئے موجود ہوتے، مشہور سوانح نگار خیر الدین زرکلی دمشقی (۱۳۱۰ھ-۱۳۹۶ھ/۱۸۹۳ء-۱۹۷۶ء) نے مولانا الہ آبادی کے بارے میں نہ جانے کیسے لکھ دیا کہ ”ضعیف الحدیث“ [۸۶]، جب کہ مولانا الہ آبادی نے علم حدیث شیخ عبدالغنی دہلوی مہاجر مدنی (۱۲۳۵ھ-۱۲۹۶ھ) اور شیخ قطب الدین دہلوی مہاجر کی (م-۱۲۸۹ھ) سے پڑھا [۸۷]، بعد ازاں مولانا الہ آبادی مکہ مکرمہ میں عمر بھر علم حدیث کے علاوہ تفسیر، اصول تفسیر و قرأت، توحید و عقائد، فقہ حنفی، اصول فقہ، قواعد فقہ، بلاغت، معانی و بیان، بدیع، نحو و صرف، منطق، تصوف، سیرت، تاریخ اور اوراد و اذکار وغیرہ علوم کی اہم کتب عرب و عجم کے طلباء کو پڑھاتے رہے [۸۸]

خیر الدین زرکلی نے اہل علم و مشاہیر کے حالات جمع کرنے میں خاصی جہد سے کام لیا اور سینکڑوں افراد کے حالات جمع کر کے کتاب ”الاعلام“ لکھی جسے مقبولیت عامہ حاصل ہوئی، یہ کتاب آٹھ ضخیم جلدوں اور بڑی تقطیع کے ۲۴۷۲ صفحات پر مشتمل ہے، اس کا دسواں ایڈیشن ۱۹۹۲ء میں بیروت سے شائع ہوا جو راقم کے پیش نظر ہے، لیکن افسوس ہے کہ فاضل مصنف نے حالات و واقعات کی چھان بین میں تساہل سے کام لیا، جس کے باعث یہ کتاب اغلاط سے بھر گئی، نیز بہت سی اہم علمی شخصیات کو دانستہ نظر انداز کر کے ان کے حالات سرے سے کتاب میں شامل ہی نہیں کئے جب کہ بعض غیر اہم شخصیات کو اس میں جگہ دی، زرکلی شاعری، صحافت اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ سیاسی امور سے بھی تعلق رکھتے تھے، چنانچہ شام، حجاز اور سعودی عرب کے سیاسی

معاملات میں فعال رہنے کے علاوہ مختلف عہدوں پر فائز رہے جیسا کہ مراکش میں سعودی عرب کے سفیر رہے، پھر مملکت سعودیہ کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود کے کارناموں پر دو کتب لکھیں، الغرض زرکلی کی اس کتاب کی اغلاط کی نشان دہی نیز اس میں نظر انداز کی گئی شخصیات کے حالات پر عرب دنیا کے محققین کی طرف سے مقالات اور کتب منظر عام پر آچکی ہیں۔

زرکلی ۱۹۲۱ء میں حجاز مقدس پہنچے اور وہاں کی شہریت اختیار کی [۸۹] ان ایام میں مولانا الہ آبادی کی وفات پر محض چھ سات برس گزرے تھے اور آپ کے لاتعداد تلامذہ حرمین شریفین میں موجود اور اکابر علماء میں سے تھے، جیسا کہ خاتمۃ المحققین شیخ محمد علی مالکی جنہوں نے مولانا الہ آبادی سے احادیث کی کتب جامع مسانید الامام ابو حنیفہ، شرح معانی الآثار، انجاء الحاجۃ علی سنن ابن ماجہ، دلیل الفالحین علی ریاض الصالحین اور شرح الاذکار النویۃ پڑھیں [۹۰] اور بعد ازاں تدریس، افتاء اور تصنیف و تالیف میں اہم مقام پایا، نیز علامہ محدث، مؤرخ مسند شیخ عبداللہ غازی (۱۲۹۱ھ - ۱۳۶۵ھ / ۱۸۷۳ء - ۱۹۲۵ء) جنہوں نے مولانا الہ آبادی سے حصین اور الاول السنبلیۃ پڑھیں [۹۱]، مزید یہ کہ مولانا الہ آبادی کی تصنیفات مطبوع ہیں نیز آپ کے اتنے قریب العہد ہونے کے باوجود زرکلی کی مذکورہ بالا تحریر محل نظر ہے۔

مولانا الہ آبادی کے شاگرد مسجد الحرام کے امام و خطیب، شیخ الخطباء فقیہ مؤرخ جسٹس شیخ عبداللہ ابو الخیر مرداد شہید نے آپ کا تعارف ان الفاظ میں لکھا ہے!

”عبدالحق الہندی الالہ آبادی بن شاہ محمد الحنفی نزیل

البلد الحرام شیخنا الامام الجلیل المحدث المفسر الجامع بین

العلم والعمل الملازم للتقویٰ“ - [۹۲]

آپ کے دوسرے شاگرد علامہ حافظ محدث مسند عصرہ و شیخ الروایۃ سید محمد عبدالحی ستانی

مراکشی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۰۳ھ - ۱۳۸۲ھ / ۱۸۸۶ء - ۱۹۶۲ء) کے الفاظ ہیں! [۹۳]

”عبدالحق ابن الشیخ شاہ محمد بن الشیخ یار محمد الہ

آبادی المکی الصوفی المحدث المفسر الناسک المعمر

صاحب الحاشیة علی تفسیر النفسی، وهو کبار اصحاب

الشیخ عبدالغنی الدهلوی وقد مائهم“ - [۹۴]

فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب دوسری بار مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو مولانا الہ آبادی اس شہر مبارک میں موجود تھے، چنانچہ دونوں جلیل القدر علماء ہند کے درمیان متعدد ملاقاتیں ہوئیں اور جب فاضل بریلوی واپس بریلی پہنچے تو ایک روز علماء، طلباء و مریدین کی مجلس میں مولانا الہ آبادی کے بارے میں یوں گویا ہوئے:

”مکہ مکرمہ میں فقیر دعوتوں کے علاوہ صرف چار جگہ ملنے کو جاتا، مولانا شیخ صالح کمال اور شیخ العلماء محمد سعید باہصیل اور مولانا عبدالحق مہاجر الہ آبادی اور کتب خانے میں مولانا سید اسماعیل کے پاس، رحمہم اللہ تعالیٰ..... حضرت مولانا عبدالحق الہ آبادی کو چالیس سال سے زائد مکہ مکرمہ میں گزرے تھے، کبھی شریف (گورنر مکہ) کے یہاں بھی تشریف نہ لے گئے، قیام گاہ فقیر پر دو بار تشریف تشریف لائے، مولانا سید اسماعیل وغیرہ ان کے تلامذہ فرماتے تھے کہ یہ محض خرق عادت ہے، مولانا (الہ آبادی) کادم بسا غنیمت تھا، ہندی تھے مگر ان کے انوار مکہ میں چمک رہے تھے“ - [۹۵]

استاذ العلماء شیخ الدلائل مولانا محمد عبدالحق الہ آبادی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فاضل بریلوی کی دو کتب الدولۃ المکیہ وحسام الحرمین پر تقریظات لکھیں جو مطبوع ہیں۔

مذکورہ دور کے مکہ مکرمہ میں جن علماء کرام کے گھروں نے درس گاہ کی حیثیت سے شہرت پائی ان میں فاضل بریلوی کے خلیفہ مفتی مالکیہ و مدرس مسجد الحرام شیخ محمد عابد مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں منعقد ہونے والی علمی و روحانی مجالس کا مورخین نے بطور خاص ذکر کیا ہے [۹۶] آپ افتاء کی ذمہ داریاں نبھانے کے علاوہ تصنیف و تالیف اور پھر مسجد الحرام میں مقررہ اوقات کے بعد گھر پر درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے رہے یہی وجہ ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں آپ

کے تلامذہ کے نام ملتے ہیں، جو اپنے علاقہ کے اکابر علماء میں شمار ہوئے، جیسا کہ انڈونیشیا کے شیخ محمد ہاشم اشعری شافعی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۸۲ھ - ۱۳۶۶ھ / ۱۸۶۵ء - ۱۹۴۷ء) جو اپنے وطن سے حصول تعلیم کے لئے مکہ مکرمہ پہنچے اور ۱۳۰۸ھ سے ۱۳۱۴ھ تک وہاں مقیم رہ کر شیخ محمد عابد مالکی وغیرہ اکابر علماء مکہ سے تعلیم پائی پھر واپس انڈونیشیا جا کر ”جمعیت نھضة العلماء“ نامی جماعت اور نوجوانوں کے لئے ایک تنظیم ”حزب اللہ“ قائم کیں، ۱۹۹۹ء میں جمعیت نھضة العلماء انڈونیشیا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، جس کے اراکان کی تعداد تین کروڑ ہے، شیخ ہاشم اشعری کے بیٹے شیخ عبدالواحد ہاشم ۱۹۵۳ء سے اپنی وفات تک انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور نیز نھضة العلماء کے صدر رہے، اب شیخ ہاشم اشعری کے پوتے عبدالرحمن واحد (پ ۱۹۴۰ء) نھضة العلماء کے صدر ہیں جو ۱۹۹۹ء کے انتخابات میں انڈونیشیا کے نئے صدر منتخب ہوئے۔ [۹۷]

غرضیکہ عثمانی عہد کے مکہ مکرمہ میں رائج ذرائع تعلیم میں سے چوتھا ذریعہ ”کتاب“ کا تھا، شہر بھر کی مختلف گلیوں کی کسی عمارت کے ایک کمرہ میں چٹائی بچھائے اور پانی کی صراحیوں اپنے پاس رکھے ایک عالم تشریف فرما ہوتے، ارد گرد کے گھروں کے بچے ان کے پاس آتے اور ان سے قرآن مجید حفظ و ناظرہ، ابتدائی دینی تعلیم نیز املا و حساب کی ابتدائی تعلیم حاصل کرتے، ان چھوٹی چھوٹی درس گاہوں کو ”کتاب“ اور ان میں تعلیم دینے والے عالم کو ”شیخ الکتاب“ کہا جاتا تھا، چودھویں صدی ہجری کے آغاز پر پورے مکہ مکرمہ میں ۲۳ کتابتیں موجود تھے جن میں کل ۱۱۵۰ طلباء زیر تعلیم تھے، حسن عبدالحی قزاز کی نے اس دور کے اہم کتابتیں کے نام اپنی کتاب میں درج کئے ہیں۔ [۹۸]

جب حجاز مقدس سے عثمانی دور کا خاتمہ ہوا تو مسجد الحرام میں قائم حلقات دروس اور صولتیه، فلاح، فخریہ، خیریہ، احمدیہ و رشدیہ نامی مدارس کے علاوہ کتابتیں کو مکہ مکرمہ میں اپنے دور کی علمی درس گاہوں کی صورت میں یادگار چھوڑا۔

عثمانی ترکوں کے عہد کے اختتام تک مکہ مکرمہ میں وہابیت کو پنپنے کا موقع نہیں ملا بلکہ

اکابر علماء مکہ میں سے متعدد نے اس کے تعاقب میں قلم اٹھایا، لیکن اس عہد کے آخری چند برسوں کے دوران محض دو تین علماء شیخ احمد و شیخ عبدالرحمن اسکوبی مذکورہ عقیدہ اختیار کر چکے تھے، جب کہ ان کے نظریات افکار پر اہل مکہ میں سے کسی نے توجہ نہیں دی۔

فاضل بریلوی نے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہابیہ کے اعتراضات کے جواب میں بعض اکابر علماء مکہ کی خواہش پر کتاب ”الدولۃ المکیہ“ لکھی، ۲۸ رزدوالحجہ ۱۳۲۳ھ کو گورنر مکہ سید علی پاشا [۹۹] کا دربار منعقد ہوا تو اس میں علماء مکہ مکرمہ کی کثیر تعداد و دیگر اہل علم کے علاوہ فاضل بریلوی بھی موجود تھے، گورنر جو خود ذی علم تھا اس کے حکم پر مفتی احناف شیخ صالح کمال مکی نے بھرے دربار میں الدولۃ المکیہ پڑھ کر سنائی، اس موقع پر مذکورہ دونوں وہابی علماء کی موجودگی میں گورنر مکہ نے باواز بلند کتاب کے مندرجات کو سراہا اور وہابیہ کے اعتراضات کو بے بنیاد قرار دیا، بعد ازاں وہابیہ نے مسجد الحرام کے ایک ناخواندہ و جاہل اہلکار کے توسط سے فاضل بریلوی کے معتقدات نیز علماء مکہ کی طرف سے آپ کی معاونت و پذیرائی کو شکایت کے انداز میں گورنر حجاز احمد راتب پاشا کے گوش گزار کیا جس پر گورنر حجاز نے ایک چپت اس اہلکار کی گردن پر جمائی اور اسے واشگاف الفاظ میں جھٹک دیا، پھر اکابر علماء مکہ نے الدولۃ المکیہ پر تقریظات لکھیں اور تمام مکہ معظمہ میں اس کتاب کا شہرہ ہوا اور گلی کوچہ میں مکہ معظمہ کے لڑکے ان (وہابیہ) کا تمسخر کرتے۔ [۱۰۰]

مقامی علماء کے علاوہ دیگر ممالک سے ہجرت کر کے آنے والوں میں سے اگر کوئی عالم مذکورہ عقیدہ پر عمل پیرا تھے بھی تو اس دوران انہیں مکہ مکرمہ میں اپنے نظریات کے دو ٹوک اظہار کی ہمت نہیں ہوئی۔



ہاشمی عہد

۱۳۳۲ھ/۱۹۱۶ء کو حجاز مقدس سے ترکوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو آج کے شاہ اردن سید عبداللہ دوم بن شاہ حسین (م۔ ۱۹۹۹ء) بن طلال (م۔ ۱۹۷۲ء) بن عبداللہ اول (م۔ ۱۹۵۱ء) بن حسین (م۔ ۱۹۳۱ء) بن علی حسنی ہاشمی کے جد امجد سید حسین بن علی نے مملکت حجاز قائم کی، اس ہاشمی سلطنت کا خاتمہ ۱۳۴۳ھ/۱۹۲۲ء میں علاقہ نجد کے آل سعود خاندان کے ہاتھوں ہوا، عثمانیوں کی طرح یہ ہاشمی خاندان بھی سواد اعظم کے مسلک اہل سنت و جماعت سے وابستہ تھا، چنانچہ ہاشمی عہد کے دوران مکہ مکرمہ میں تعلیم کے ذرائع میں کوئی بڑی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، الا یہ کہ مکہ مکرمہ سمیت پوری مملکت حجاز سے ترکی نصاب اور اس زبان سے متعلق مدارس مثلاً رشدیہ وغیرہ کو بند کر دیا گیا، اور حکومت نے ہاشمیہ، راقیہ اور عالیہ نام کے نئے مدارس قائم کئے [۱۰۱] اسی عہد میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے شاگرد شیخ عبدالخالق بنگالی نے مدرسہ دارالافتاؤں کی بنیاد رکھی۔ [۱۰۲]

شیخ ابوبکر خویر (۱۲۸۴ھ - ۱۳۳۹ھ) مکہ مکرمہ کے پہلے عالم ہیں جنہوں نے شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کی تصنیفات کے مطالعہ کے نتیجے میں وہابیت اختیار کی اور پھر ہاشمی عہد میں کھلم کھلا اس شہر مقدس میں اس عقیدہ کا پرچار شروع کیا، نیز اس فکر پر کتب تصنیف کیں، اس کی ابتداء تب ہوئی جب ۱۳۲۶ھ یعنی عثمانی عہد میں سید حسین بن علی ہاشمی مکہ مکرمہ کے گورنر بن کر آئے اور ۱۳۲۷ھ میں شیخ ابوبکر خویر کو ”مفتی حنابلہ“ مقرر کیا، شیخ خویر نے یہ اہم ذمہ داری سنبھالتے ہی مسجد الحرام میں اپنے عقائد و نظریات کی تبلیغ شروع کر دی جس کی اطلاع فوراً ہی گورنر تک پہنچی جس پر شیخ خویر کو اس منصب سنبھالنے کے محض دو دن بعد معزول کر کے قید کر دیا گیا اور وہ اٹھارہ ماہ تک مقید رہا، ۱۳۳۴ھ میں یہی گورنر مملکت ہاشمیہ حجاز کے پہلے بادشاہ بنے تو تھوڑے ہی عرصہ بعد اہل مکہ کی طرف سے شیخ خویر کی پھر سے بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کی شکایت ان تک پہنچی

جس پر ۱۳۳۹ھ میں شیخ خویر کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا تا آنکہ ۱۳۴۳ھ میں حجاز مقدس پر آل سعود خاندان کی حکومت قائم ہوئی اور وہابی حکمرانوں نے انہیں رہا کیا، شیخ ابو بکر خویر عثمانی اور پھر ہاشمی عہد میں لگ بھگ چھ برس تک قید رہے۔ [۱۰۳]

چودھویں صدی کے نصف اول کے مختلف ادوار یعنی عثمانی عہد کے آخری ایام، پورا ہاشمی عہد اور پھر سعودی عہد کے ابتدائی برسوں کے مکہ مکرمہ میں مذاہب اربعہ کے تعلق رکھنے والے اہل سنت علماء کرام کی کثیر تعداد موجود تھی، ان میں سے جو علماء کرام اپنے دور کے اکابرین میں شمار ہوئے، ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف ان کی تعداد ڈیڑھ سو کے لگ بھگ ہے، جن میں سے اکثر کے حالات سیر و تراجم، مختصر نثر النور، نثر الدرر اور نظم الدرر میں درج ہیں۔

سعودی عہد

۱۳۴۳ھ/۱۹۲۴ء آیا، انقلاب برپا ہوا اور حجاز مقدس پر علاقہ نجد کے شہر ریاض سے ملحقہ دیہات درعیہ سے تعلق رکھنے والے آل سعود خاندان کی حکمرانی قائم ہو گئی، سعودی مملکت کے بانی عبدالعزیز آل سعود (۱۲۹۳ھ-۱۳۷۳ھ/۱۸۷۶ء-۱۹۵۳ء) وہابی عقائد پر عمل پیرا تھے۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تخت یعنی عرش پر بیٹھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کرنا شرک اکبر و کفر ہے، ایسے شخص کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام اور اس کا نکاح باطل ہے، اس کی بیوی کو طلاق کی ضرورت نہیں کسی اور سے نکاح کر لے، ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اس کی نماز جنازہ پڑھے بغیر کسی گڑھے میں ڈال کر اسے مٹی سے بھر دیا جائے، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کرنا گناہ ہے، انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام سے متعلق آثار کی زیارت کے لئے جانا عبث ہے، اور فراعنہ تہذیب کے آثار کو دیکھنے کے لئے مصر کا سفر اختیار کرنے میں کوئی قباحت نہیں، آج کی یہودی و عیسائی عورت سے نکاح جائز اور ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، مزید یہ کہ تصوف اور

صوفیاء کا سلام سے کوئی تعلق نہیں، اور امام معین کی تقلید حرام ہے، گو کہ آگے چل کر مختلف اسلامی ممالک میں اسی فکر سے جنم لینے والے بعض مکاتب فکر کو اپنا پیغام پھیلانے کے لئے جزوی طور پر تعلیمات تصوف اور تقلید آئمہ اربعہ کا سہارا لینا پڑا، وہابی عقائد پر شیخ ابن تیمیہ، شیخ محمد بن عبدالوہاب، شاہ اسماعیل دہلوی اور شیخ ناصر البانی (م۔ ۱۹۹۹ء) کی تصنیفات، نیز سعودی علماء کے جاری کردہ فتاویٰ کے مجموعہ ”فتاویٰ اللجنة الدائمة“ بنیادی ماخذ کا درجہ رکھتی ہیں۔

الغرض آل سعود خاندان کی مذہبی شدت پسندی نیز شیخ محمد بن عبدالوہاب اور بعد ازاں ان کی اولاد سے اس خاندان کے قریبی مراسم کی تفصیلات اہل حجاز سے مخفی نہ تھیں، چنانچہ مکہ مکرمہ سمیت پورے حجاز میں سعودی انقلاب کا فوری رد عمل یہ سامنے آیا کہ عقیدہ یا سیاسی اختلاف کی بنیاد پر جان و مال کے خوف سے عام باشندوں اور علماء کی بڑی تعداد نے ہجرت اختیار کی، جیسا کہ مملکت ہاشمیہ حجاز کے چیف جسٹس و مفتی احناف شیخ عبداللہ سراج حنفی رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں ایک کانفرنس میں شرکت کے لئے قاہرہ گئے ہوئے تھے، انقلاب رونما ہونے پر آپ وہیں سے اردن تشریف لے گئے اور عمر بھرا اپنے وطن حجاز لوٹ کر نہ آئے [۱۰۴]، ہاشمی دور کے وزیر خزانہ علامہ سید محمد طاہر دباغ طائفی (۱۳۰۸ھ - ۱۳۷۸ھ / ۱۸۹۰ء - ۱۹۵۸ء) اپنے پورے خاندان سمیت مکہ مکرمہ سے ہندوستان پہنچے پھر عرصہ دراز مختلف اسلامی ممالک انڈونیشیا وغیرہ میں پناہ گزیں رہ کر تدریس سے وابستہ رہے [۱۰۵]، علامہ سید عبداللہ دحلان شافعی رحمۃ اللہ علیہ انقلاب کے ایام میں بعض ممالک کے تبلیغی دورے پر تھے، چنانچہ آپ کئی سال تک سنگاپور میں سکونت اختیار کئے رہے [۱۰۶]، شیخ محمد علی مالکی مفتی مالکیہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد سعید میمانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الگ الگ انڈونیشیا کی راہ لی [۱۰۷]، محدث حریم شریفین شیخ عمر حمدان محرمی رحمۃ اللہ علیہ نے عدن کا سفر اختیار کیا [۱۰۸]، اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علامہ سید احمد زینی دحلان مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کتب کے شارح علامہ سید عثمان شطا رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۳۹۵ھ / ۱۸۷۸ء) کے فرزند علامہ سید علی بن عثمان شطا شافعی مکی رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۳۳۹ھ / ۱۹۳۰ء)

انڈونیشیا تشریف لے گئے [۱۰۹]، اور ہاشمی عہد کے چیئر مین مجلس شوریٰ علامہ سید عبداللہ زواوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۶۶ھ/۱۳۲۳ھ) جنہوں نے مدرسہ صولتیہ میں تعلیم پائی اور مسجد الحرام کے مدرس پھر مفتی شافعیہ رہے اسی انقلاب کے دوران طائف میں شہید کئے گئے [۱۱۰]، اور فاضل بریلوی کے اہم خلیفہ جسٹس مکہ شیخ الخطباء شیخ عبداللہ ابو الخیر مرداد حنفی مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی انقلاب کے ایام میں طائف ہی میں شہادت پائی۔ [۱۱۱]

سعودی انقلاب کی آمد کے ساتھ ہی مسجد الحرام میں علماء کرام سے متعلق مناصب پر تقرری کے لئے صدیوں سے رائج طریقہ کار نیز مسجد الحرام سمیت شہر بھر کے نظام تعلیم میں وسیع پیمانے پر تبدیلیاں کی گئیں، عثمانی و ہاشمی ادوار میں مسجد الحرام کے آئمہ و خطباء کے مناصب عام طور پر مقامی علماء کرام کے لئے مختص تھے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبدالحق الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اپنے دور کے اکابر علماء کرام میں ہوا اور مکہ مکرمہ کے بکثرت علماء نے ان دونوں علماء سے تعلیم پائی، لیکن اس تمام تر علم و فضل اور قدرداں حکومت کے باوجود ان علماء کو مسجد الحرام کی امامت و خطابت نہیں سونپی گئی اور یہ شرف اہل مکہ کو ہی حاصل رہا، لیکن سعودی مملکت کے قیام کے فوراً بعد علماء مکہ کو مسجد الحرام کی امامت و خطابت کے شرف سے محروم کر دیا گیا اور حکمرانوں نے اپنے ہم خیال آئمہ و خطباء کی تقرری کو ضروری سمجھا لہذا فوری طور پر ۱۳۲۲ھ میں علاقہ نجد سے شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کی نسل میں سے ایک عالم شیخ عبداللہ بن حسن کو لا کر امام و خطیب مقرر کیا گیا جو اپنی وفات ۱۳۷۸ھ تک اس سے وابستہ رہے، بعد ازاں اسی مکتب فکر کے خوش الحان قاری و حافظ علماء کی تلاش شروع ہوئی اور شاہ عبدالعزیز آل سعود نے مصر سے شیخ محمد عبدہ (۱۲۶۶ھ، ۱۳۲۳ھ/۱۸۴۹ء-۱۹۰۵ء) کے شاگرد جماعت انصار السنۃ الحمدیہ کے بانی رکن شیخ عبدالظاہر ابوالسبح (۱۳۰۰ھ-۱۳۷۰ھ) کو طلب کر کے امام و خطیب مقرر کیا [۱۱۲]۔

گذشتہ سطور میں آچکا کہ ۱۳۳۰ھ سے ۱۳۴۵ھ کے درمیان مسجد الحرام میں خطباء کی تعداد پچاس اور آئمہ کی ایک سو بیس کے قریب تھی، ۱۳۴۵ھ میں سعودی مملکت کے بانی عبدالعزیز

ال سعود کے ایماء پر علماء حجاز و نجد پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی جس نے مسجد الحرام میں مذاہب اربعہ کے ائمہ کی الگ الگ جماعت کا سلسلہ موقوف کرنے کے علاوہ ائمہ و خطباء کی تعداد میں کمی کردی نیز یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ آئندہ مسجد الحرام کی امامت و خطابت کسی خاص خاندان یا کسی خاص علاقہ و شہر کے افراد کے لئے مختص نہیں رہے گی، کچھ ہی عرصہ بعد علامہ رشید رضا مصری (۱۲۸۲ھ-۱۳۵۳ھ/۱۸۶۵ء-۱۹۳۵ء) کے شاگرد شیخ محمد عبدالرزاق حمزہ (۱۳۰۸ھ-۱۳۹۲ھ) کو بلا کر امام و خطیب بنایا گیا، سعودی عہد کے ابتدائی دور میں مسجد الحرام میں نماز کا سلسلہ برقرار رکھنے کے لئے کچھ عرصہ شیخ عبداللہ حمدوہ سوڈانی ثم مکی [۱۱۳] اور علامہ سید نور محمد کتبی فیض آبادی مکی [۱۱۴] وغیرہ مکہ مکرمہ میں مقیم چند علماء کو امامت سوپنی گئی لیکن سعودی عہد کے ابتدائی تیس برس کے لگ بھگ یعنی ۱۳۷۳ھ تک یہی تین علماء شیخ عبداللہ بن حسن، شیخ عبدالظاہر اور شیخ عبدالرزاق مسجد الحرام کے امام و خطیب رہے جن میں سے ایک کا وطن نجد اور دو مصری نژاد تھے، تا آنکہ مکہ مکرمہ کے علمی خاندانوں میں سے ایک کے فرد شیخ عبداللہ بن عبدالغنی خیاط (۱۳۲۶ھ-۱۴۱۵ھ) نے شیخ ابوبکر خویر نیز مسجد الحرام کے مذکورہ بالا تینوں علماء سے تعلیم پانے کے نتیجہ میں وہابیت قبول کی اور ۱۳۷۳ھ میں امام و خطیب بنائے گئے، اسی دوران شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کی نسل میں سے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن حسن (پ-۱۳۳۸ھ) کو امام و خطیب بنایا گیا، لیکن تھوڑے عرصہ بعد انہیں الگ کر کے وزیر تعلیم وغیرہ دیگر اہم عہدوں پر تعینات کیا گیا، پھر مصر سے شیخ محمد عبدہ و علامہ رشید رضا کے ایک شاگرد ”جماعت انصار السنۃ الحمدیہ“ کے رکن شیخ عبدالکھیم بن محمد ابوالسّمح (۱۳۰۷ھ-۱۳۹۹ھ) کو امامت و خطابت سوپنی گئی، یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شیخ محمد عبدہ نیز ان کے شاگرد علامہ رشید رضا کے علاوہ جماعت انصار کا مختصر تعارف قارئین کی نظر کیا جائے:

جماعت اسلامی پاکستان کے اہم قلم کار خلیل حامدی نے شیخ محمد عبدہ کے افکار و نظریات پر قدرے تفصیل سے لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے:

”شیخ محمد عبده کے دور میں مصر پر انگریز گورنر لارڈ کرومر کی حکمرانی تھی اور ”مصری وطنیت“ کا نظریہ انگریز خود فروغ دے رہا تھا کیونکہ انگریز چاہتا تھا کہ مصر کو عالم اسلام سے الگ تھلگ کر دیا جائے اور مصری قوم کے دماغ میں یہ بات راسخ کی جائے کہ اسے دوسری مسلمان اقوام خواہ وہ ترک ہوں یا ایرانی یا ہندی ہوں، ان کی طرف دیکھنے کی بجائے صرف اپنے مفادات کی فکر کرنی چاہیے، اس طرح انگریز ایک طرف عربوں کو ترکوں سے جدا کرنا چاہتا تھا اور دوسری طرف عربوں کو عربوں سے بیزار کر رہا تھا..... ہمیں یہ کہنے میں بھی کوئی باک نہیں کہ شیخ محمد عبده جیسے عالم دین بھی لارڈ کرومر کے ہمنواؤں میں شامل تھے..... شیخ کے کام کا اگر ہم خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام اور مغربی تہذیب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے تھے، شیخ محمد عبده، جمال الدین افغانی کے شاگرد تھے اس لئے ہم شیخ محمد عبده کی تحریک کو جمال الدین افغانی کی تحریک ہی کا عکس سمجھتے ہیں..... شیخ محمد عبده کے شاگرد علامہ رشید رضا اور ان کے دیگر ساتھی شیخ محمد عبده کو مجتہد فی الدین کا درجہ دیتے ہیں اور اخلاص و ہزیمت کے لحاظ سے انہیں انتہائی بلند درجے کا امام تصور کرتے ہیں..... مغربی سیاست دانوں کی کتابوں میں بکثرت شیخ محمد عبده کے مدرسہ فکر اور تحریک اصلاح کی تحسین و تعریف کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے مغرب کی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں..... شیخ محمد عبده فری میسن کے ممبر تھے ان کے شاگرد علامہ رشید رضا نے بھی شیخ محمد عبده کی جو سوانح عمری لکھی ہے اس میں اس بات کی تصدیق کی ہے۔“ [۱۱۵]

شیخ محمد عبده اور علامہ رشید رضا کے افکار و نظریات کے تعاقب میں ان کے معاصر اکابر علماء اہل سنت نے قلم اٹھایا جیسا کہ امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل قصیدہ ”الراية الصغریٰ فی ذم البدعة و اھلھا و مدح النہ الغراء“ لکھا جس میں جمال الدین افغانی، شیخ محمد عبده، علامہ رشید رضا کی مذمت کی، اس قصیدہ کے لاتعداد اڈیشن شائع ہوئے، نیز اپنی کتاب ”البشائر الایمانیہ فی المبشرات المنامیہ“ میں شیخ محمد عبده مکتب فکر کا رد کیا [۱۱۶]، اور

جامعہ الازہر کے استاد فلسفی اسلام امام یوسف بن احمد جوہی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۸۷ھ-۱۳۶۵ھ/۱۸۷۰ء-۱۹۴۶ء) نے علامہ رشید رضا کے رد میں ”صواعق من نار فی الرد علی صاحب المنار“ لکھی [۱۱۷]، نیز علامہ زاہد الکوثری مصری رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۹۶ھ-۱۳۷۱ھ/۱۸۷۹ء-۱۹۵۲ء) نے شیخ محمد عبدہ مکتب فکر کے تعاقب میں مقالات لکھے جو قاہرہ کے رسائل میں شائع ہوئے، بعد ازاں ”مقالات الکوثری“ نامی کتاب میں شامل کئے گئے جو قاہرہ و کراچی سے شائع ہوئی [۱۱۸]، علامہ رشید رضا مصری استعماری دور کے ہندوستان کے دورہ پر آئے تو یہاں کے اہل حدیث و دیوبندی علماء نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا، موصوف کا سفر نامہ ہند انہی ایام میں ہندوستان سے شائع کیا گیا۔

جہاں تک جماعت انصار السنۃ الحمدیہ مصر کا تعلق ہے تو اس کا قیام ۱۳۳۵ھ/۱۹۲۶ء کو شیخ محمد حامد فقی مصری (۱۳۱۰ھ-۱۳۷۸ھ/۱۸۹۲ء-۱۹۵۹ء) کے ہاتھوں قاہرہ میں ہوا، شیخ فقی کے والد اور شیخ محمد عبدہ دونوں دوران تعلیم ہم سبق رہ چکے تھے، شیخ محمد حامد فقی کی وفات کے بعد شیخ عبدالرزاق عصفی مصری (۱۳۲۳ھ-۱۳۱۵ھ/۱۹۰۵ء-۱۹۹۲ء) اس جماعت کے صدر بنائے گئے [۱۱۹] جنہیں بعد ازاں تدریس کے لئے مصر سے سعودی عرب طلب کر لیا گیا اور وہیں وفات پائی۔

آج کے اکابر علماء نجد میں سے کثیر تعداد شیخ عبدالرزاق عصفی کے شاگردوں پر مشتمل ہے، ۱۹۶۹ء میں حکومت مصر نے جماعت انصار پر پابندی عائد کر دی اور اس کے ترجمان ماہنامہ ”الھدی النبوی“ کو بند کر دیا، ۱۹۷۲ء میں صدر انوار السادات کے دور میں یہ جماعت دوبارہ سرگرم عمل ہوئی اور ماہنامہ ”التوحید“ جاری کیا، اور ۱۹۹۱ء سے تادم تحریر شیخ صفوت نور الدین اس جماعت کے صدر ہیں [۱۲۰]۔ وہابی تحریک جزیرہ عرب کے علاقہ نجد سے اٹھی تھی جس کے سب سے زیادہ اثرات نجد کے علاوہ اس سے ملحقہ علاقہ قصیم میں پھیلے اور دیگر عرب دنیا میں مصر کی جماعت انصار کا قیام اسی تحریک کے تحت عمل میں آیا اور یہ بیرون سعودی عرب وہابی تحریک کی اشاعت میں سب

سے اہم جماعت ثابت ہوئی۔

الغرض ۱۹۲۲ء سے ۱۹۹۸ء تک کے پورے سعودی عہد میں کل چودہ علماء کو مسجد الحرام کا امام و خطیب مقرر کیا گیا، ان میں سے دو شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کی نسل میں سے تھے جب کہ باقی بارہ میں سے تین مصری نژاد اور سات نجد و قصیم کے باشندے تھے اور اب تک کے پورے سعودی عہد میں صرف دو ائمہ شیخ عبداللہ خیاط اور ان کے بیٹے ڈاکٹر شیخ اسامہ خیاط (پ۔ ۱۳۷۵ھ) مکہ مکرمہ کے باشندے ہیں، ۱۹۹۸ء میں ائمہ و خطباء کی بیک وقت تعداد چھ تھی جن میں سے پانچ نجد و قصیم کے باشندے تھے اور ان کے ذمہ روزانہ ایک ایک نماز کی امامت تھی جب کہ چھٹے امام شیخ اسامہ خیاط مکی تھے جو اضافی امام کے طور پر اس منصب پر تعینات تھے [۱۲۱]۔ عثمانی اور پھر ہاشمی عہد میں مسجد الحرام کے ائمہ و خطباء اہل سنت و جماعت کے چاروں مذاہب حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی علماء سے لئے جاتے تھے اور سعودی عہد میں یہ مناصب صرف وہابی علماء تک محدود کر دیئے گئے۔

مسجد الحرام میں امامت و خطابت کے علاوہ ایک اور اہم منصب ”مفتی“ تھا جس پر چاروں مذاہب نے ایک ایک مفتی بیک وقت تعینات رہتے تھے، عثمانی دور کی وسیع اسلامی سلطنت میں چونکہ اکثریت احناف کی تھی نیز عثمانی سلاطین خود بھی فقہ حنفی پر عمل پیرا تھے، لہذا ملک کے سواد اعظم کا مذہب ہونے کی بنا پر چاروں مذاہب کے مفتیان میں سے اہم منصب ”مفتی احناف“ کا تھا اور ان چاروں مفتیان بالخصوص مفتی احناف کا جاری کردہ فتویٰ نہ صرف ملک بھر بلکہ پوری اسلامی دنیا کے علاوہ دیگر ممالک میں اہمیت رکھتا تھا، یوں اس دور کی مسجد الحرام مسلمانان عالم کے لئے قبلہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم الشان دارالافتاء، اسلامی تحقیقاتی ادارہ اور فقہی مرکز کی شکل اختیار کئے ہوئے تھی۔

سعودی انقلاب برپا ہوا تو شیخ عبداللہ سراج مفتی احناف، شیخ محمد علی مالکی مفتی مالکیہ، علامہ سید عبداللہ زواوی مفتی شافعیہ اور شیخ عبداللہ بن حمید مفتی حنابلہ کے مناصب پر خدمات انجام

دے رہے تھے، انقلاب کے موقع پر ان میں سے اول الذکر تین مفتیان پر کیا جاتی؟ اس کا ذکر گزشتہ سطور میں آچکا جب کہ مفتی حنابلہ شیخ عبداللہ بن حمید نے انقلاب کے تین سال بعد طائف میں وفات پائی۔

حکومت سعودی عرب نے فوری طور پر مفتیان مذاہب اربعہ کے نصاب کو ہی سرے سے ختم کر دیا اور ان کی جگہ ایک نیا منصب ”مفتی الدیار السعودیہ“ تشکیل دے کر اس پر محمد بن عبد الوہاب نجدی کی نسل میں سے شیخ محمد (م۔ ۱۳۸۹ھ/۱۹۶۹ء) بن ابراہیم بن عبدالطیف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب کو تعینات کر کے فتاویٰ کے اجراء کا کام ان کے ذمہ کیا اور اس منصب کو وزیر کا درجہ دیا، ان کے محکمہ کا نام ”الرئاسة العامة للادارات البحوث العلمیة والافتاء والدعوة والارشاد“ رکھ کر اس کا صدر دفتر مکہ مکرمہ سے سینکڑوں میل دور علاقہ نجد کے مرکزی شہر سعودی دارالحکومت ریاض میں بنایا گیا۔

شیخ محمد بن ابراہیم نجدی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیخ ابراہیم (پ۔ ۱۳۴۴ھ) سعودی عرب کے دوسرے مفتی اعظم نامزد کئے گئے اور ان کے دور میں اس محکمہ کو مزید وسعت دی گئی، ۱۳۹۱ھ میں شاہی فرمان کے ذریعے ملک میں حکومت کے ہم خیال اکابر علماء کی سپریم کونسل بنام ”ھیئة كبار العلماء“ تشکیل دی گئی، نیز اسی فرمان کے تحت ایک کمیٹی بنام ”اللجنة الوائمة للبحوث العلمیة والافتاء“ بنائی گئی اور ملک کے مفتی اعظم شیخ ابراہیم اس کمیٹی کے صدر، جماعت انصار السنۃ الحمدیہ مصر کے سابق صدر شیخ عبدالرزاق عصفی مصری اس کے نائب صدر اور دو نجدی علماء اس کے رکن بنائے گئے اور فتویٰ کے اجراء میں یہ کمیٹی مفت اعظم کے ساتھ مل کر کام کرنے لگی، اس کے ایک رکن شیخ عبداللہ بن سلیمان منبع نجدی (پ۔ ۱۳۴۶ھ) گزشتہ پچیس برس سے مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں [۱۲۲]۔

شیخ ابراہیم نجدی ۱۳۹۵ھ میں علالت کے باعث مفتی اعظم کے منصب سے الگ ہوئے تو یہ منصب شیخ عبدالعزیز بن باز (۱۳۳۰ھ۔ ۱۴۲۰ھ) نے سنبھالا، اور ان کی وفات پر شیخ

عبدالعزیز (پ-۱۳۶۲ھ) بن عبداللہ بن محمد بن عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوہاب نجدی کو مفتی اعظم بنایا گیا، مفتی اعظم کی تعیناتی شاہی فرمان کے ذریعے عمل میں آتی ہے اور اب تک پورے سعودی عہد میں کل چار افراد اس پر تعینات کئے گئے، جن کے نام اوپر درج کئے گئے، ان میں تین شیخ محمد بن عبدالوہاب کی نسل میں سے جب کہ چوتھے یعنی شیخ بن باز اس خاندان کے علماء کے شاگرد اور نجدی تھے۔ [۱۲۳]

یوں سعودی عہد کے آغاز پر ہی علماء مکہ مکرمہ کو نہ صرف مسجد الحرام کی امامت و خطابت سے محروم کر دیا گیا بلکہ افتاء جیسے اہم شعبہ کو وہابی نجدی علماء کے لئے مخصوص کر کے اس کا صدر دفتر مکہ مکرمہ ہی سے نہیں پورے حجاز مقدس سے دور منتقل کر دیا گیا۔

سعودی عہد کا آغاز ہوا تو مدرسہ صولتیہ کے قیام پر نصف صدی بیت چکی تھی، جس دوران اس مدرسہ کی شاندار کارکردگی سامنے آچکی تھی، سعودی عہد شروع ہوا تو اس مدرسہ کے ذمہ داران نے دیوبندیت اختیار کر لی اور انہی ایام میں مدرسہ کے زوال کی ابتداء ہوئی، مولانا محمد سعید کیرانوی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے مولوی محمد سلیم کیرانوی (۱۳۲۳ھ-۱۳۹۷ھ) کلی طور پر مدرسہ کے مہتمم ہوئے [۱۲۴]، ان کے بعد مولوی مسعود بن مولوی محمد سلیم کیرانوی اور پھر مولوی ماجد کیرانوی نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ ۱۳۵۴ھ/۱۹۳۵ء میں اس مدرسہ کے طلباء کی تعداد ۶۴۳ تھی جو ۱۳۷۹ھ/۱۹۶۰ء میں گھٹ کر محض ۷۸ طلباء تک آگئی [۱۲۵]، اس مدرسہ کا وجود آج بھی باقی ہے لیکن اعلیٰ تعلیم میں اس کا کردار ختم ہو کر رہ گیا ہے۔

مدرسہ فلاح جس کی ابتداء تقریباً ایک سو طلباء سے ہوئی اور ابتدائی دور میں ہی اس کے طلباء کی تعداد بارہ سو تک پہنچ گئی [۱۲۶] ہاشمی عہد تک اس کا نصاب مذاہب اربعہ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی کو مد نظر رکھ کر مرتب کیا جاتا تھا، پھر سعودی عہد میں یہ نصاب فقہ حنبلی تک محدود کر دیا گیا اور پھر ۱۳۶۲ھ سے اس مدرسہ میں سرکاری نصاب رائج کر دیا گیا [۱۲۷]۔

سعودی انقلاب کے بعد حکمرانوں اور ان کے ہم خیال علماء نجد کے فوری اقدامات کے

نتیجہ میں مسجد الحرام میں صدیوں سے رائج تعلیم و تحقیق کا نظام درہم برہم ہو گیا ادھر مدرسہ صولتیہ کو زوال کے راستہ پر ڈال دیا گیا، اس بدلتی صورت حال میں اس انقلاب کے پہلے عشرہ میں تین نئے مدارس، التجاح، دارالحدیث اور دارالعلوم الدینیہ قائم ہوئے۔

کیم محرم ۱۳۵۰ھ کو شیخ عبداللہ خوجہ نے مدرسہ التجاح قائم کیا، زرکلی نے تاثر دیا ہے کہ یہ ایک دینی مدرسہ تھا [۱۲۸]، لیکن بانی مدرسہ کے بیٹے عمر عبداللہ خوجہ کے مضمون بعنوان ”مدرسہ التجاح“ سے بخوبی عیاں ہے کہ یہ مدرسہ سیکنڈری سطح تک عمومی تعلیم کے لئے کھولا گیا تھا اور اس میں شام کے اوقات میں تعلیم دی جاتی تھی [۱۲۹]۔

حجاز مقدس میں وہابیت کے قدم جما نے کے لئے مصر کی جماعت انصار کے علاوہ برطانوی دور استعمار کے ہندوستان کے اہل حدیث زعماء نے ال سعود خاندان اور علماء نجد کی بھرپور مدد کی، چنانچہ ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۳ء میں ہندوستان کے بعض اہل حدیث حج کے لئے مکہ مکرمہ پہنچے تو امام مسجد الحرام شیخ عبدالظاہر ابوالسبح مصری اے ملاقات کر کے انہیں مکہ مکرمہ میں ایک دینی مدرسہ کے قیام کے لئے مالی اعانت کی پیش کش کی، اس طرح ۱۳۵۲ھ میں شیخ عبدالظاہر نے ”مدرسہ دارالحدیث“ کی بنیاد رکھی [۱۳۰]، آگے چل کر شیخ عبداللہ خیاط کی اس مدرسہ کی مجلس منتظمہ کے صدر ہوئے [۱۳۱]، اور شیخ سلیمان الصنیع عنزی مہاجر کی (۱۳۲۳ھ-۱۳۸۹ھ) اس کی مجلس منتظمہ کے اعزازی رکن رہے [۱۳۲]، اب دارالافتاء ریاض کے رکن، مکہ مکرمہ عدالت کے حج مفتی شیخ عبداللہ سلیمان منبع نجدی اس مدرسہ کی مجلس کے رکن ہیں [۱۳۳]، اور شیخ ناصر البانی (م-۱۹۹۹ء) کے ایک اہم شاگرد شیخ محمد جمیل زینو مدرسہ دارالحدیث میں مدرس تعینات ہیں، اس مدرسہ کے ذمہ داران اسلام اور مسلمانوں کی ”خدمت“ کا فریضہ کس طرح انجام دے رہے ہیں؟ اس کی تازہ مثال شیخ زینو کی تحریروں سے ملاحظہ ہو۔

مصر کے سابق وزیر اوقاف، جامعہ الازہر میں متعدد اہم مناصب پر خدمات انجام دینے والے، شریعت کالج مکہ مکرمہ کے استاد، رابطہ عالم اسلامی کے بانی رکن، الجزائر میں جامعہ

الازہر کے نمائندہ، عالم جلیل و مبلغ اسلام شیخ محمد متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۹۱۱ء۔ ۱۹۹۸ء) جنہوں نے ٹیلی ویژن نشریات کے ذریعے درس قرآن گھر گھر تک پہنچایا نیز کتب تصنیف کیں، فتاویٰ جاری کئے، اور حکومت مصر نے ان کی اسلامی خدمات کے اعتراف میں ملک کا اعلیٰ ترین ایوارڈ پیش کیا، ریاست دہلی کے حکمران نے خصوصی طیارہ قاہرہ مصر بھیج کر شیخ شعراوی کو دہلی منگوا کر ان کے اعزاز میں خاص تقریب منعقد کر کے اس میں انہیں دس لاکھ درہم مالیت کا ”دہلی ایوارڈ“ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، شیخ شعراوی کی نماز جنازہ میں دس لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی، آپ کی رسم چہلم پر حکومت مصر نے خصوصی ڈاک ٹکٹ آپ کی یاد میں جاری کیا اور صدر حسنی مبارک نے آپ کی وفات پر خاص فرمان کے ذریعے ایک خصوصی ایوارڈ منظور کر کے شیخ شعراوی کے ورثاء کو پیش کیا، آپ کے چہلم کے موقع پر قاہرہ کی جامع مسجد سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہم میں تعزیتی اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈاکٹر محمد عبدہ یمانی مکی سمیت پورے عالم عرب کی اہم شخصیات نے شرکت کی اور آپ کی خدمات کو سراہا۔ [۱۳۴]

شیخ شعراوی نے ”انت تسأل والاسلام بحیب“ نامی کتاب کے صفحہ ۳۸ پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حدیث کو صحیح قرار دیا، ۱۹۹۹ء میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر قاہرہ کے ایک کثیر الاشاعت اخبار نے حدیث نور کی تائید میں شیخ شعراوی کا یہ فتویٰ ”النور الحمدی و بدایۃ الخلق“ کے عنوان سے اپنی معمول کی اشاعت میں نمایاں طور پر شائع کیا۔ [۱۳۵]

شیخ شعراوی کے اس فتویٰ کے خلاف شیخ محمد جمیل زینو نے ایک مفصل مضمون لکھا جس کا اردو ترجمہ ”بعض کفریہ اور باطل عقائد“ کے عنوان سے جدہ کے اخبار میں شائع ہوا، شیخ زینو نے اس تحریر میں عرب دنیا کے اس عالم جلیل جن کی خدمات کا اعتراف خاص و عام نے کیا، انہی شیخ شعراوی کو کافر قرار دیتے ہوئے یہ الفاظ لکھے:

”یہ ایسے گمراہ کن عقائد ہیں جن سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔“ [۱۳۶]۔

شیخ شعر اوی کا سلسلہ تلمذ و روایت دو واسطوں سے فاضل بریلوی سے جا ملتا ہے:
 شیخ محمد متولی شعر اوی عن عارف باللہ علامہ سید محمد الحافظ تيجانی مصری مالکی حسینی صاحب
 مجلہ طریق الحق (۱۳۱۵ھ-۱۳۹۸ھ) عن محدث حرین شریفین شیخ عمر حمدان محری و مسند العصر
 علامہ سید محمد عبدالحی کتانی حسی مراکشی و مفتی مالکیہ محمد علی مالکی مکی عن مولانا احمد رضا خاں فاضل
 بریلوی رحمہم اللہ تعالیٰ۔ [۱۳۷]

مدرسہ دارالحدیث کے قیام پر محض چند ماہ گزرے تھے کہ فاضل بریلوی کے خلیفہ شیخ محمد
 علی مالکی مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک انڈونیشی نژاد شاگرد علامہ سید محسن بن علی المساوی مہاجر مکی رحمۃ
 اللہ علیہ (۱۳۲۳ھ-۱۳۵۴ھ / ۱۹۰۵ء-۱۹۳۵ء) نے ۱۳۵۳ھ میں [۱۳۸] انڈونیشیا کے مہاجر
 طلباء کے لئے مدرسہ ”دارالعلوم الدینیہ“ قائم کیا، شیخ محمد علی مالکی ان دنوں محکمہ عدل سے وابستہ
 تھے، آپ نے علامہ سید محسن کی درخواست پر منصب قضاة سے استعفیٰ دے کر دارالعلوم الدینیہ میں
 صدر مدرس کی نشست سنبھالی، شیخ محمد علی مالکی نے اپنی وفات تک تقریباً پندرہ برس اس مدرسہ میں
 بھر پور تدریسی سلسلہ جاری رکھا اور اس دوران آپ سے ۲۲۳ علماء نے اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے سند
 پائی۔ [۱۳۹]

مذکورہ بالا تینوں مدارس یعنی النجاح، دارالحدیث اور دارالعلوم الدینیہ تو افراد نے قائم
 کئے، ادھر سعودی عہد کے آغاز سے ہی حکومت نے پورے ملک میں نیا نظام تعلیم رائج کرنا شروع
 کیا، سب سے پہلے ۱۳۲۴ھ / ۱۹۲۵ء میں ملکی سطح پر نظام تعلیم چلانے کے لئے ایک محکمہ بنام
 ”المدریۃ العامۃ للمعارف“ قائم کیا گیا جس نے ۱۳۳۵ھ / ۱۹۲۶ء کو مکہ مکرمہ میں ایک مدرسہ ”المعهد
 الاسلامی“ اور ۱۳۳۷ھ / ۱۹۲۸ء کو دوسرا مدرسہ ”المعهد العلمی“ قائم کئے، پھر ۱۳۶۹ھ / ۱۹۴۹ء میں
 شریعت کالج مکہ مکرمہ کا قیام عمل میں آیا، ۱۳۳۷ھ / ۱۹۵۳ء میں مذکورہ محکمہ کو وزارت تعلیم کا درجہ

دے کر سعودی عرب کے بادشاہ فہد بن عبدالعزیز السعود (۱۳۳۸ھ-۱۹۲۰ء/۱۳۲۶ھ-۲۰۰۵ء) کو پہلا وزیر تعلیم نامزد کیا گیا، ۱۴۰۱ھ میں اسی کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دے کر اس کا نام ”ام القرئی یونیورسٹی“ رکھا گیا۔ [۱۴۰]

آج جب ہم پندرھویں صدی ہجری کے تیسرے عشرہ میں داخل ہو چکے ہیں، مکہ مکرمہ میں حصول علم کے چار ذرائع رائج ہیں لیکن ان کی نوعیت و اہمیت بدل چکی ہے، سب سے اہم ذریعہ تعلیم سرکاری مدارس، سکول، کالج اور یونیورسٹی ہے جو سعودی حکومت کے مالی مصارف اور علاقہ نجد کے شہر ریاض میں واقع وزارت تعلیم کے فراہم کردہ نصاب پر چل رہے ہیں، دیگر تین ذرائع غیر سرکاری مدارس، مسجد الحرام میں حلقات دروس اور علماء کے گھروں میں قائم تدریسی مجالس ہیں، غیر سرکاری مدارس کا تعارف و کارکردگی کا ذکر گزشتہ صفحات پر آچکا، جہاں تک مسجد الحرام میں تعلیم کا تعلق ہے تو وہاں پر درس و تدریس کا سلسلہ ماند پڑ کر محض ماضی کی روایت کی حد تک باقی رہ گیا، جن حلقات دروس میں تمام اسلامی علوم و فنون میں سیر حاصل تعلیم دی جاتی تھی اب ان حلقات کو ابتدائی دینی معلومات کے بیان تک محدود کر دیا گیا ہے، پروفیسر احمد محمد جمال مکی (۱۳۴۳ھ-۱۴۱۳ء) غالباً آخری اہم فرد تھے جنہوں نے اپنی تمام تعلیم مسجد الحرام میں علامہ سید علوی بن عباس مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں بیٹھ کر مکمل کی، پروفیسر جمال نے عرب دنیا کے علمی حلقوں میں اہم مقام پایا اور مختلف موضوعات پر نظم و نثر میں بتیس سے زائد کتب تصنیف کیں، آپ پنجاب یونیورسٹی کی دعوت پر ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لئے لاہور آئے۔ [۱۴۱]

اب ان حلقات دروس کی تعداد اور دائرہ عمل مسجد الحرام کی موجودہ انتظامی کمیٹی کے سربراہ شیخ محمد السبیل [۱۴۲] کے تازہ ترین بیان سے بخوبی معلوم ہوتا ہے جس میں آپ نے کہا کہ اس وقت حرم مکی شریف میں بائیس تدریسی حلقے کام کر رہے ہیں، جن میں علمائے دین مختلف زبانوں اردو، عربی، انڈونیشی، ملائیشیا اور انگریزی میں تعلیم دیتے ہیں تاکہ حرمین شریفین آنے

والے زائرین کو دینی امور سے آگاہ کیا جاسکے۔ [۱۴۳]

سعودی عہد میں ”کتاتب“ طریقہ تعلیم تو بالکل معدوم ہو کر رہ گیا، نیز علماء کے گھروں میں درس و تدریس کا سلسلہ بھی تیزی سے کم ہوتا چلا گیا لیکن مقامی علماء نے نامساعد حالات کے باوجود اپنے گھروں کے دروازے تشنگان علم کے لئے بند نہیں کئے، آج محدث حجاز و مسند العصر ڈاکٹر علامہ سید محمد بن علوی مالکی کا گھر ایک بڑے مدرسہ کی شکل اختیار کئے ہوئے ہے، آپ کے والد امام جلیل سید علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۳۹۱ھ میں وفات پائی تو ان کی جگہ آپ مسجد الحرام میں درس دینے لگے، پندرہویں صدی ہجری کا آغاز ہوا تو آپ نے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان نیز عقائد اہل سنت و جماعت کی توضیح و تشریح پر ایک ضخیم کتاب بنام ”الذخائر المحمدیہ“ لکھی جو مصر سے شائع ہوئے، جیسے ہی یہ کتاب منظر عام پر آئی آپ کو علماء نجد کی طرف سے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو شرعی عدالت میں طلب کر کے اس کتاب کے مندرجات سے رجوع کرنے پر مجبور کیا گیا، پھر آپ کو مسجد الحرام میں درس و تدریس سے الگ کر دیا گیا، اور مفتی شیخ عبداللہ سلیمان المنیع نجدی نے الذخائر المحمدیہ کے خلاف کتاب ”حوار مع المالکی“ لکھی جس میں دارالافتاء ریاض نے سرکاری اخراجات پر متعدد اڈیشن طبع کرا کے مفت تقسیم کئے [۱۴۴]، علامہ سید محمد علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۲۰۰۴ء) نے الذخائر المحمدیہ نیز عقائد و معمولات اہل سنت کی تائید میں ایک بار پھر قلم اٹھایا اور ”مفہیم بحب ان تصحیح“ کتاب لکھ کر اس پر دنیا بھر کے مشاہیر علماء کی تقریظات حاصل کیں پھر مختلف ممالک سے اس کتاب کے لاتعداد اڈیشن طبع ہوئے، اس پر شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کی نسل میں سے شیخ صالح بن عبدالعزیز نجدی نے اس کے خلاف کتاب ”ہذہ مفہیمنا“ لکھ کر سعودی عرب سے شائع کرائی، یہی شیخ صالح اب وزیر مذہبی امور ہیں۔

۱۴۱۹ھ/۱۹۹۹ء میں راقم السطور کوچ و زیارت کی سعادت حاصل ہوئی تو مکہ مکرمہ کے

محلہ رصیفہ میں شارع مالکی پر واقع علامہ سید محمد بن علوی مالکی کے دولت کدہ پر حاضر ہوا، آپ نے

گھر میں ایک وسیع ہال بنوا رکھا ہے جس میں اس روز آپ نے درس حدیث دیا، جس میں راقم سمیت عرب و عجم کے تقریباً چار سو افراد نے شرکت کی، جس میں تمام حاضرین کی ٹھنڈے زم زم اور عربی قہوہ سے تواضع کی گئی، آپ کے گھر میں قائم اس مدرسہ میں حجاز مقدس، یمن، انڈونیشیا، ملائیشیا و دیگر ممالک کے طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔

۱۹۹۲ء میں علامہ سید محمد مالکی کی تصنیفات ۳۷ سے تجاوز کر چکی تھیں، نیز مشرقی ایشیا کے ممالک میں تیس سے زائد مدارس و مساجد آپ کی نگرانی میں کام کر رہی تھیں [۱۳۵]، چند سال قبل آپ ادارہ منہاج القرآن کی دعوت پر لاہور تشریف لائے اور وہاں خطاب فرمایا، ۱۹۹۹ء میں آپ کراچی تشریف لائے اور دارالعلوم امجدیہ نیز دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ میں طلباء اور علماء و مشائخ کے اجتماعات میں درس حدیث دیا۔

سعودی عہد میں اہل مکہ مکرمہ کا مسجد الحرام کی امامت و خطابت سے محروم کیا جانا، پھر انہیں مسجد الحرام میں تدریس سے الگ کرنا، دارالافتاء می مسجد الحرام سے علاقہ نجد میں منتقلی، علامہ سید محمد بن علوی مالکی کی تصنیفات اور پھر ان کے خلاف سرکاری علماء کی کاروائیاں یہ سب اس کا ثبوت ہیں کہ مکہ مکرمہ جہاں سے اسلام طلوع ہوا اس کے باشندے ماضی کی طرح آج بھی سعودی حکمرانوں اور علماء نجد کے برعکس مسلک اہل سنت و جماعت پر عمل پیرا ہیں۔

حوالہ جات و حواشی

- [۱]۔ اعلام الحجاز فی القرن الرابع عشر للهجرة، محمد علی مغربی، طبع دوم ۱۳۱۵ھ/۱۹۹۲ء، مطابع دارالبلاد جدہ، ج ۲، ص ۳۶
- [۲]۔ الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية، ڈاکٹر بکری شیخ امین، طبع چہارم ۱۹۸۵ء، دارالعلم للملایین بیروت (لبنان)، ص ۱۳۷
- [۳]۔ نثر الدرر فی تزییل نظم الدرر فی تراجم علماء مکہ من القرن الثالث عشر الی الرابع عشر، شیخ عبداللہ غازی مہاجرکی، مخطوط، ضمیمہ ص ۱-۵
- [۴]۔ الحركة الادبية، ص ۱۳۲
- [۵]۔ سیر و تراجم بعض علمائنا فی القرن الرابع عشر للهجرة، عمر عبدالجبارکی، طبع سوم ۱۳۰۳ھ/۱۹۸۲ء، مکتبہ تھامہ جدہ، ص ۲۰
- [۶]۔ اعلام الحجاز، طبع دوم ۱۳۰۵ھ/۱۹۸۵ء مطابع دارالعلم جدہ، ج ۱، ص ۵۲
- [۷]۔ حسین بن علی ہاشمی جو بعد ازاں حجاز میں مملکت ہاشمیہ کے بانی ہوئے ان کے حالات ملاحظہ ہوں:
- الاعلام، خیر الدین زرکی، طبع دہم ۱۹۹۲ء، دارالعلم للملایین بیروت، ج: ۲، ص ۲۳۹-۲۵۰
- [۸]۔ الدلیل المشیر، علامہ سید ابوبکر بن احمد حبشی مکی، طبع اول ۱۳۱۸ھ/۱۹۹۷ء مکتبہ المکیہ مکہ مکرمہ، ص ۳۹۹۔ تجلیات مہر انور، علامہ سید شاہ حسین گردیزی، طبع اول ۱۳۱۲ھ/۱۹۹۲ء، مکتبہ مہریہ گولڑا شریف اسلام آباد، ص ۲۳۰
- [۹]۔ شیخ عبداللہ سراج حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:
- نثر الدرر، ص ۴۷-۴۸، اعلام الحجاز، طبع اول ۱۳۱۰ھ/۱۹۹۰ء مطابع المدنی قاہرہ مصر،

ج ۳، ص ۳۷۴-۳۹۳، سالنامہ معارف رضا شمارہ ۱۴۱۹ھ / ۱۹۹۸ء ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی، ص ۱۷۱-۱۸۱

[۱۰]۔ اعلام الحجاز، ج ۲، ص ۳۶-۳۷، نثر الدرر ضمیمہ ص ۵-۹

[۱۱]۔ علامہ سید احمد زینی دحلان شافعی مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر ان کے شاگرد

علامہ سید بکری شطاک مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۶۶ھ-۱۳۱۰ھ / ۱۸۴۹ء-۱۸۹۲ء) نے کتاب ”نفس

الرحمن فی بعض مناقب السید احمد بن زینی دحلان“ لکھی۔ مزید حالات کے لئے: رجال من مکة

المکترمة، زہیر محمد جمیل کتبی مکی، طبع اول ۱۴۱۲ھ / ۱۹۹۲ء مطابع دارالفنون جدہ، ج ۳،

ص ۱۸۸-۱۹۶، فہرس الفہارس والاثبات، علامہ سید عبدالحی کتانی مراکشی، طبع دوم ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۲ء

دارالغرب الاسلامی بیروت، ج ۱، ص ۳۹۰-۳۹۲، الاعلام، ج ۱، ص ۱۲۹، نظم الدرر، ص ۱۵۹-۱۶۰،

ماہنامہ العرب، الرياض، شمارہ مئی ۱۹۷۱ء، ص ۸۶۴-۸۶۸، سالنامہ معارف رضا کراچی، شمارہ

۱۴۱۹ھ / ۱۹۹۸ء، ص ۱۷۷-۱۷۸

[۱۲]۔ علامہ سید حسین بن صالح جمل اللیل شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے

دیکھئے:

الشجرة الزكية فی الانساب وسیر آل بیت النبوة، بریگیڈ سیر سید یوسف جمل اللیل، طبع

اول ۱۴۱۲ھ، مطبع دارالحارثی طائف، المختصر من کتاب نشر النور والزهر تراجم افاضل مکة من القرن

العاشر الی القرن الرابع عشر، شیخ عبداللہ ابو الخیر مرداد، طبع دوم ۱۴۰۶ھ / ۱۹۸۶ء عالم المعرفة جدہ،

ص ۱۷۷، نظم الدرر، ص ۱۷۳، معارف رضا، شمارہ ۱۹۹۸ء، ص ۱۸۲-۱۸۹

[۱۳]۔ شیخ عبدالرحمن سراج حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ملاحظہ ہوں:

اعلام الحجاز، ج ۳، ص ۳۳۹-۳۹۳، مختصر نشر النور، ص ۲۴۳-۲۴۴، نظم الدرر، ص

۱۸۳-۱۸۴، معارف رضا ۱۹۹۸ء، ص ۱۶۵-۱۸۱

[۱۴]۔ علامہ سید ابوبکر البار رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:

اہل الحجاز بعقہم تاریخی، حسن عبدالحی قزاز مکہ، طبع اول ۱۳۱۵ھ/۱۹۹۴ء، مطابع
المدینۃ جدہ، ص ۲۶۸-۲۷۰، تشیف الاسماع بشیوخ الاجازۃ والسماع، شیخ محمود سعید مدوح، سن
تصنیف ۱۴۰۳ھ، طبع اول، دارالشباب للطباعة قاہرہ، ص ۳۱-۳۲، الدلیل المشیر، ص ۲۱-۲۵،
سیر و تراجم، ص ۲۱-۲۵، نثر الدرر، ص ۲۴، معارف رضا کراچی ۱۹۹۹ء، ص ۲۰۰-۲۰۲

[۱۵]۔ علامہ سید ابو بکر شطرا رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر آپ کے شاگرد شیخ عبدالحمید
قدس رحمۃ اللہ علیہ (م-۱۳۳۴ھ) نے کتاب ”کنز العطاء فی ترجمۃ العلامة السید بکری
شطرا“ ۱۳۳۰ میں لکھی جو مصر سے شائع ہوئی، نیز دیکھئے: نظم الدرر فی اختصار نثر النور والزهري تراجم
افاضل مکہ، شیخ عبد اللہ غازی مکی، مخطوط ص ۱۶۹، الاعلام، ج ۴، ص ۲۱۴، سیر و تراجم، ص ۸۰-۸۱،
مختصر نثر النور، ص ۱۴۳-۱۴۵

[۱۶]۔ شیخ احمد ابوالخیر مرداد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:

سیر و تراجم، ص ۶۰-۶۱، مختصر نثر النور، ص ۳۲، نثر الدرر، ص ۲۰، نظم الدرر، ص ۱۶۴-۱۶۵

[۱۷]۔ شیخ احمد حضراوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:

اعلام الحجاز، ج ۳، ص ۷۳-۷۴، الاعلام، ج ۱، ص ۲۴۹، فہرس الفہارس، ج ۱،
ص ۳۲۷-۳۲۸، سیر و تراجم، ص ۵۷-۵۸، مختصر نثر النور، ص ۸۲-۸۵، نظم الدرر،
ص ۱۶۶-۱۶۷، ماہنامہ العرب شمارہ شعبان ۱۳۸۷ھ، ص ۱۱۲-۱۱۳، نیز شمارہ رمضان ۱۳۸۷ھ،
ص ۲۰۰-۲۰۲، سالنامہ معارف رضا کراچی، شمارہ ۱۹۹۹ء، ص ۲۰۳-۲۱۵

[۱۸]۔ مولانا احمد بن ضیاء الدین مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:

مختصر نثر النور، ص ۸۰-۸۱، نظم الدرر، ص ۱۶۳

[۱۹]۔ مولانا قاری احمد بن عبد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:

آپ کی تصنیف ”مجلۃ الاحکام الشرعیۃ“ طبع اول ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء مطبوعہ جدہ کے
ابتدائی ۷۵ صفحات پر ڈاکٹر عبدالوہاب ابراہیم ابوسلیمان مکی و ڈاکٹر ابراہیم احمد علی مکی کا تحریر کردہ

مقدمہ، نیز اعلام الحجاز، ج ۲، ص ۶-۱۶، اہل الحجاز بعقبہم التاریخی، ص ۲۶۴-۲۶۶، سیر و تراجم، ص ۳۳-۳۵، تجلیات مہر انور، ص ۲۳۰-۲۳۶، و دیگر صفحات

[۲۰]- شیخ احمد ناصرین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:

اہل الحجاز، ص ۲۵۵-۲۵۷، تشذیب الاسماع، ص ۵۹-۶۰، الدلیل المشیر، ص ۳۷-

۵۱، سیر و تراجم، ص ۴۷-۵۰، نثر الدرر، ص ۲۴

[۲۱]- شیخ اسد دھان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:

اہل الحجاز، ص ۲۵۸، سیر و تراجم، ص ۷۲-۷۳، مختصر نثر النور، ص ۱۲۹-۱۳۰، نظم الدرر،

ص ۱۶۷-۱۶۸، معارف رضا کراچی، ۱۹۹۹ء، ص ۱۹۴-۱۹۵

[۲۲]- علامہ سید اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۲۸ھ میں امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ

اللہ علیہ سے ملنے کے لئے مکہ مکرمہ سے بریلی آئے۔ (المملفوظ، مرتبہ مولانا مصطفیٰ رضا خاں بریلوی، مدینہ پہلی کیشنز کراچی، ج ۲، ص ۱۳۹)

[۲۳]- شیخ جمال مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:

سیر و تراجم، ص ۹۰-۹۲، مختصر نثر النور، ص ۱۶۳، نظم الدرر، ص ۱۷۲

[۲۴]- شیخ حسن عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات نثر الدرر، ص ۲۶ پر درج ہیں۔

[۲۵]- علامہ سید حسین دحلان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:

مختصر نثر النور، ص ۱۷۹، نظم الدرر، ص ۱۷۳، پاک ہند سے شائع ہونے والی کتب میں

آپ کا نام علامہ سید عثمان دحلان مذکور ہے جو کہ کتابت کی غلطی ہے۔

[۲۶]- شیخ خلف بن ابراہیم حنبلی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۱۳۱۵ھ تقریباً) کے حالات

کے لئے دیکھئے: علماء نجد خلال ثمانیۃ قرون، شیخ عبداللہ بسام، طبع دوم ۱۴۱۹ھ دار العاصمہ ریاض،

ج ۲، ص ۱۵۳-۱۵۷، مختصر نثر النور، ص ۴۲۴، نظم الدرر، ص ۱۴۴

[۲۷]- شیخ صالح محمد بافضل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:

- سیر و تراجم، ص ۱۳۲-۱۳۳، مختصر نشر النور، ص ۲۱۲-۲۱۳، نظم الدرر، ص ۱۸۲
- [۲۸]- شیخ صالح کمال حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:
- اہل الحجاز، ص ۲۸۲، سیر و تراجم، ص ۲۳۳-۲۳۵، مختصر نشر النور، ص ۲۱۹، نظم الدرر،
ص ۱۸۲-۱۸۳، معارف رضا ۱۹۹۹ء، ص ۱۹۵-۱۹۶
- [۲۹]- شیخ عبدالحمید قدس رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف لطیف ”الذخائر القدسیة فی زیارة
خیر البریة“ کا ایک مطبوعہ نسخہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ ضلع سرگودھا (پاکستان) کی مرکزی
لائبریری میں موجود ہے۔
- [۳۰]- شیخ عبدالحمید قدس رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آپ کی تصنیف ”کنز النجاح
والسرور فی الادعیة التی تشرح الصدور“ قدیم اڈیشن کا عکس، طبع ۱۴۱۹ھ/۱۹۹۸ء کے ابتدائی سات
صفحات پر دیئے گئے ہیں۔ نیز دیکھئے: سیر و تراجم، ص ۱۵۷-۱۵۹، مختصر نشر النور، ص ۲۳۶-۲۳۸،
نظم الدرر، ص ۱۹۳، الاعلام، ج ۳، ص ۲۸۸-۲۸۹
- [۳۱]- شیخ عبدالرحمن دھان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:
- سیر و تراجم، ص ۱۶۰-۱۶۲، مختصر نشر النور، ص ۲۳۱-۲۳۲، نظم الدرر، ص ۱۸۲-۱۸۵
- [۳۲]- علامہ سید عبدالکریم داعستانی مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے
- سیر و تراجم، ص ۲۱۲، مختصر نشر النور، ص ۲۷۹، نظم الدرر، ص ۱۹۳-۱۹۵
- [۳۳]- شیخ عبداللہ ابوالخیر مراد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:
- اعلام الشریقیة فی المائۃ الرابعة عشرة لہجرة، طبع دوم ۱۹۹۴ء، دارالغرب الاسلامی
بیروت، ج ۲، ص ۹۰۲-۹۰۳، اہل الحجاز، ص ۲۷۶، سیر و تراجم، ص ۱۹۳-۱۹۵، مختصر نشر النور،
ص ۳۱-۳۲، نشر الدرر، ص ۴۳، الاعلام، ج ۴، ص ۷۰، معارف رضا ۱۹۹۹ء، ص ۱۹۷-۱۹۸
- [۳۴]- شیخ عبداللہ بن حمید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:
- الاعلام، ج ۴، ص ۱۰۸، اہل الحجاز، ص ۲۸۷، سیر و تراجم، ص ۲۰۰-۲۰۱

[۳۵]۔ علامہ سید عبداللہ دحلان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:

الاعلام، ج ۴، ص ۹۳، اہل الحجاز، ص ۳۰۱-۳۰۳، رجال من مکة المكرمة، ج ۳، ص ۱۹۸-۲۱۸، مختصر نشر النور، ص ۲۹۴، نثر الدرر، ص ۴۸، نظم الدرر، ص ۱۹۱، معارف رضا ۱۹۹۹ء، ص ۱۹۸-۲۰۰

[۳۶]۔ شیخ علی بن صدیق کمال رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:

اہل الحجاز، ص ۲۷۵، سیر و تراجم، ص ۱۳۹، مختصر نشر النور، ص ۳۷۲، نظم الدرر، ص ۲۰۱-۲۰۲

[۳۷]۔ علامہ سید علوی سقاف شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:

الاعلام، ج ۴، ص ۲۴۹، سیر و تراجم، ص ۱۳۷-۱۳۸، مختصر نشر النور، ص ۳۲۳-۳۲۵، نظم الدرر، ص ۱۸۹-۱۹۰

[۳۸]۔ مجموع فتاویٰ و رسائل، امام سید علوی مالکی، ۱۴۱۳ھ میں ۲۶۴ صفحات پر مشتمل یہ کتاب دس ہزار کی تعداد میں شائع ہوئی۔

[۳۹]۔ علامہ سید علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و علمی اسناد پر ان کے فرزند ڈاکٹر سید محمد علوی مالکی علیہ الرحمہ نے کتاب ”العقود اللؤلؤیۃ بالاسانید العلویۃ“ لکھی جس کے دو اڈیشن شائع ہوئے، علاوہ ازیں مجموع فتاویٰ و رسائل کے ابتدائی چھ صفحات پر آپ کے حالات قلمبند کئے، نیز دیکھئے الاعلام، ج ۴، ص ۲۵۰، اعلام الحجاز، ج ۲، ص ۲۷۲-۲۸۴، تشنیف الاسماع، ص ۳۸۴-۳۸۷، روزنامہ الندوة مکہ مکرمہ، شمارہ ۱۳ نومبر ۱۹۹۷ء فاروق باسلامتہ کا مضمون بعنوان ”شخصیات مکیہ۔ علوی المالکی، ماہنامہ اعلیٰ حضرت، بریلی، مفتی اعظم ہند نمبر، شمارہ ستمبر، نومبر ۱۹۹۰ء، ص ۷۹۔ سالنامہ معارف رضا کراچی

[۴۰]۔ شیخ عمر بن ابی بکر باجنید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے: تشنیف

الاسماع، ص ۴۲۲-۴۲۵، الدلیل المشر، ص ۲۹۶-۲۹۸، سیر و تراجم، ص ۱۳۷-۱۳۸، نثر الدرر،

[۴۱]- شیخ عمر حمدان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض اسناد کے متعلق مختصر کتاب ”اتحاف ذوی العرفان بعض اسانید عمر حمدان“ لکھی جسے ۱۳۶۷ھ / ۱۹۴۸ء میں مکتبہ الاقتصاد مکہ مکرمہ نے شائع کیا، بعد ازاں آپ کے شاگرد شیخ محمد یاسین فادانی مکی (م- ۱۴۱۱ھ) نے آپ کے حالات و اسناد پر تین ضخیم جلدوں پر مشتمل ”مطمح الوجدان فی اسانید الشیخ عمر حمدان“ لکھی، پھر خود ہی اس کی تلخیص دو جلدوں میں ”اتحاف الاخوان باختصارح الوجدان“ کے نام سے کی جس کی پہلی جلد کا پہلا ایڈیشن ۱۳۷۱ھ / ۱۹۵۲ء میں قاہرہ سے اور دوسرا ۱۴۰۶ھ / ۱۹۸۵ء میں دارالبصائر دمشق نے شائع کیا، نیز دیکھئے اعلام من ارض البوۃ، انس یعقوب کتبی مدنی، طبع اول ۱۴۱۴ھ / ۱۹۹۳ء مطابع دارالبلاد جدہ، ج ۱، ص ۱۶۹-۱۸۲، تشییف الاسماع، ص ۴۲۶-۴۳۲، الدلیل المشیر، ص ۳۱۰-۳۲۷، سیر و تراجم، ص ۲۰۴-۲۰۷، نثر الدرر، ص ۴۵

[۴۲]- شیخ محمد حامد احمد جداوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سیر و تراجم، ص ۲۳۶ پر درج

ہیں

[۴۳]- شیخ محمد سعید باہصیل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے: سیر و تراجم،

ص ۲۴۴، نثر الدرر، ص ۵۶

[۴۴]- شیخ محمد عابد مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے

الاعلام، ج ۳، ص ۲۴۲، اعلام الحجاز، ج ۳، ص ۳۴۷-۳۵۴، سیر و تراجم، ص ۱۵۲۔

۱۵۳، معارف رضا ۱۹۹۸ء، ص ۱۷۹-۱۸۰

[۴۵]- علامہ ڈاکٹر سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے مزید

دیکھئے:

اہل الحجاز، ص ۲۸۹-۲۹۱، رجال من مکة المكرمة، ج ۲، اردو میں آپ پر متعدد

مضامین پاک و ہند سے طبع ہوئے، مثلاً مفتی محمد خان قادری کا مفصل مضمون ڈاکٹر سید محمد مالکی کی

ایک اور اہم تصنیف ”شفاء الفواد فی زیارة خیر العباد“ کے اردو ترجمہ کے آغاز میں نیز ماہنامہ جہان رضالاہور میں شائع ہوا۔

علامہ سید علوی مالکی اور ان کے فرزند علامہ ڈاکٹر سید محمد مالکی سعودی عہد میں مسجد الحرام میں مدرس رہے، راقم نے یہاں ان کے اسماء گرامی پوری چودھویں صدی ہجری کے اہم مدرسین مسجد الحرام کی حیثیت سے درج کئے ہیں۔

[۴۶]۔ شیخ محمد علی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و اسناد پر ان کے شاگرد شیخ محمد یاسین فادانی نے کتاب ”المسلک الجلی فی اسانید فضیلة الشیخ محمد علی“ لکھی جسے دارالطباعة المصریة الحدیثہ نے طبع کیا، مزید دیکھئے الاعلام، ج ۶، ص ۳۰۵، تشذیف الاسماع، ص ۳۹۳-۳۹۷، الدلیل المشر، ص ۲۷۱-۲۷۷، سیر و تراجم، ص ۲۶۰-۲۶۵، نثر الدرر، ص ۴۴، فہرس مخطوطات مکتبہ مکة المکرمہ، پروفیسر ڈاکٹر عبدالوہاب ابراہیم ابوسلیمان وغیرہ دس اہل علم نے مل کر مرتب کی، طبع اول ۱۴۱۸ھ / ۱۹۹۷ء، مکتبہ الملک فہد الوطنیہ الرياض، ص ۵۲۵ و دیگر صفحات، ماہنامہ المنہل جدہ، شمارہ جولائی ۱۹۴۸ء مضمون بعنوان ”علماؤنا المعاصرون۔ محمد علی مالکی“ از قلم ایڈیٹر المنہل شیخ عبدالقدوس انصاری مدنی (م-۱۴۰۳ء)، ص ۳۵۵-۳۵۸

[۴۷]۔ شیخ محمد مراد قازانی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف الاعلام، ج ۷، ص ۹۵ پر ملاحظہ ہو۔ مکتوبات امام ربانی کے مکہ مکرمہ اڈیشن کا ایک نسخہ مجلس علمی لائبریری کراچی میں موجود ہے۔

[۴۸]۔ علامہ سید محمد مرزوقی ابوحسین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:

اہل الحجاز، ص ۲۸۳-۲۸۴، تشذیف الاسماع، ص ۵۰۷-۵۰۸،

[۴۹]۔ شیخ محمد بن یوسف خیاط رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:

الاعلام، ج ۷، ص ۱۵۶، سیر و تراجم، ص ۱۱۰-۱۱۱، مختصر نثر النور، ص ۴۲۹-۴۳۰،

نثر الدرر، ص ۵۷

[۵۰]۔ شیخ محمود شکری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات مختصر نثر النور، ص ۴۹۵، نظم الدرر،

ص ۲۰۴ پر درج ہیں

[۵۱]- شیخ مختار بن عطار در رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے: تشنیف الاسماع،

ص ۵۲۲-۵۲۳، سیر و تراجم، ص ۲۳۵، نثر الدرر، ص ۵۷

[۵۲]- منوفی خاندان کے چند اور علماء کرام کے اسماء گرامی یہ ہیں: شیخ محمد بن احمد منوفی

(م-۱۰۳۳ھ)، شیخ محمد بن محمد منوفی (م-۱۰۹۱ھ)، مفتی شافعیہ شیخ سعید منوفی (م-۱۱۲۰ھ)، شیخ

زین العابدین منوفی (م-۱۱۵۱ھ)، شیخ تاج الدین منوفی (م-۱۱۵۷ھ)، شیخ حسین

منوفی (م-۱۱۶۷ھ) اور شیخ ابراہیم منوفی (م-۱۱۸۷ھ) رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان سب کے حالا

ت مختصر نثر النور اور نظم الدرر میں درج ہیں۔

[۵۳]- اہل الحجاز، ص ۱۷۷-۱۷۹، الحركة الادبیة، ص ۱۴۰، مختصر نثر النور،

ص ۲۳۰-۲۳۱، نظم الدرر، ص ۳۶

[۵۴]- اعلام الحجاز، ج ۲، ص ۴۶، اہل الحجاز، ص ۱۷۷-۱۷۸

[۵۵]- الحركة الادبیة، ص ۱۳۵

[۵۶]- اعلام الحجاز، ج ۲، ص ۲۸۶-۳۱۳، المنہل، جنوری ۱۹۸۹ء، ص ۱۵۲-۱۶۷

[۵۷]- الموسوعة المیسرة فی الادیان والمذاهب والاحزاب المعاصرة، ڈاکٹر مانع بن

حماد الجھنی، طبع سوم ۱۴۱۸ھ، دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع الرياض، ج ۱، ص ۳۱۱

[۵۸]- اعلام الحجاز، ج ۲، ص ۲۹۳، سیر و تراجم، ص ۱۰۸-۱۱۲، مہر منیر، مولانا فیض احمد

فیض، طبع پنجم ۱۹۸۷ء، دربار عالیہ گولڑا شریف ضلع اسلام آباد، ص ۳۹۸-۴۰۰

[۵۹]- الموسوعة المیسرة، ج ۱، ص ۳۰۸

[۶۰]- حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے: علماء العرب

فی شبه القارة، شیخ یونس ابراہیم السامرائی، طبع اول ۱۹۸۶ء، وزارت اوقاف بغداد (عراق)،

ص ۷۲۸-۷۲۹، مختصر نثر النور، ص ۱۳۳، نظم الدرر، ص ۱۶۸

[۶۱]۔ انوار ساطعہ در بیان مولود و فاتحہ، مولانا عبدالسمیع میرٹھی رامپوری، مطبع
۱۳۳۶ھ، مطبع مجتہائی دہلی، ص ۲۹۷

[۶۲]۔ تجلیات مہر انور، ص ۳۱۰-۳۳۵

[۶۳]۔ مولانا محمد سعید کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے: نثر الدرر،
ص ۷۴، تجلیات مہر انور، ص ۳۲۹

[۶۴]۔ مولانا حضرت نور افغانی پشاورى مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات مختصر نثر
النور، ص ۵۰۳-۵۰۴ اور نظم الدرر ۲۱۴ پر درج ہیں

[۶۵]۔ مہر منیر، ص ۱۱۸-۱۱۹

[۶۶]۔ الاجازة فی الذکر الجھر مع الجازة، مولانا محمد عمر الدین ہزاروی، مطبع دوم، مطبع
گلزار حسینی بمبئی

[۶۷]۔ اعلام الحجاز، ج ۲، ص ۲۱-۳۰۵، الحركة الادبیة، ص ۱۴۷-۱۴۸

[۶۸]۔ الحاج محمد علی زینل کے حالات اعلام الحجاز، ج ۱، ص ۳۱۶-۳۳۰ پر ملاحظہ ہوں

[۶۹]۔ علامہ سید ابوبکر حبشی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ان کی تصنیف الدلیل المشیر کے

آغاز میں درج ہیں۔ نیز دیکھئے: الاعلام، ج ۲، ص ۶۲، اہل الحجاز، ص ۲۶۰-۲۶۲، سیر و تراجم،
ص ۲۵-۲۷، نثر الدرر، ص ۲۳

[۷۰]۔ علامہ سید حسین حبشی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پر آپ کے شاگرد شیخ عبدالحمید

قدس نے ”مواہب المعید المنشی فی مآثر السید حسین الحسبشی“ لکھی جس کا مخطوطہ مکہ مکرمہ

لابیریری میں زیر نمبر ۸۴/ تاریخ موجود ہے، آپ کے دوسرے شاگرد شیخ عبداللہ غازی مکی

(م-۱۳۶۵ھ) نے ”فتح القوی فی ذکر اسانید السید حسین الحسبشی العلوی“ لکھی جس کا پہلا

اڈیشن ۱۳۱۸ھ/۱۹۹۷ء میں مکہ مکرمہ سے شائع ہوا، نیز دیکھئے: الدلیل المشیر، ص ۹۲-۹۷، سیر و

تراجم، ص ۹۹، فہرس الفہارس، ج ۱، ص ۳۲۰-۳۲۱، مختصر نثر النور، ص ۱۷۷-۱۷۹، نظم الدرر،

ص ۱۷۲-۱۷۳

[۷۱]- علامہ یوسف نبھانی فلسطینی ثم بیرونی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے ان کی تصنیف ”اتحاد المسلم“، طبع اول ۱۴۱۱ھ / ۱۹۹۱ء، مرکز جمعۃ الماجد للثقافة والتراث دہلی، حالات مصنف از قلم مامون الصاغر جی، ص ۴۵-۵۴، ڈاکٹر عیسیٰ محمد علی الماخی نے علامہ نبھانی پر مقالہ ڈاکٹریٹ لکھ کر ۱۹۷۸ء میں جامعہ ازہر سے ڈگری حاصل کی، الاعلام، ج ۸، ص ۲۱۸، الدلیل المشر، ص ۴۰۱-۴۱۲، فہرس الفہارس، ج ۱، ص ۱۸۴-۱۸۵، ج ۲، ص ۱۱۰-۱۱۱، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الشعر الحدیث، ڈاکٹر حلیمی قاعود، طبع اول ۱۴۰۸ھ / ۱۹۸۷ء، دارالوفا منصورہ مصر، ص ۱۲۶-۱۲۸، خلیل احمد رانا نے آپ پر اردو میں مختصر کتاب ”نابغہ فلسطین“ لکھی جو ادارہ دارالرفیق گنج بخش لاہور سے شائع ہوئی، ماہنامہ نعت لاہور نے فروری ۱۹۹۳ء میں آپ کی نعتیہ شاعری پر خصوصی اشاعت پیش کی۔

[۷۲]- الدلیل المشر میں آپ نے اپنے ایک سو دو سے زائد اساتذہ و مشائخ کے حالات قلمبند کئے ہیں۔

[۷۳]- الدلیل المشر، ص ۲۵۴، ۳۸۸، ۴۳۷

[۷۴]- علامہ سید اسحاق عزوز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آپ کی تصنیف ”اطیب الذکر فی مناقب و اخبار خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا“، طبع اول ۱۴۱۹ھ / ۱۹۹۸ء کے آغاز میں دیئے گئے ہیں، نیز دیکھئے: اہل الحجاز، ص ۲۰۲ و دیگر صفحات، رجال من مکة المکرمہ، ج ۳، ص ۱۲۵-۱۲۱

[۷۵]- مدرسہ فلاح مکہ مکرمہ کی مختصر تاریخ اہل الحجاز، ص ۱۸۷-۲۰۱ پر درج ہے، نیز دیکھئے: المنہل شمارہ جنوری ۱۹۸۹ء میں محمود عارف کا مضمون ”مدارس الفلاح“، ص ۱۶۸-۱۷۱

[۷۶]- علامہ سید محمد عبدالباری رضوان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:

اہل الحجاز، ص ۲۸۵-۲۸۷، سیر و تراجم، ص ۲۸۹-۲۹۰

[۷۷]- علامہ سید عباس رضوان مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:
اعلام من ارض النبوة، ج ۲، ص ۱۱۳-۱۱۷، تشنیف الاسماع، ص ۲۶۲-۲۶۵، المنہل،
شمارہ اپریل ۱۹۷۰ء، عبدالقدوس انصاری کا مضمون ”تراجم العلماء۔ السید عباس رضوان المدنی“
ص ۱۳۱-۱۳۵

[۷۸]- علامہ سید عبدالحسن رضوان رحمۃ اللہ علیہ کے حالات تشنیف الاسماع،
ص ۳۶۱-۳۶۲ پر ملاحظہ ہوں۔

[۷۹]- ماہنامہ اعلیٰ حضرت، بریلی، مفتی اعظم ہند نمبر، ص ۷۸

[۸۰]- شیخ محمد امین سوید دمشقی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:

تاریخ علماء دمشق فی القرن الرابع عشر الهجری، محمد مطیع الحافظ و نزار اباطہ، طبع اول
۱۳۰۶ھ/۱۹۸۶ء دارالفکر دمشق، ج ۱، ص ۵۰۳-۵۰۸، الاعلام، ج ۶، ص ۴۴، الدلیل المشیر،
ص ۵۹-۶۳

[۸۱]- شیخ محمود عطار دمشقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:

استجاب القیام عند ذکر ولادته علیہ الصلوٰۃ والسلام، شیخ محمود عطار، طبع ۱۳۱۹ھ/۱۹۹۸ء،
حالات مصنف، ص ۵-۱۰، الاعلام، ج ۷، ص ۱۶۹، تاریخ علماء دمشق، ج ۲، ص ۵۹۶-۵۹۹
[۸۲]- اس فتوے کے مکمل متن کے لئے دیکھئے: براہین قاطعہ، مولانا خلیل احمد
انبیٹھوی، طبع ۱۹۸۷ء، دارالاشاعت کراچی، ص ۱۵۱-۱۵۲

[۸۳]- ماہنامہ حقائق، دمشق، شمارہ محرم ۱۳۳۰ھ، ص ۲۰۱-۲۱۲

[۸۴]- الدلیل المشیر، ص ۴۰۳

[۸۵]- مولانا عبدالحق الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے:

علماء العرب فی شبه القارة الهندیہ، ص ۷۷۶، فہرس القبارس والاثبات، ج ۲،
ص ۷۲۸، مختصر نشر النور، ص ۲۳۳، نظم الدرر، ص ۲۰۲-۲۰۳، الاعلام، ج ۶، ص ۱۸۶، المملفوظ، ج ۲،

ص ۱۳۶

[۸۶]- الاعلام، ج ۶، ص ۱۸۶

[۸۷]- مختصر نشر النور، ص ۲۳۳، نظم الدرر، ص ۲۰۳

[۸۸]- المسلك الجلی فی اسانید فضیلة الشیخ محمد علی، مختلف صفحات، الدلیل المشیر،

ص ۳۸۴، ۳۹

[۸۹]- خیر الدین زرکلی نے اپنے مختصر حالات زندگی خود تحریر کئے جو الاعلام، ج ۸،

ص ۲۶۷-۲۷۰ پر درج ہیں

[۹۰]- المسلك الجلی، ص ۸-۱۱

[۹۱]- الدلیل المشیر، ص ۲۱۹

[۹۲]- مختصر نشر النور، ص ۲۳۳، نظم الدرر، ص ۲۰۲

[۹۳]- علامہ سید محمد عبدالحی کتانی مراکشی رحمۃ اللہ علیہ نے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

سے خلافت پائی، آپ کے حالات کے لئے دیکھئے: فہرس الفہارس والاثبات، حالات مصنف،

ج ۱، ص ۵-۴۴، الاعلام، ج ۶، ص ۱۸۷، الدلیل المشیر، ص ۱۳۸-۱۷۵، تشنیف الاسماع،

ص ۲۷۸-۲۸۴، المملفوظ، ج ۲، ص ۱۲۹، علامہ کتانی کی ایک ضخیم تصنیف ”التراتب الاداریہ“ کا

اردو ترجمہ ۱۹۹۱ء میں کراچی سے بنام ”عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی تمدن“ شائع ہوا، علامہ

شاہ ابوالحسن زید فاروقی مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (م-۱۹۹۴ء) نے علامہ کتانی سے سند روایت

پائی۔

[۹۴]- فہرس الفہارس والاثبات، ج ۲، ص ۷۲۸

[۹۵]- المملفوظ، ج ۲، ص ۱۳۶-۱۳۷

[۹۶]- سیر و تراجم، ص ۱۵۲

[۹۷]- شیخ ہاشم اشعری انڈونیشی کے حالات تشنیف الاسماع، ص ۵۶۲-۵۶۳ پر

درج ہیں۔ روز نامہ اردو نیوز جدہ، شماره ۱۶ نومبر ۱۹۹۹ء، ڈاکٹر محمد عبدالحق کا مضمون بعنوان ”انڈونیشیا کی اسلامی ثقافت میں عربوں کا کردار“، ص ۵

[۹۸]۔ اهل الحجاز، ص ۱۷۴-۱۷۶، الحركة الادبية في المملكة العربية السعودية،

ص ۱۴۳-۱۴۴، سیر و تراجم، ص ۱۶۵

[۹۹]۔ علی پاشا بن عبداللہ ۱۳۲۳ھ سے ۱۳۲۶ھ تک مکہ مکرمہ کے گورنر رہے پھر مصر

منتقل ہو گئے اور وہیں وفات پائی (مختصر نشر النور، ص ۳۰۵ حاشیہ)

[۱۰۰]۔ المملفوظ، ج ۲، ص ۱۲۸-۱۳۲ ملخصاً

[۱۰۱]۔ الحركة الادبية في المملكة العربية السعودية، ص ۱۰۷-۱۵۱

[۱۰۲]۔ اعلام الحجاز، ج ۲، ص ۳۰۵

[۱۰۳]۔ شیخ ابو بکر خویر کے حالات کے لئے دیکھئے: الاعلام، ج ۲، ص ۷۰، سیر و

تراجم، ص ۲۲-۲۴، نثر الدرر، ص ۱۷، مختصر نشر النور، ص ۴۲۴، نظم الدرر، ص ۱۴۴

[۱۰۴]۔ معارف رضا، کراچی، شماره ۱۹۹۸ء، ص ۱۷۴-۱۷۵

[۱۰۵]۔ اعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة، محمد علی مغربی، طبع دوم ۱۴۰۵ھ/

۱۹۸۵ء، مطبوعہ جدہ، ج ۱، ص ۲۸۸-۲۹۴

[۱۰۶]۔ سیر و تراجم، ص ۲۰۹، رجال من مکتة المکتبہ، ج ۳، ص ۱۹۹

[۱۰۷]۔ سیر و تراجم، ص ۲۶۲، الدلیل المشیر، ص ۱۰۸-۱۰۹

[۱۰۸]۔ سیر و تراجم، ص ۲۰۶

[۱۰۹]۔ الدلیل المشیر، ص ۲۸۲-۲۸۴

[۱۱۰]۔ سیر و تراجم، ص ۱۴۰-۱۴۲

[۱۱۱]۔ اعلام الشرقية، ج ۲، ص ۹۰۲-۹۰۳، نثر الدرر، ص ۴۳

[۱۱۲]۔ شیخ عبدالظاہر ابوالسبح مصری کے حالات کے لئے دیکھئے: ائمة المسجد الحرام ومو

ذنوہ فی العہد السعودی، عبداللہ سعید زہرانی (پ۔ ۱۳۷۹ھ) طبع اول ۱۴۱۹ھ/۱۹۹۸ء، مطبوعہ مکہ مکرمہ، ص ۳۲، سیر و تراجم، ص ۲۲۷-۲۲۸، نثر الدرر، ص ۵۱-۵۲

[۱۱۳] شیخ عبداللہ حمدوہ سوڈانی مکہ (۱۲۸۴ھ-۱۳۵۰ھ) کے حالات کے لئے دیکھئے:

الدلیل المشری، ص ۱۹۴-۱۹۶، نثر الدرر، ص ۴۱-۴۲

[۱۱۴]۔ علامہ سید محمد نور کتبی (۱۳۲۷ھ-۱۴۰۲ھ) کے والد سید ابراہیم

کتبی (۱۲۷۵ھ-۱۳۶۸ھ) ہندوستان کے ضلع فیض آباد (یوپی) سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ

جائے، علامہ سید محمد نور کتبی کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ (رجال من مکتہ المکرمۃ، ج ۳،

ص ۱۱۰-۱۲۳، من اعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر، ابراہیم بن عبداللہ حازمی طبع اول ۱۴۱۶ھ/

۱۹۹۵ء دار الشریف ریاض، ج ۱، ص ۱۶۱-۱۶۴) شیخ ابراہیم فیض آبادی کی اولاد آج بھی مکہ مکرمہ و

مدینہ منورہ میں آباد ہے۔ رجال من مکتہ المکرمۃ اور اعلام من ارض النبوة کے مصنفین انہی کی نسل

میں سے ہیں۔

[۱۱۵]۔ حسن البناء شہید کی ڈائری، اردو ترجمہ و تقدیم خلیل احمد حامدی، طبع ۱۹۹۲ء،

اسلامک پبلی کیشنز لاہور، شیخ محمد عبدہ مصری کے حالات الاعلام، ج ۶، ص ۲۵۲-۲۵۳، اور علامہ

رشید رضا مصری کے حالات الاعلام، ج ۶، ص ۱۲۶ پر دیئے گئے ہیں۔

[۱۱۶]۔ الاعلام، ج ۸، ص ۲۱۸، الدلیل المشری، ص ۴۰۹

[۱۱۷]۔ الغیث المروی فی ترجمۃ الاستاذ الامام الدجوی، عبدالرافع دجوی الازہری، طبع

اول ۱۳۶۵ھ/۱۹۴۶ء، مطبوعہ اللواء مصر، ص ۱۷

[۱۱۸]۔ ”مقالات الکوثری“ مطبع الانوار قاہرہ نے ۵۹۴ صفحات پر طبع کی، اس میں

شامل دو مقالات کے عنوان یہ ہیں: ”ابن عبدالوہاب والشیخ محمد عبدہ“، ”رأی الشیخ محمد عبدہ فی

بعض المسائل“۔

[۱۱۹]۔ شیخ عبدالرزاق عصفی مصری کے حالات پر مسجد الحرام مکہ مکرمہ کے موجودہ امام

شیخ عبدالرحمن السدیس نجدی (پ-۱۳۸۲ھ) نے کتاب لکھی، نیز دیکھئے: فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ریاض، ج ۱، ص ۳-۴، الموسوعة المیسرة فی الادیان والمذاهب والاحزاب المعاصرة، ج ۱، ص ۱۸۸-۱۸۹

[۱۲۰]- الموسوعة المیسرة، ج ۱، ص ۱۸۶-۲۰۱

[۱۲۱]- ائمة المسجد الحرام وموذنوه فی العهد السعودي، ص ۸۷

[۱۲۲]- فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، ج ۱، ص ۲-۱۴

[۱۲۳]- ماہنامہ التوحید قاہرہ، شمارہ ربیع الاول ۱۴۲۰ھ، شیخ بن باز کی وفات پر خصوصی

اشاعت، مختلف صفحات، روزنامہ اردو نیوز جدہ، شمارہ ۲۱ مئی ۱۹۹۹ء، مضمون بعنوان ”سعودی عرب کے نئے مفتی اعظم۔ ایک تعارف“، ص ۴

[۱۲۴]- مولوی محمد سلیم کیرانوی کے حالات کے لئے دیکھئے: ماہنامہ المنہل جدہ، شمارہ

مارچ ۱۹۸۷ء، شیخ سعد عبداللہ الملیس کا مضمون بعنوان ”الحفل السنوی لختم الکتب بالمدرسة الصولتیة“، ص ۲۲۲-۲۲۳، نثر الدرر، ص ۷۵

[۱۲۵]- ماہنامہ المنہل جدہ، شمارہ جنوری ۱۹۸۹ء، ص ۱۵۲-۱۶۶

[۱۲۶]- اہل الحجاز، ص ۱۹۱

[۱۲۷]- المنہل جنوری ۱۹۸۹ء، ص ۱۶۹، اہل الحجاز، ص ۱۹۹

[۱۲۸]- الاعلام، ج ۴، ص ۲۵۰

[۱۲۹]- المنہل، شمارہ جنوری ۱۹۸۹ء، ص ۱۷۲-۱۷۳

[۱۳۰]- نثر الدرر، ص ۵۴

[۱۳۱]- ائمة المسجد الحرام وموذنوه فی العهد السعودي، ص ۳۵

[۱۳۲]- شیخ سلیمان الصنیع نجدی کے اساتذہ میں شیخ عبداللہ حمید مفتی حنابلہ مکہ مکرمہ،

علامہ سید عبدالحی کتانی مراکشی، شیخ ابو بکر خوقیر، شیخ عبداللہ بن حسن نجدی، شیخ محمد عبدالرزاق حمزہ،

مولوی عبید اللہ سندھی سیالکوٹی (م۔ ۱۳۶۳ھ)، مولوی عبدالستار دہلوی مکی (م۔ ۱۳۵۵ھ)،
مولوی سیف الرحمن افغانی (پ۔ ۱۲۶۷ھ)، مولوی عبدالغفار دہلوی (پ۔ ۱۲۷۲ھ)، شیخ محمد
بن عبدالطیف نجدی اور مولوی عبدالہادی ہزاروی وغیرہ علماء ہیں، شیخ سلیمان الصنیع سعودی عہد
کے مکہ مکرمہ میں امر بالمعروف نامی محکمہ کے صدر، حرم مکی لائبریری کے محافظ اور مجلس شوریٰ کے رکن

رہے۔ (علماء نجد خلال ثمانیۃ قرون، ج ۴، ص ۳۰۷-۳۰۸، نشر الدرر، ص ۳۵-۳۷)

[۱۳۳]۔ فتاویٰ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیۃ والافتاء، ج ۱، ص ۱۳

[۱۳۴]۔ شیخ محمد متولی شعر اوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات کے لئے دیکھئے: جامعۃ الازھر

قاہرہ کی طرف سے شائع ہونے والے ماہنامہ الازھر کا شمارہ جولائی ۱۹۹۸ء، نیز وزارت اوقاف
دہلی کے تحت شائع ہونے والے ماہنامہ الضیاء کا شمارہ جولائی ۱۹۹۸ء

[۱۳۵]۔ روزنامہ الاخبار قاہرہ، شمارہ ۱۱ ربیع الاول ۱۴۲۰ھ / ۲۵ جون ۱۹۹۹ء، ص ۷

[۱۳۶]۔ روزنامہ اردو نیوز جدہ، شمارہ ۲۴ ستمبر ۱۹۹۹ء، ص ۴

[۱۳۷]۔ بلوغ الامانی، فی التعریف بشیوخ و اسانید مسند العصر الشیخ محمد یاسین بن محمد

عیسیٰ القادانی المکی، جمع و ترتیب شیخ محمد مختار الدین بن زین العابدین الغلمبانی دارالعلوم المدینۃ
مکہ، طبع اول ۱۴۰۸ھ / ۱۹۸۸ء، دار قتیبہ دمشق، ص ۱۴۹، تشذیف الاسماع، ص ۱۵۰-۱۵۴،
الاجازات المعتبرۃ لعلماء بکۃ والمدینۃ، ص ۱۹، ۲۳، ۲۴

[۱۳۸]۔ علامہ سید محسن علی مساوی رحمۃ اللہ علیہ نے فاضل بریلوی کے دیگر خلفاء شیخ

عمر حمدان محری و علامہ سید محمد عبدالحی کتانی سے بھی مختلف علوم اخذ کئے، مزید حالات کے لئے
دیکھئے: الاعلام، ج ۵، ص ۲۸۸، سیر و تراجم، ص ۲۹۳-۲۹۴

[۱۳۹]۔ سیر و تراجم، ص ۲۶۲

[۱۴۰]۔ اہل الحجاز، ص ۲۰۲-۲۰۷

[۱۴۱]۔ اعلام الحجاز فی القرن الرابع عشر الهجری، محمد علی مغربی، طبع اول ۱۴۱۳ھ، مطبوعہ

جدہ، ج ۴، ص ۲۶-۴۰ پر پروفیسر احمد محمد جمال مکی کے حالات درج ہیں

[۱۴۲]- شیخ محمد بن عبداللہ السبیل نجدی (پ - ۱۳۴۵ھ) شاہی فرمان کے ذریعے

۱۳۸۵ھ کو مسجد الحرام کے امام و خطیب مقرر ہوئے اور ۱۴۱۱ھ کو مسجد الحرام نیز مسجد نبوی کی انتظامی

کمیٹی کے سربراہ بنائے گئے، علاوہ ازیں ۱۴۱۳ھ میں آپ کے بیٹے شیخ عمر بن محمد السبیل بھی مسجد

الحرام کے امام و خطیب تعینات کئے گئے، ان دنوں حرم مکی میں نماز عشاء کی امامت خود شیخ محمد

السبیل اور نماز عصر کی امامت شیخ عمر السبیل کے ذمہ ہے۔ (ائمۃ المسجد الحرام وموذنوہ فی العہد

السعودی، ص ۴۲-۴۴، ۵۱-۵۲، ۸۷)

[۱۴۳]- روزنامہ اردو نیوز جدہ، شمارہ ۵ اگست ۱۹۹۹ء ص ۲

[۱۴۴]- حوار مع الماکی، ۲۰۵ صفحات پر مشتمل ہے، دارالافتاء ریاض نے اس کا پہلا

اڈیشن ۱۴۰۳ھ اور پانچواں ۱۴۰۵ھ میں طبع کرایا (دلیل المؤلفات الاسلامیة فی المملكة السعودیة

۱۴۰۰ھ-۱۴۰۹ھ، محمد خیر رمضان یوسف، طبع اول ۱۴۱۳ھ/۱۹۹۳ء، دارالفیصل ریاض، ص ۱۴۷)

[۱۴۵]- اہل الحجاز، ص ۲۹۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دوسرا حصہ

فاضل بریلوی اور مرداد علماء مکہ

مولانا احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۷۲ھ/۱۸۵۶ء-۱۳۴۰ھ/۱۹۲۱ء) پہلے سفر حج و زیارت ۱۲۹۶ھ/۱۸۷۸ء میں اپنے والدین ماجدین کے ہمراہ حرمین شریفین حاضر ہوئے تو آپ کی عمر کا تیسواں سال تھا [۱] لیکن حجاز مقدس میں آپ کے تفصیلی تعارف کی ابتداء اس وقت ہوئی جب ۱۳۱۶ھ میں آپ نے ردندوہ پر اٹھائیس سوال و جواب پر مشتمل ایک فتویٰ تیار کر کے بعض حجاج کے ذریعے علمائے حرمین شریفین کو ارسال کیا جس پر انہوں نے گراں بہا تقریظات لکھیں اور آپ کو اعلیٰ درجے کے کلمات دعا و ثنا سے یاد کیا، یہ فتویٰ مسمیٰ بہ ”فتاویٰ الحرمین برجف ندوۃ الہمین“ مع ترجمہ ۱۳۱۷ھ میں بمبئی سے طبع ہو کر شائع ہوا [۲]۔ اس کے بعد حرمین شریفین کے علمی حلقوں میں آپ کا غائبانہ تعارف پھیلتا چلا گیا [۳] تا آنکہ ۱۳۲۳ھ میں آپ دوسری بار حرمین شریفین حاضر ہوئے اور مکہ مکرمہ میں تقریباً تین ماہ نیز مدینہ منورہ میں اکتیس روز قیام کی سعادت حاصل کی، اس دوران حرمین شریفین اور وہاں پر موجود عرب دنیا کے علماء کرام نے آپ کی شاندار پذیرائی کی، ان عرب علماء کرام نے مختلف علمی موضوعات پر فاضل بریلوی سے تبادلہ خیالات کیا، آپ کی دواہم کتب پر تقریظات لکھیں، بعض علماء کرام کی خواہش پر آپ نے دو کتب تصنیف کیں نیز بہت سے علماء کرام نے جمیع علوم اسلامیہ آپ سے اجازات خلافت حاصل کیں۔ [۴]

فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوسرے حج کے مختصر واقعات ایک روز بریلی میں مدرسہ منظر اسلام کے مدرس دوم مولانا رحمہ الہی رحمۃ اللہ علیہ اور مدرسہ کے ایک طالب علم مولانا

نجیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ و بعض مریدین و معتقدین کی موجودگی میں بیان فرمائے جنہیں آپ کے فرزند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کر کے ”ملفوظات اعلیٰ حضرت“ میں شامل کیا [۵]۔ ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جن اکابر علماء کرام نے آپ کی قدردانی کی ان میں سے شیخ احمد ابوالخیر مرداد اور ان کے بیٹے شیخ عبداللہ ابوالخیر مرداد رحمہم اللہ تعالیٰ بطور خاص قابل ذکر ہیں، ان میں سے آخر الذکر کو فاضل بریلوی نے خلافت عطا کی۔ آئندہ سطور میں مرداد خاندان کے چند اکابر علماء کرام نیز شیخ عبداللہ مرداد کے حالات اور ان کی ایک انتہائی اہم تصنیف کا تعارف قارئین کی نذر کیا جا رہا ہے، حرم مکی میں مختلف ادوار میں خدمات انجام دینے والے مرداد علماء کے اسماء گرامی یہ ہیں:

- ۱۔ شیخ محمد مرداد رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۲۰۵ھ)
- ۲۔ شیخ عبدالرحمن مرداد رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۲۰۷ھ)
- ۳۔ شیخ عبداللہ مرداد رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۲۵۷ھ)
- ۴۔ شیخ عبدالمعطی مرداد رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۲۶۲ھ)
- ۵۔ شیخ مصطفیٰ مرداد رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۲۶۴ھ)
- ۶۔ شیخ عبداللہ مرداد رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۲۷۱ھ)
- ۷۔ شیخ عبدالعزیز مرداد رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۲۷۵ھ)
- ۸۔ شیخ محمد صالح مرداد رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۲۸۰ھ)
- ۹۔ شیخ سلیمان مرداد رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۲۹۳ھ)
- ۱۰۔ شیخ محمد علی مرداد رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۲۹۴ھ)
- ۱۱۔ شیخ امین مرداد رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۳۲۲ھ)
- ۱۲۔ شیخ احمد ابوالخیر مرداد رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۳۳۵ھ)
- ۱۳۔ شیخ محمد سعید مرداد رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۳۵۳ھ)

۱۲۔ شیخ عبداللہ ابوالخیر مرداد رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۳۲۳ھ)

ان چودہ مرداد علماء کرام کے حالات و خدمات اسی ترتیب سے پیش خدمت ہیں۔

(۱) امام خطیب مسجد حرم قاری شیخ محمد مرداد (متوفی ۱۲۰۵ھ)

مسجد الحرام مکہ مکرمہ کے امام و خطیب قاری شیخ محمد بن محمد صالح بن محمد مرداد حنفی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اجلہ علماء و مشائخ سے علوم حاصل کئے، آپ کے اساتذہ میں امام الحدیث علامہ المسند ابی الحسن سندھی الصغیر حنفی مدنی [۶]، علامہ الخیر شیخ محمد مصیلیحی مصری (ناہینا) اور ولی کامل علامہ عبدالرحمن فتنی حنفی مکی [۷] شامل ہیں، آپ نے ان علماء سے مختلف علوم حاصل کر کے اسناد حاصل کیں، نیز علامۃ العصر شیخ عمر بن البصیر بقلہ مالکی سے فن قرأت سیکھ کر اس میں درجہ کمال حاصل کیا۔

شیخ محمد مرداد کے بیٹے شیخ عبدالعظی فرماتے ہیں کہ شیخ عمر حنفی مذہب اور مالکی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور مکہ مکرمہ کے باشندے تھے، جیسا کہ میں نے ان کی طرف سے علامہ جار بن شیخ عبدالرحمن ہندی لاہوری کے نام لکھی گئی سند اجازت میں دیکھا۔

شیخ محمد مرداد نے علوم اسلامیہ پھیلانے میں سعی تمام سے کام لیا اور مخلوق خدا نے آپ سے بھرپور استفادہ کیا، آپ نے تقریباً ۱۲۰۵ھ میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی [۸]، آپ کی بیٹی کی شادی امام محدث، مکہ مکرمہ کے مشہور عالم و مدرس، صوفی شیخ حمزہ عاشور رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۲۴۷ھ) سے ہوئی، شیخ حمزہ عاشور حرم مکی میں بخاری و مسلم نیز کتب تصوف کا درس دیا کرتے تھے جہاں پر آپ سے خلق کثیر فیض یاب ہوئی، آپ کی نسل موجود نہیں۔ [۹]

(۲) شیخ الخطباء شیخ عبدالرحمن مرداد (متوفی ۱۲۰۷ھ)

فاضل، فقیہ، محدث، شیخ الخطباء شیخ عبدالرحمن بن محمد صالح بن محمد مرداد حنفی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اپنے دور کے افاضل علماء کرام سے تعلیم کی تکمیل کی، امیر مکہ شریف سرور [۱۰] آپ

کے علم و فضل اور تقویٰ کا معترف تھا اور آپ امیر کے امام رہے، ۱۱۶۵ھ میں شیخ الخطباء احمد شمس رحمۃ اللہ علیہ [۱۱] نے وفات پائی تو ان کی جگہ شیخ عبدالرحمن مرداد "شیخ الخطباء" کے منصب پر تعینات ہوئے اور وصال تک اس پر فائز رہے، مرداد خاندان میں شیخ عبدالرحمن مرداد پہلے فرد ہیں جو شیخ الخطباء بنائے گئے، آپ نے تقریباً ۱۲۰۷ھ میں وفات پائی تو آپ کے فرزند جلیل القدر عالم شیخ عبداللہ مرداد اس منصب پر فائز ہوئے اور تقریباً پچاس برس بعد اسی پر رحلت فرمائی، پھر ان کے بیٹے شیخ مصطفیٰ مرداد نے شیخ الخطباء کے منصب جلیل پر سات سال خدمات انجام دے کر ۱۲۶۳ھ میں وفات پائی، اس پر عالم کامل شیخ عبداللہ بن محمد صالح مرداد شیخ الخطباء ہوئے اور اسی منصب پر ۱۲۷۱ھ میں انتقال فرمایا، آپ کے بعد آپ کے بھائی شیخ عبدالعزیز بن محمد صالح مرداد نے اس منصب پر چار سال ساڑھے نو ماہ تعینات رہ کر وفات پائی۔

شیخ عبدالعزیز مرداد کی وفات کے بعد شیخ الخطباء کا عہدہ چالیس روز تک خالی رہا، بالآخر امیر مکہ شریف عبداللہ [۱۲] نے کافی غور و خوض اور مشاورت کے بعد شیخ سلیمان بن شیخ عبدالمعطیٰ مرداد کا تقرر کیا جس پر آپ نے سات سال خدمات انجام دینے کے بعد ۱۲۹۳ھ میں وفات پائی، اس پر شیخ احمد ابوالخیر مرداد کو شیخ الخطباء بنایا گیا تا آنکہ ۱۲۹۹ھ میں امیر مکہ شریف عبدالمطلب [۱۳] کے دور میں آپ مستعفی ہوئے جس پر یہ منصب علامہ سید حسین جمل اللیل شافعی مکی رحمۃ اللہ علیہ [۱۴] کو سونپا گیا۔ [۱۵]

(۳) شیخ الخطباء شیخ عبداللہ مرداد (متوفی ۱۲۵۷ھ)

شیخ عبداللہ بن عبدالرحمن بن محمد صالح بن محمد مرداد حنفی رحمہم اللہ تعالیٰ نے طویل عمر پائی، آپ شیخ الخطباء حرم مکی تھے، علم فرائض میں شہرت تامہ رکھتے تھے، زہد و تقویٰ میں کامل تھے، آپ ۱۱۶۳ھ میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اپنے والد کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کی، نیز اکابر علماء مکہ مکرمہ سے تمام علوم اسلامیہ اخذ کئے اور درجہ اجتہاد تک پہنچے بالخصوص علم فرائض میں، جس میں دیگر علماء کرام نے آپ سے بطور خاص استفادہ کیا۔

آپ کے والد ماجد شیخ عبدالرحمن مرداد نے وصال فرمایا تو ان کی جگہ آپ نے شیخ الخطباء کا منصب سنبھالا اور اس پر تقریباً پچاس برس خدمات انجام دینے کے بعد ۱۲۵۷ھ میں وفات پائی اور المعلى قبرستان میں سپرد خاک ہوئے، آپ کے وصال پر اہل مکہ نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا، آپ نے تین بیٹے شیخ مصطفیٰ، شیخ عبدالملک اور شیخ محمود یادگار چھوڑے۔ [۱۶]

(۴) امام حرم شیخ عبدالمعطی مرداد (متوفی ۱۲۶۲ھ)

شیخ عبدالمعطی بن عالم و خطیب قاری شیخ محمد بن شیخ محمد صالح مرداد حنفی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ مسجد الحرام کے خطیب و امام اور مدرس و محدث تھے، اپنے والد ماجد کے علاوہ شیخ عبدالملک قلعی رحمۃ اللہ علیہ [۱۷] اور دیگر اکابر علماء مکہ مکرمہ سے پڑھ کر سند تکمیل حاصل کی، شیخ عبدالمعطی کو جمیع علوم اسلامیہ میں کمال حاصل تھا لیکن علم حدیث سے آپ کو گہرا لگاؤ تھا اور آپ بالعموم اسی کا درس دینے میں منہمک رہتے، آپ عالم جلیل، فاضل، محدث اور ولی کامل تھے، آخری عمر میں طاہری بصارت جاتی رہی، آپ نے ۱۲۶۲ھ میں وفات پائی اور قبرستان المعلى میں مرداد خاندان کے لئے مخصوص احاطہ میں دفن ہوئے، شیخ عبدالمعطی کی اولاد بھی علم و فضل سے آراستہ تھی، ان میں سے آپ کے بیٹے شیخ سلیمان مرداد، شیخ الخطباء تعینات رہے۔ [۱۸]

(۵) شیخ الخطباء شیخ مصطفیٰ مرداد (متوفی ۱۲۶۴ھ)

شیخ مصطفیٰ بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن محمد صالح بن محمد مرداد حنفی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، قرآن مجید حفظ کیا اور قرأت سیکھی نیز علماء و مشائخ مکہ سے دیگر علوم پڑھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لحن داؤدی سے نوازا تھا جس کا آپ نے قرأت میں خوب اظہار کیا، آپ تو اضع میں مشہور اور مکہ مکرمہ کی ہر دلعزیز شخصیت تھے، ۱۲۵۷ھ میں اپنے والد کی وفات پر ان کی جگہ شیخ الخطباء والائمہ مقرر کئے گئے جس پر تادم واپس ۱۲۶۴ھ تک خدمات انجام دیتے رہے، آپ کی آخری آرام گاہ المعلى میں واقع ہے، شیخ مصطفیٰ مرداد کے دو فرزند عبداللہ و عبدالحفیظ تھے، ان میں اول

الذکر نے ایک بیٹی اور دو بیٹے مصطفیٰ و عبدالحفیظ چھوڑے، جن میں سے مصطفیٰ لا ولد رہے اور ثانی الذکر نے وفات پائی، آپ کی نسل موجود نہیں۔ [۱۹]

(۶) شیخ الخطباء شیخ عبد اللہ مرداد (متوفی ۱۲۷۱ھ)

مسجد الحرام کے خطباء وائمہ کے سرپرست، مدرس، علم فرائض کے ماہر شیخ عبد اللہ بن محمد صالح بن سلیمان بن محمد صالح بن محمد مرداد علم و عرفان اور ریاضت و عبادت میں نمایاں تھے، آپ عالم باعمل، نیک خصلت، مسلمانوں کی بھلائی کے طلب گار، علائق دنیا سے بیزار، قناعت پسند، خوش اخلاق، متواضع، دلوں کو مائل کرنے والے اور ہر دلعزیز شخصیت تھے، تقریباً ۱۲۱۰ھ میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، دیگر علوم اسلامیہ کے ساتھ ساتھ قرآن مجید حفظ کیا اور مسجد الحرام میں نماز تراویح کی امامت کی سعادت سے ہمکنار ہوئے، آپ نے متعدد اہم کتب کے متون حفظ کئے اور اپنے مشائخ کو سنائے، آپ نے عمر بھر طلب علم کے لئے دامن پھیلائے رکھا اور اس دور کے اکابر مشائخ سے علوم اخذ کئے، ان میں ولی کامل علامہ سید یاسین میر غنی بن سید عبد اللہ محبوب [۲۰] بطور خاص قابل ذکر ہیں، نیز شیخ عبد الرحمن جمال الکبیر [۲۱] وغیرہا علماء سے فقہ، حدیث، تفسیر، فرائض، مناسخات، اصول، لغت، معانی، بیان، بدیع، منطق، حروف، اسماء اور اوافق وغیرہ علوم حاصل کر کے ان سب میں سند تکمیل حاصل کی [۲۲]، آپ کے اساتذہ میں علامہ محقق شیخ محمد بن جی مکی حنفی شامل ہیں [۲۳]، شیخ عبد اللہ مرداد نے حصول علم کے بعد مسجد الحرام میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا جہاں پر لاتعداد تشنگان علم نے آپ کے حلقہ درس میں شامل ہو کر اپنی علمی پیاس بجھائی، آپ کے تلامذہ میں شیخ عبد الرحمن جمال [۲۴]، مفتی سید احمد بن مفتی عید عبد اللہ میر غنی [۲۵]، علامہ شیخ عبد القادر خوقیر [۲۶] شیخ احمد بیت المال [۲۷]، قاضی طائف شیخ بکر کمال، علامہ عبد القادر سبجی طائفی اور سید ابراہیم بن مفتی سید عبد اللہ میر غنی [۲۸] جیسے جلیل القدر علمائے عصر شامل ہیں، ان دنوں مفتی سید عبد اللہ میر غنی رحمۃ اللہ علیہ [۲۹] ”مفتی مکہ“ اور شیخ عبد اللہ مرداد رحمۃ اللہ علیہ ان کے نعاون تھے، اس دوران متعدد بار ایسا ہوا کہ مفتی سید عبد اللہ میر غنی زیارت

روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مدینہ منورہ چلے جاتے تو ان کی عدم موجودگی میں شیخ عبداللہ مرداد قائم مقام مفتی ہوتے اور خود فتاویٰ جاری کرتے، ایک موقع پر گورنر حجاز [۳۰] نے کسی بات پر مفتی سید عبداللہ میرغنی کو معزول کر دیا اور یہ منصب شیخ عبداللہ مرداد کے سپرد کرنا چاہا تو آپ نے اسے قبول نہیں کیا جس پر یہ ایک اور عالم شیخ محمد حسین کتھی [۳۱] کے حوالے کر دیا گیا۔

شیخ الخطباء مصطفیٰ مرداد رحمۃ اللہ علیہ کے وصال ۱۲۶۲ھ پر شیخ عبداللہ مرداد شیخ

الخطباء والائمة بنائے گئے اور اپنی وفات تک اس پر فائز رہے۔

شیخ عبداللہ مرداد فن خطاطی سے گہرا گاور رکھتے تھے جو آپ نے علامہ سید محمد عثمان میرغنی رحمۃ اللہ علیہ [۳۲] سے سیکھا اور اکابر علماء کرام کی متعدد ضخیم کتب کو انتہائی لگن سے خوبصورت کتابت میں نقل کیا، آپ اعلاء کلمۃ الحق میں کسی لومۃ لائم سے کام نہ لیتے، اور لوگوں کے مسائل و معاملات کے حل میں گہری دلچسپی لیتے، آپ ہمہ اوقات انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے مستعد رہتے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے وصال پر اہل مکہ نے شدید رنج الم محسوس کیا، بالخصوص مفتی سید عبداللہ میرغنی نے فرمایا کہ اگر میری اولاد میں سے کوئی فوت ہو جاتا تو یقیناً مجھے اتنا غم نہ ہوتا جتنا عبداللہ مرداد کی وفات سے ہوا، آپ نے ۱۲۷۱ھ ماہ ذی الحجہ کے وسط میں وبائی مرض کے باعث مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا، بیماری کے دوران صبر و تحمل سے کام لیا اور اپنے معمولات کو ہر ممکن جاری رکھا، زندگی کے آخری دن نماز ادا کر کے واپس گھر تشریف لائے اور تھوڑی دیر بعد خالق حقیقی سے جا ملے، آپ قبرستان المعلیٰ میں مرداد خاندان کے مخصوص و مشہور احاطہ میں دفن ہیں، آپ کے دو بیٹوں میں ایک شیخ احمد ابوالخیر مرداد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ [۳۳]

(۷) شیخ الخطباء شیخ عبدالعزیز مرداد (متوفی ۱۲۷۵ھ)

شیخ عبدالعزیز بن محمد صالح بن سلیمان بن محمد صالح بن محمد مرداد حنفی اپنے دور کے ایسے اکابر فضلاء میں سے تھے جنہوں نے ہمیشہ قناعت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنائے رکھا، آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، قرآن مجید حفظ کیا اور اپنے دور کے جید علمائے کرام سے مختلف علوم پڑھے،

نیز عبادات سے متعلق ضروری مسائل کو حفظ کیا اور حروف، اوراق، اسماء وغیرہ علوم میں بھی کمال حاصل کیا، ۱۲۷۱ھ میں آپ کے بڑے بھائی شیخ عبداللہ مرداد رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی تو آپ ”شیخ الخطباء والائمہ“ بنائے گئے۔

شیخ عبدالعزیز مرداد رحمۃ اللہ علیہ اولیائے کرام میں سے تھے، آپ عابد و زاہد، رات کو نوافل پڑھنے والے، تہجد گزار اور بکثرت عبادت گزار تھے، پُر وقار اور بارعب شخصیت کے مالک تھے، آپ نے فن خطاطی بھی سیکھا اور متعدد ضخیم کتب کو بڑی سرعت و ضبط کے ساتھ نقل کیا، شیخ عبدالعزیز مرداد نے ۱۵ شوال ۱۲۷۵ھ کو مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور المعلىٰ میں آسودۂ خاک ہوئے، آپ نے ایک بیٹا عباس یادگار چھوڑا۔ [۳۴]

(۸) امام حرم شیخ محمد صالح مرداد (متوفی ۱۲۸۰ھ)

حرم مکی کے امام و مدرس شیخ محمد صالح بن سلیمان بن محمد صالح بن محمد مرداد رحمہم اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور حصول تعلیم کے لئے قاضی علامہ عبدالرحمن جمال مکی، علامہ عمر عبدالرسول [۳۵] اور قاضی مفتی عبدالحفیظ عجمی [۳۶] کے سامنے زانوئے تلمذتہہ کیا، آپ خداداد ذہانت اور قوی یادداشت کے مالک تھے، آپ کی زندگی کا غالب حصہ اسفار میں گزرا حتیٰ کہ ۱۲۸۰ھ میں دوران سفر ہی انتقال فرمایا، آپ نے نوے برس سے زائد عمر پائی، شیخ محمد صالح مرداد کے دو جلیل القدر فرزندوں، شیخ الخطباء عبدالعزیز مرداد اور شیخ الخطباء عبداللہ مرداد نے آپ کی زندگی میں وفات پائی، امیر مکہ شریف یحییٰ بن شریف سرور [۳۷] آپ کا عقیدت مند تھا اور آپ اس کے امام رہے۔

شیخ محمد صالح مرداد رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً ۳۵ فرزند عطا فرمائے اور ان سب نے آپ کی زندگی میں ہی وفات پائی، شیخ الخطباء عبدالعزیز مرداد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں میں سب سے آخر میں وصال فرمایا۔ [۳۸]

(۹) شیخ الخطباء شیخ سلیمان مرداد (متوفی ۱۲۹۳ھ)

شیخ سلیمان بن عبدالمعطی بن محمد مرداد بن محمد صالح بن محمد مرداد رحمہم اللہ تعالیٰ بھی مکہ مکرمہ کے اکابر علماء کرام میں سے تھے، ۱۲۷۵ھ میں شیخ عبدالعزیز مرداد کی وفات کے چالیس روز بعد امیر مکہ شریف عبداللہ نے ان کی جگہ شیخ سلیمان مرداد کو ”شیخ الخطباء“ مقرر کیا جس پر آپ اپنی وفات ۱۲۹۳ھ تک خدمات انجام دیتے رہے۔ [۳۹]

(۱۰) امام حرم شیخ محمد علی مرداد (متوفی ۱۲۹۲ھ)

شیخ محمد علی بن شیخ الخطباء والائمہ سلیمان بن عبدالمعطی بن محمد بن محمد صالح مرداد حنفی مکہ مکرمہ میں ۱۲۵۶ھ میں پیدا ہوئے، اپنے فاضل اجداد کی طرح قرآن مجید حفظ کیا نیز دیگر شرعی علوم میں مہارت تامہ حاصل کی، آپ نے مشائخ کی کثیر تعداد سے پڑھا، ان میں شیخ جمال [۳۰]، مولانا رحمت اللہ کیرانوی مہاجر کی [۳۱]، شیخ عبدالرحمن جمال اور سید عبداللہ کو جب [۳۲]، اہم ہیں، جن سے آپ نے بھرپور استفادہ کیا اور سند روایت حاصل کی۔

شیخ محمد علی مرداد جلیل القدر فقیہ تھے، آپ مسجد الحرام میں امام و خطیب اور مدرس رہے، آپ اعلیٰ اوصاف و خصائل سے متصف تھے، ۱۲۹۲ھ میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور المعطیٰ میں احاطہ مرداد میں آسودہ خاک ہوئے، آپ کے دو بیٹے تھے، شیخ امین اور شیخ صالح، اول الذکر بلند پایہ عالم دین تھے۔ [۳۳]

(۱۱) امام حرم شیخ امین مرداد (متوفی ۱۳۴۲ھ)

شیخ امین بن محمد علی بن سلیمان بن عبدالمعطی بن محمد بن محمد صالح مرداد حنفی رحمہم اللہ تعالیٰ کی ولادت ۱۲۷۷ھ میں مکہ مکرمہ میں ہوئی، یہیں تعلیم و تربیت حاصل کی، قرآن مجید حفظ کیا اور متعدد اکابر علماء و فضلاء مکہ سے مختلف علوم پڑھے، ان میں آپ کے والد ماجد کے علاوہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی، شیخ حسن طیب [۳۴]، مولانا حضرت نور پشاوری [۳۵]، ملا یوسف ہندی، حافظ

عبداللہ ہندی (نایینا) اہم اساتذہ میں سے ہیں جن سے آپ نے مسجد الحرام میں تعلیم پائی، جب آپ کے والد ماجد شیخ محمد علی مرداد رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا تو ان کی جگہ آپ کو مسجد الحرام کی امامت و خطابت کی ذمہ داری سونپی گئی جسے آپ نے احسن طریقہ سے انجام دیا، بعد ازاں آپ مکہ مکرمہ کے محکمہ عدل میں قاضی مقرر کئے گئے نیز امیر مکہ شریف حسین بن علی نے آپ کو ”مجلس تعزیرات الشرعیہ“ کا رکن نامزد کیا۔ [۴۶]

شیخ امین مرداد رحمۃ اللہ علیہ وسیع معلومات کے حامل، متواضع، عابد و زاہد تھے، بالعموم مسجد الحرام میں حاضر رہتے اور فرض نمازیں باجماعت ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مسجد میں قیام کے دوران نماز و تلاوت یا طلباء کو درس دینے میں مشغول رہتے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چار بیٹے پیچھے چھوڑے [۴۷]۔

محمد امین، حسین، عبداللہ اور یحییٰ، اول الذکر تینوں بیٹے محکمہ تعلیم میں اور آخر الذکر محکمہ عدل میں مصروف عمل ہوئے، مسجد الحرام میں شیخ محمد امین مرداد کا حلقہ درس باب باسطیہ اور باب قطبی کے درمیان برآمدہ میں منعقد ہوتا تھا جس میں آپ فقہ حنفی اور تفسیر و حدیث کا درس دیتے تھے، عمر عبدالجبار نے نماز جمعہ کے موضوع پر دیئے گئے آپ کے ایک درس کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے، مسجد حرم کے امام و خطیب اور مدرس شیخ امین مرداد حنفی نے ۱۳۲۲ھ میں وفات پائی۔ [۴۸]

(۱۲) شیخ الخطباء شیخ احمد ابوالخیر مرداد (متوفی ۱۳۳۵ھ)

محمد سعید عامودی و احمد علی لکھتے ہیں کہ مرداد خاندان مکہ مکرمہ کا ایک معزز گھرانہ ہے اور اس میں بہت سے افراد نے علم و فضل میں شہرت پائی، اسی خاندان میں شیخ احمد بن عبداللہ بن محمد صالح بن سلیمان بن محمد صالح بن مرداد نے ۱۲۵۹ھ میں پیدا ہوئے، اپنے والد ماجد وغیرہ علماء سے علوم حاصل کیا اور مسجد الحرام میں امام و خطیب اور مدرس مقرر ہوئے، پھر ۱۲۹۳ھ میں شیخ الخطباء بنے اور اس منصب پر ۱۲۹۹ھ تک رہے، آپ نے ۱۳۳۵ھ میں وفات پائی۔ [۴۹] آپ کے اساتذہ میں آپ کے ماموں شیخ عبدالرحمن جمال حنفی (م۔ ۱۲۹۰ھ)، علامہ سید عبداللہ کو جک

حنفی [۵۰] اور مولانا رحمت اللہ کیرانوی [۵۱] شامل ہیں۔

مفتی احناف شیخ عبدالرحمن سراج حنفی [۵۲] رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الخطباء احمد ابوالخیر مرداد رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان گہرے دوستانہ مراسم تھے، دونوں نے شیخ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں اکٹھے تعلیم حاصل کی تھی، شیخ عبدالرحمن سراج جب کبھی (اپنے وطن) طائف تشریف لے جاتے تو ان کی عدم موجودگی میں ”مفتی احناف“ کی ذمہ داریاں شیخ احمد ابوالخیر انجام دیتے [۵۳]، اور جب ۱۲۹۸ھ میں امیر مکہ شریف عبدالمطلب نے شیخ عبدالرحمن سراج حنفی کو معزول کر کے یہ منصب مستقل طور پر شیخ احمد ابوالخیر جو اس وقت ”شیخ الخطباء“ تھے، ان کے سپرد کرنا چاہا تو آپ نے قبول نہ کیا [۵۴] دوسری بار ۱۳۱۱ھ میں امیر مکہ شریف عون [۵۵] نے آپ کو مفتی احناف مقرر کرنا چاہا تو آپ نے پھر معذرت کر دی جس پر امیر مکہ نے شیخ عبداللہ بن عباس صدیق حنفی [۵۶] کو مفتی احناف تعینات کر کے ان پر یہ شرط عائد کی کہ وہ شیخ احمد ابوالخیر مرداد کی رہنمائی میں اس کی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔ [۵۷]

آپ کے شاگردوں میں شیخ درویش عجمی [۵۸]، شیخ علی ابوالخیر شافعی [۵۹] اور شیخ عبداللہ لبنی [۶۰] و شیخ محمد منزل [۶۱] مکہ مکرمہ کے اہم علماء میں سے ہوئے، دیگر شاگردوں میں شیخ محمد عبدالباقی لکھنوی مہاجر مدنی (م-۱۳۶۲ھ)، علامہ سید عبداللہ کتانی مراکشی (م-۱۴۸۲ھ) اور شیخ عمر حمدان محری مدنی (م-۱۳۶۸ھ) شامل ہیں۔

حرمین شریفین میں نظام تعلیم

خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی مدینہ منورہ اور مسجد حرم مکہ مکرمہ میں درس و تدریس کا منظم طریقہ کار تھا، مدینہ منورہ کے ایک باشندے سید علی حافظ [۶۲] جنہوں نے خود مسجد نبوی میں بیٹھ کر تعلیم مکمل کی اور ادب، شاعری، صحافت و سیاست وغیرہ میں اہم خدمات انجام دیں، ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی نے ایک طویل عرصے تک اسلامی یونیورسٹی کا کردار ادا کیا،

جہاں اسلامیات، عربی زبان، تاریخ، فلکیات، ریاضی، فلسفہ اور دوسرے مضامین پڑھائے جاتے تھے، بہت سے عالم، سائنس دان، فلاسفر، ریاضی دان، ہیئت دان، ادیب اور شاعر اس مسجد سے فارغ التحصیل ہو کر نکلے، عام طور سے یہ مضمون پانچوں وقت کی نماز یا ان کے درمیانی وقفوں میں پڑھائے جاتے تھے، کہا جاتا ہے کہ امام مالک رضی اللہ عنہ، جو سوائے حج کے لئے مکہ معظمہ جانے کے علاوہ کبھی مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے فلکیات پر ایک کتاب لکھی تھی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مضمون مسجد نبوی میں پڑھایا جاتا تھا، ترکی دور حکومت کے آخری سالوں میں باقاعدہ اسکول کھولے گئے اور لوگ رفتہ رفتہ تعلیم کے لئے مسجد سے ان اسکولوں کی طرف منتقل ہوتے گئے، اس طرح مسجد نبوی کا کام تعلیم کی طرف رہنمائی کرنے والی یونیورسٹی کی حیثیت سے کم ہوتا چلا گیا۔ [۶۳]

مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں بھی خلافت عثمانیہ بلکہ ہاشمی عہد تک نظام تعلیم اسی طرز و معیار کا تھا، مکہ مکرمہ کے ایک باشندے حسین عرب [۶۴] جنہوں نے حرم مکی سے تعلیم کا آغاز کیا، اس کے تعارف پر ایک مضمون ”الکرسی الدینیہ فی المسجد الحرام“ کے عنوان سے اور وہاں کے ایک اور باشندے عمر عبدالجبار نے ایک مستقل کتاب ”صور من ماضی التدریس فی المسجد الحرام“ لکھی [۶۵]۔ ماضی قریب تک حرم مکی میں درس و تدریس کے معیار کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ مکہ مکرمہ کے ایک باشندے شیخ احمد محمد جمال (۱۳۴۳ھ-۱۴۱۳ھ) نے پرائمری اسکول تک تعلیم پائی پھر حرم مکی میں علامہ سید علوی مالکی [۶۶] کے حلقہ درس میں شامل ہوئے، جہاں سالہا سال ان کے شاگرد خاص رہیا اور تمام علوم اسلامیہ میں کمال حاصل کیا اور ملک عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں ثقافت اسلامیہ کے پروفیسر تعینات ہوئے، پھر ام القرئی یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں علم تفسیر کے استاد ہوئے، مختلف اسلامی تنظیموں کے رکن بنے اور متعدد ممالک میں عالمی کانفرنسوں میں شرکت کی، ۱۳۷۷ھ میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں اسلامیات کے موضوع پر منعقد ہونے والی عالمی کانفرنس میں شرکت کے لئے پاکستان آئے، شیخ احمد محمد جمال کی بتیس

تصانیف شائع ہو چکی ہیں اور ابھی کچھ غیر مطبوع ہیں [۶۷]، آپ کے حالات پر زہیر محمد جمیل کتنی مکی نے ایک ضخیم کتاب لکھی جو شائع ہو چکی ہے۔

مرداد خاندان کے افراد نے حرم مکی میں قائم اس اسلامی یونیورسٹی سے نہ صرف خود علوم حاصل کئے اور اکابر علماء میں شمار ہوئے، بلکہ انہوں نے لگ بھگ دو صدیوں تک اس میں مدرسین کی حیثیت سے خدمات انجام دیں اور ساتھ ہی ساتھ امامت و خطابت کی سعادت حاصل کی۔

علمائے کرام کے مناصب

مرداد خاندان کے زیر تذکرہ علماء کرام کے دور میں حجاز مقدس ترکوں کی قائم کردہ خلافت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا اور حکومت نے حرمین شریفین میں نظام تعلیم اور دیگر مذہبی امور کو احسن طریقے سے جاری رکھنے کے لئے علماء کرام کی ذمہ داریوں کو مختلف مناصب کے تحت تقسیم کر رکھا تھا، اور خلیفہ عثمانی کی طرف سے امیر مکہ (گورنر مکہ)، اعلیٰ عہدیداران اور مذہبی شخصیات سے مشورے کے بعد ان پر علماء کرام کا تقرر کرتا تھا، ان مناصب کے نام یہ تھے، شیخ السادة، شیخ العلماء، شیخ الخطباء، امام حرم، خطیب حرم، مدرس حرم، مفتی احناف، مفتی مالکیہ، مفتی شافعیہ، مفتی حنابلہ، مفتی مکہ اور قاضی مکہ وغیرہ، ان تمام مناصب کی اہمیت و فضیلت محتاج بیان نہیں، خلافت عثمانیہ جو بوسینیا سے مصر تک آج کے متعدد ممالک پر محیط تھی، صرف مفتی احناف مکہ مکرمہ کے منصب کو ہی دیکھا جائے تو بقول محمد علی مغربی خلافت عثمانیہ میں فقہ حنفی نافذ تھی اور سرکاری احکامات اسی کے تحت جاری کئے جاتے تھے، اس بنا پر مکہ مکرمہ کے مفتی احناف کا منصب خاص اہمیت و عظمت رکھتا تھا [۶۸]۔

مرداد علماء کرام مذکورہ بالا مناصب میں سے متعدد پر فائز رہے جن میں ”شیخ الخطباء والائمة“ سب سے اہم منصب ہے جو حرم شریف کے تمام ائمہ و خطباء کے نگران و سرپرست ہوتے تھے، جو مرداد علماء کرام اس منصب جلیل پر مامور رہے ان کے اسماء گرامی کی ترتیب وار فہرست اس طرح ہے:

شیخ عبدالرحمن مرداد رحمۃ اللہ علیہ، ۱۱۶۵ھ سے ۱۲۰۷ھ تک شیخ الخطباء رہے

شیخ عبداللہ مرداد، ۱۲۰۷ھ-۱۲۵۷ھ

شیخ مصطفیٰ مرداد، ۱۲۵۷ھ-۱۲۶۲ھ

شیخ عبداللہ مرداد، ۱۲۶۲ھ-۱۲۷۱ھ

شیخ عبدالعزیز مرداد، ۱۲۷۱ھ-۱۲۷۵ھ

شیخ سلیمان مرداد، ۱۲۷۵ھ-۱۲۹۳ھ

شیخ احمد ابوالخیر، ۱۲۹۳ھ-۱۲۹۹ھ

ماضی میں حرین شریفین، پورے عالم عرب اور اسلامی دنیا میں مرداد علماء کرام کے علم و فضل میں نمایاں مقام کی یہ بین دلیل ہے کہ اس کے یہ سات علماء کرام ۱۱۶۵ھ سے ۱۲۹۹ھ تک مسلسل ۱۳۳ برس تک مکہ مکرمہ مسجد الحرام کے اعلیٰ ترین منصب ”شیخ الخطباء والائمة“ پر خدمات انجام دیتے رہے، رحمہم اللہ تعالیٰ

فاضل بریلوی اور شیخ احمد ابوالخیر مرداد

۱۳۲۳ھ میں مولانا احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حرین شریفین حاضر ہوئے تو محدث کبیر مولانا وصی احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ علیہ (م-۱۳۳۴ھ/۱۹۱۶ء) کے صاحبزادے مولانا عبدالاحد سورتی رحمۃ اللہ علیہ (م-۱۳۵۲ھ/۱۹۳۳ء) آپ کے ہمراہ تھے، ان ایام میں احمد راتب پاشا گورنر حجاز اور شریف علی پاشا امیر مکہ تھے [۶۹] ترک کمزور پڑ چکے تھے اور خلافت عثمانیہ آخری سانس لے رہی تھی، یاد رہے کہ حجاز مقدس میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ۱۳۳۴ھ/۱۹۱۶ء میں ہوا اور وہاں پر ہاشمی مملکت قائم ہو گئی جو ۱۳۴۴ھ/۱۹۲۵ء میں ختم ہو گئی اور پھر سعودی دور کا آغاز ہوا۔

فاضل بریلوی جب مکہ مکرمہ پہنچے تو ان ایام میں شیخ احمد ابوالخیر مرداد اس شہر مقدس کے تین اکابر علماء کرام میں سے ایک تھے، مقامی علماء کرام سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، ان کے ساتھ

علمی مجالس اور پھر تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا، اسی دوران بعض سائنس دانوں کے سوالات اور وہاں کے اکابر علماء کی خواہش پر آپ نے ۲۵ رذوالحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر عربی میں ایک کتاب ”الدولة المکیة بالمادة الغیبیة“ کے تاریخ نام سے لکھنا شروع کی، اسی روز فاضل بریلوی اور شیخ احمد ابوالخیر مرداد کے درمیان ایک ملاقات ہوئی جس کی تفصیل فاضل بریلوی نے خودیوں بیان فرمائی:

”میں نے اس رسالہ (الدولة المکیة) میں غیب خمسہ [۷۰] کی بحث نہ چھیڑی تھی کہ سائلوں کے سوال میں نہ تھی اور مجھے بخار کی حالت میں بکمال تعجیل قصد تکمیل کہ آج ہی ہو، میں لکھ رہا ہوں، حضرت شیخ الخطباء کبیر العلماء مولانا شیخ احمد ابوالخیر مرداد کا پیام آیا کہ میں پاؤں سے معذور ہوں اور تیرا رسالہ سننا چاہتا ہوں، میں اسی حالت میں جتنے اوراق لکھے گئے تھے لے کر حاضر ہوا، رسالہ کی قسم اول ختم ہو چکی تھی جس میں اپنے مسلک کا ثبوت ہے، قسم دوم لکھی جا رہی تھی جس میں وہابیہ کا رد اور ان کے سوالوں کا جواب ہے، حضرت شیخ الخطباء نے اول تا آخر سن کر فرمایا! اس میں علم خمس کی بحث نہ آئی، میں نے عرض کی کہ سوال میں نہ تھی، فرمایا! میری خواہش ہے کہ ضرور زیادہ ہو، میں قبول کیا، رخصت ہوتے وقت ان کے زانوائے مبارک کو ہاتھ لگایا تو حضرت نے باں فضل و کمال و باں کبر سال کہ عمر شریف ستر برس سے متجاوز تھی، یہ لفظ فرمائے کہ:

انا اقبل ارجلکم ، انا اقبل انعالکم

میں تمہارے قدموں کو بوسہ دوں، میں تمہارے جوتوں کو بوسہ دوں۔

یہ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کہ ایسے اکابر کے قلوب میں اس بے وقعت کی یہ وقعت، میں واپس آیا اور شب ہی میں بحث خمس کو

بڑھایا“۔ [۷۱]

الدولۃ المکیہ مکمل ہونے پر حرمین شریفین اور دیگر اسلامی دنیا کے جن اکٹھ سے زائد علماء کرام [۷۲] نے اس پر تقاریظ لکھیں ان میں شیخ احمد ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی سرفہرست ہے، آپ نے تقریظ میں کتاب کے مندرجات کی بھرپور تائید کی اور اس کے مصنف کو ان القاب سے یاد کیا:

”العلامة الامام النبیل الذکی الہمام ورأس المؤلفین فی زمانہ وامام المصنفین

بحکم اقرانہ..... [۷۳]

اس طرح شیخ احمد ابوالخیر نے فاضل بریلوی کو لقب ”امام“ سے ملقب کیا اور تقریظ کے آخر میں آپ کی سلامتی کے لئے دعائیہ کلمات لکھے۔

اور جب فاضل بریلوی نے خطہ ہند میں پیدا ہونے والے بعض نئے فرقوں کے عقائد کو قلم بند کر کے ”المعتمد المستند“ کے نام سے کتابی صورت میں اسی سفر حرمین شریفین کے دوران عرب علماء کرام کے سامنے پیش کیا تو اس پر وہاں کے جن ۳۳ جلیل القدر علماء کرام نے جدید فرقوں کے بارے میں فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے موقف کی تائید کرتے ہوئے تقاریظ لکھیں ان میں احمد ابوالخیر مرداد علیہ الرحمہ بھی شامل ہیں، آپ نے مقتفی و مسجع عربی میں تقریظ لکھتے ہوئے فاضل بریلوی کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا اور فرمایا کہ! احمد رضا خاں اسم باسٹی ہیں، یعنی احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد رضا خاں پر راضی و خوش ہیں۔ [۷۴]

(۱۳) مدرس حرم شیخ محمد سعید ابوالخیر مرداد (متوفی ۱۳۵۳ھ)

علامة العصر شیخ الخطباء شیخ احمد ابوالخیر مرداد کے چھوٹے فرزند شیخ محمد سعید مرداد ۱۲۸۳ھ میں پیدا ہوئے، اپنے والد ماجد سے قرآن مجید حفظ کرنے کے علاوہ اخلاق و شائستگی کی اعلیٰ تربیت پائی، پھر مدرسہ صولتیہ میں داخل ہوئے اور تعلیم مکمل کی [۷۵]، آپ کے دیگر اساتذہ میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا اسم گرامی اہم ہے [۷۶]، شیخ محمد سعید مرداد ہاشمی و سعودی عہد میں حکومت

کے اہم ادارے ”ہیئۃ التدریسات“ جو اب ”ہیئۃ التمزیز“ کہلاتا ہے کے رکن رہے بعد ازاں سعودی عہد میں وزارت اوقاف کے مینجر ہوئے، آپ نے ۱۳۵۳ھ میں وفات پائی اور چار بیٹے شیخ یحییٰ، شیخ حسین، شیخ عبدالقادر اور شیخ محمد یادگار چھوڑے۔

شیخ محمد سعید طویل قد اور نحیف جسامت کے مالک تھے، آپ مربیانہ مزاج، صاف گو، سنتوں کے محافظ، سلام کا گرمجوشی سے جواب دینے والے، چلنے میں بردبار، عیادت کرنے والے اور بکثرت جنازہ کے ساتھ جانے والے وغیرہ اوصاف میں نمایاں تھے، آپ نے قرآن مجید کے علاوہ مختلف اہم کتب کے متون بھی حفظ کر رکھے تھے جو اس عہد میں طالب علم کے لئے ضروری اور بنیاد تھے، چنانچہ آپ درس دے رہے ہوتے تو طلباء کے ہاتھوں میں کتاب موجود ہوتی لیکن دوران تدریس آپ متن دیکھنے کے محتاج نہ تھے، آپ صبح کی نماز مسجد حرام کے باب صفا کے قریب برآمدہ میں ادا کرتے، اس کے بعد خوش الحانی سے تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہو جاتے، پھر طلباء آجاتے اور آپ درس دینا شروع کر دیتے، عمر عبدالجبار نے آپ سے سنے ہوئے دروس میں سے ایک درس اپنی کتاب میں درج کیا ہے، شیخ محمد سعید اپنے درس کے ذریعے طلباء میں مومن کی صفات اجاگر کرنے کی ہر ممکن سعی کرتے اور اس پہلو پر بطور خاص توجہ دیتے۔

اللہ تعالیٰ شیخ محمد سعید ابوالخیر پر رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کی نسل کو سلامت رکھے اور اسے توفیق دے کہ وہ اس کریم گھرانہ کو جو کہ زہد و تقویٰ، علم و فضل اور رشد و ہدایت میں نمایاں ہے، اپنے آباء کی اقتداء کرتے ہوئے جہالت کے اندھیروں کو ختم کرنے میں اپنا کردار جاری رکھے۔ [۷۷]

(۱۴) قاضی مکہ شیخ عبداللہ ابوالخیر مر داد (متوفی ۱۳۲۳ھ)

شیخ عبداللہ ابوالخیر ۱۲۸۵ھ کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اپنے والد ماجد شیخ احمد ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ نیز مدرسہ صولتیہ کے بانی مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر علمائے مکہ سے علوم اسلامیہ پڑھے [۷۸]، تکمیل تعلیم کے بعد مسجد الحرام میں مدرس مقرر ہوئے جہاں باب صفا

کے قریب برآمدہ میں آپ کا حلقہ درس قائم ہوا، آپ اہم علوم دینیہ کے علاوہ تاریخ اور شخصیات کے حالات سے گہرا گواہ اور وسیع معلومات رکھتے تھے، شریف حسین بن علی کے آخری عہد میں مکہ مکرمہ کے قاضی بنائے گئے جس پر آپ اپنی وفات ۱۳۴۳ھ تک فرائض انجام دیتے رہے [۷۹] آپ نے طائف میں وفات پائی۔

فقہ حنفی پر آپ کی گہری نظر تھی، آپ مفتی احناف شیخ عبداللہ بن عباس صدیق حنفی کے گہرے دوست اور معاون تھے، ۱۳۲۵ھ میں امیر مکہ شریف علی نے علماء مکہ مکرمہ کا جو وفد یمن روانہ کیا تھا ان میں شیخ عبداللہ بھی شامل تھے، ان کی عدم موجودگی میں مفتی احناف کی ذمہ داریاں شیخ عبداللہ ابو الخیر کے سپرد کی گئیں۔ [۸۰]

فضیلة العلامة الشيخ عبداللہ ابو الخیر مکہ مکرمہ کے ان چند علماء کرام میں سے تھے جنہیں مذاہب اربعہ کے مطابق حج کی ادائیگی کے ارکان و واجبات اور سنن مستحضر تھے، موسم حج کے دوران مسجد الحرام میں درس و تدریس کا سلسلہ عام طور پر روک دیا جاتا تھا تا کہ طلباء و مدرسین اور حجاج اطمینان سے عبادت کر سکیں، لیکن شیخ عبداللہ ابو الخیر تنگ جگہ اور ازدحام کے باوجود باب صفا کے برآمدہ میں اپنا حلقہ درس حسب معمول منعقد کرتے، صرف اس لئے کہ حجاج کرام کو مسائل دریافت کرنے کی سہولت میسر رہے اور لوگ رہنمائی حاصل کر کے حج اور دیگر دینی امور کو صحیح طریقہ سے ادا کر سکیں، عمر عبدالجبار نے حج سے متعلق آپ کا ایک درس شامل کتاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ شیخ عبداللہ ابو الخیر پر رحمت نازل فرمائے اور دین پران کی استقامت و دعوت کو نفع بخش بنائے، بے شک اللہ تعالیٰ نے شیخ احمد ابو الخیر مرداد کی دعا قبول فرمائی اور انہیں شیخ عبداللہ ابو الخیر مرداد جیسا لائق فرزند عطا کیا، جس نے اسلاف کے کام کو آگے بڑھایا۔ [۸۱]

آپ کے شاگردوں میں سے شیخ عربی حینی نے نام پایا [۸۲] علاوہ ازیں آپ نے ”نشر النور والذہر“ کے نام سے ایک ضخیم و عظیم تصنیف یادگار چھوڑی، جو متعدد وجوہات کی بنا پر غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، اس لئے اس کتاب کا تفصیلی تعارف اس تحریر کے آخر میں دیا گیا ہے۔

فاضل بریلوی اور شیخ عبداللہ ابو الخیر مرداد

فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قیام مکہ مکرمہ کے دوران شیخ عبداللہ ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، الدولۃ المکیہ کی تصنیف کے دوران آپ کے درمیان رابطہ رہا، پھر ایک روز شیخ عبداللہ مرداد اور شیخ محمد احمد حامد جدوی [۸۳] نے کاغذی نوٹ کے بارے میں بارہ سوالات پر مشتمل ایک استفتاء تیار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس کے جواب میں فاضل بریلوی نے کتاب ”کفل الفقہ الفہم فی احکام قرطاس الدرہم“ تصنیف کی [۸۴]۔

اسلاف کے زمانہ میں اشیاء کی خرید و فروخت کے لئے سونا، چاندی اور پتیل وغیرہ کے سکے رائج تھے، کاغذی نوٹ بعد کی صدیوں میں زیر گردش آئے، لہذا قدیم فقہاء اسلام کو کاغذی نوٹ کے استعمال اور اس کے جزوی مسائل پر غور و فکر کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، اس موضوع پر کام کی ابتداء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۹۱۱ھ) نے رسالہ ”قطع المجادلۃ فی تغیر المعاملۃ“ لکھ کر کی جو آپ کی کتاب ”الحاوی للفتاویٰ“ میں شامل ہے، پھر ۱۲۱۶ھ میں علامہ حسینی حنفی نے ایک رسالہ ”تراجع سعر النقود بالامر السلطانی“ لکھ کر اس موضوع کو آگے بڑھایا، ان کے بعد علامہ ابن عابدین شامی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۲۵۲ھ) نے رسالہ ”تنبیہ الرقود علی مسائل النقود“ قلمبند کیا جو ”رسائل ابن عابدین“ میں شامل ہے [۸۵]، پھر مکہ مکرمہ کے علامہ سید بکری شطاشافعی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۴۴ھ۔ ۱۳۱۰ھ) نے ایک رسالہ بنام ”القول المنقح المظبوط فی صحیح التعامل ووجوب الزکاة فی الورق النوط“ لکھا [۸۶]۔

فاضل بریلوی کے دور تک کاغذی نوٹ کا استعمال عام ہوا تو اس سے متعلق مسائل پوری شد و مد سے فقہاء اسلام کے سامنے آئے، متحدہ ہندوستان میں مولانا عبدالحی لکھنوی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۳۰۴ھ) اور مولوی رشید احمد گنگوہی کے سامنے یہ موضوع آیا تو انہوں نے اس پر فتاویٰ جاری کئے، لیکن تشنگی باقی رہی، ادھر مکہ مکرمہ میں یہ موضوع فاضل بریلوی کے استاذ

الاستاذ مفتی احناف شیخ جمال عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ (م- ۱۲۸۳ھ) کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے فرمایا مجھے اس کے جزیہ کا کوئی بتہ نہیں چلتا کہ کچھ حکم دوں [۸۷]۔ دور جدید میں پورے عام اسلام کے فقہاء کرام کو درپیش اس اہم موضوع سے متعلق تمام سوالات کے جواب میں پہلی جامع کتاب، علمائے مکہ مکرمہ بالخصوص عبداللہ ابوالخیر کی تحریک سے فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے قلم سے وجود میں آئی۔

صفر ۱۳۲۳ھ میں فاضل بریلوی نے امام حرم مولانا شیخ عبداللہ ابوالخیر مرداد کو جمیع علوم اسلامیہ میں سند اجازت و خلافت عطا فرمائی [۸۸]۔

نشر النور والزہر

یہ کتاب مکہ مکرمہ میں خدمات انجام دینے والے پانچ صدیوں کے علماء کرام کے حالات پر مشتمل ہے، حجاز مقدس کے نامور ادیب و شاعر، صحافی و مؤرخ شیخ محمد علی مغربی [۸۹] لکھتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے یہ بہت ہی اہم کتاب ہے اور یہ بجا طور پر علامہ تقی الدین فاسی (م- ۸۳۲ھ) کی کتاب ”العقد الثمین فی تاریخ البلد الامین“ (مطبوعہ ۱۳۷۹ھ / ۱۹۵۹ء مصر) جس میں مکہ مکرمہ کے تقریباً آٹھ سو علماء کے حالات درج ہیں، اس کے بعد اہم ترین کتاب ہے، علامہ فاسی نے ابتدائے اسلام سے اپنے دور تک کے علماء کے حالات قلمبند کئے اور شیخ عبداللہ مرداد نے گویا اسی کام کو آگے بڑھایا اور اپنی کتاب میں دسویں تا چودھویں صدی ہجری تک کے چھ سو سے زائد علماء کے حالات جمع کئے، دونوں کتب میں ایک اور یکساں خوبی یہ ہے کہ ان میں بلد الحرام کی بہت سی خواتین عالمات کے حالات دیئے گئے ہیں جس سے یہ بات اجاگر ہوتی ہے کہ ماضی میں مکہ مکرمہ کی خواتین نے بھی دینی علوم میں کمال حاصل کیا اور پھر ان کے فروغ میں بھرپور حصہ لیا۔

شیخ عبداللہ ابوالخیر مرداد نے اس موضوع سے متعلق تمام اہم ماخذ تک رسائی حاصل کی

اور عام مؤرخین کے برعکس کتاب میں اپنے مصادر کا ذکر کیا..... نشر النور مصنف کی ایک انتہائی کامیاب کوشش ہے جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ [۹۰]

محمد سعید عامودی [۹۱] و احمد علی [۹۲] رقمطراز ہیں: یہ کتاب علماء و ادباء کے حالات پر گوہر آب کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے مؤلف جلیل شیخ عبداللہ ابو الخیر مرداد رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں گزشتہ صدیوں کے جلیل القدر علماء کے حالات جمع کر دیئے ہیں، جنہوں نے مختلف مناصب، قضاة، تدریس، امامت و خطابت پر عظیم خدمات انجام دیں، نیز دسیوں کتب و رسائل تالیف کئے، ان علماء میں متعدد ادیب و شاعر تھے، مؤلف نے ان کے مفصل حالات فراہم کرنے کے علاوہ ان کی شاعری کے نمونے بھی ہم تک پہنچائے، بے شک یہ کتاب ہمارے علمی، ادبی و تاریخی سرمائے میں ایک اہم اضافہ ہے جو انسائیکلو پیڈیا کا درجہ رکھتی ہے۔

حق بات یہ ہے کہ یہ کتاب بہت سے فوائد کی حامل ہے، مصنف نے موضوع سے متعلق تمام اہم مطبوعہ و غیر مطبوعہ مواد تک رسائی حاصل کی..... اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے یہ کتاب کثرت مشاغل، قضاة، خطابت اور تدریس کو جاری رکھتے ہوئے کمال اطمینان سے تصنیف کی۔ [۹۳]

عبدالقدوس انصاری [۹۴] کی رائے میں یہ ایک جامع، گراں قدر اور نفیس کتاب ہے، اللہ تعالیٰ مؤلف کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ [۹۵]

المختصر من کتاب نشر الثور و الزھر

۱۳۶۷ھ میں مکہ مکرمہ میں وزارت تعلیم کے مینجر شیخ محمد بن مانع کی سرپرستی میں ایک کمیٹی تشکیل پائی تاکہ حرمین شریفین کی تاریخ پر لکھی گئی اہم غیر مطبوعہ کتب کے مخطوطات پر کام کر کے انہیں جدید انداز میں شائع کیا جائے، اس کمیٹی کے ارکان یہ ہیں: شیخ محمد حسین نصیف [۹۶]، محقق و ادیب رشدی صالح الملحس [۹۷]، حرم مکی لائبریری کے انچارج و مجلس شوریٰ کے رکن سلیمان صدیج، شیخ عبدالوہاب دہلوی کمیٹی کے خازن، شیخ عمر عبدالجبار [۹۸]، عبدالقدوس

انصاری، عبداللہ عبدالجبار [۹۹]، محمد سعید عامودی کمیٹی کے سیکرٹری جنرل۔

شیخ محمد حسین نصیف اور دیگر اراکین کی رائے سے شیخ عبداللہ مرداد کی کتاب ”نشر النور“ کو بھی طباعت کے لئے منتخب کر لیا گیا، اس کتاب کا واحد قلمی نسخہ بخط مصنف مکہ مکرمہ کے معروف عالم و محقق شیخ عبدالوہاب دہلوی جن کا گھر جبل صفا کے قریب واقع تھا، کے ذاتی ذخیرہ کتب میں موجود تھا، شیخ عبدالوہاب نے یہ مخطوط کمیٹی کے حوالے کیا، جس پر حرم ملی لاہور کے محافظ شیخ عبدالرحمن معلمی کی نگرانی میں اسے نقل کیا گیا، پھر شیخ محمد حسین نصیف اور شیخ سلیمان صدیق وغیرہ نے اس منصوبہ پر غور و خوض کیا اور بالآخر اس پر اتفاق ہوا کہ اس کتاب کا مخطوط من و عن شائع کرنے کی بجائے اس کا خلاصہ تیار کر کے اسے شائع کیا جائے۔

چنانچہ ۱۳۷۱ھ میں محمد سعید عامودی و احمد علی نے مل کر اس کتاب پر کام شروع کیا جو سات برس میں مکمل ہوا، یہ دونوں قلم کار اپنے مخصوص نظریات کے تناظر میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے ایسا مواد جو غیر مفید یا تکرار پر مبنی تھا، نیز اس میں درج ایسی حکایات و اقوال جو بلا سند تھے اور اس میں موجود بکثرت مواد جو مبالغہ آمیز تھا، سب نکال دیا ہے اور پھر ہم نے اس کتاب کو نئے سرے سے مرتب کیا، اس پر تحقیق کی، حواشی لکھے اور ارقام درج کئے۔ [۱۰۰]

نشر النور پر ابھی کام جاری تھا کہ شیخ نصیف، شیخ صدیق اور شیخ دہلوی اس دنیا سے چل بسے اور یہ کام رک گیا، تا آنکہ ایک روز رابطہ عالم اسلامی کی لاہور کے واقع مکہ مکرمہ میں اس موضوع پر ہماری گفتگو شیخ محمد سرور صبان [۱۰۱] سے ہوئی تو انہوں نے ہمیں اس پر کام جاری رکھنے کا حکم دیا اور اس کی طباعت میں تعاون کا یقین دلایا، چنانچہ ہم نے اسے مکمل کیا، پھر اس پر مورخ و محقق شیخ عبدالقدوس انصاری نے تقدیم لکھی اور ۱۳۹۸ھ میں اس کا پہلا ایڈیشن طائف میں واقع ادبی کلب ”نادی الطائف الادبی“ کی طرف سے شائع ہوا، یہ کلب امیر فیصل بن شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی سرپرستی و تعاون سے ادبی خدمات کے لئے قائم ہے۔ [۱۰۲]

اس کا دوسرا ایڈیشن ۱۴۰۶ھ / ۱۹۸۶ء میں استاذ سید محسن احمد باروم نے اپنے اشاعتی

ادارہ عالم المعرفہ جدہ کی طرف سے شائع کیا جو اس وقت راقم السطور کے پیش نظر ہے، نشر النور کا یہ اختصار تقدیم و اشاریہ سمیت کل ۶۴۰ صفحات پر مشتمل ہے اور کمپیوٹر کمپوزنگ، اعلیٰ کاغذ و جلد سے آراستہ ہے، پوری کتاب میں جہاں کہیں دو نام ”عبدالرسول و عبدالنبی“ آئے کتاب کا اختصار کرنے والوں نے انہیں قوسین میں ”عبدرب الرسول و عبدرب النبی“ میں بدل دیا، اور جہاں جہاں یہ عبارت آئی کہ مکہ مکرمہ کے کسی عالم نے ”روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے مدینہ منورہ کا سفر کیا“ اسے ”مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے مدینہ منورہ کا سفر کیا“ میں قوسین کا سہارا لے کر بدل دیا گیا۔

علامہ سید احمد زینی دحلان مکی شافعی اور مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہم اللہ تعالیٰ دونوں علماء مکہ مکرمہ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، اکابر علماء کی بڑی تعداد نے ان سے تعلیم پائی، لیکن حیرت ہے کہ نشر النور کے اختصار میں ان کے حالات زندگی درج نہیں جب کہ اس کے مصنف نے ان علماء کا زمانہ پایا اور نشر النور کی تصنیف کے دوران علامہ سید احمد زینی دحلان کی ایک کتاب سے استفادہ کیا اور ان کے دو بھتیجوں علامہ سید حسین دحلان (پ۔ ۱۲۹۴ھ) و علامہ سید عبداللہ دحلان (پ۔ ۱۲۸۸ھ) کے حالات شامل کتاب کئے، جب کہ مولانا کیرانوی علیہ الرحمہ نہ صرف مصنف بلکہ ان کے بھائی شیخ محمد سعید ابوالخیر اور والد شیخ احمد ابوالخیر مرداد تینوں کے استاد ہیں، پھر اندریں صورت حال کہ کتاب میں ان دونوں جلیل القدر علماء کے متعدد شاگردوں کے حالات موجود ہیں اس بنا پر علامہ زینی دحلان اور مولانا کیرانوی کا نام اس مطبوعہ اختصار میں بالترتیب ۶۳ اور ۷۱ مقامات پر مذکور ہے، جب تک نشر النور کے اصل مخطوط بخط مصنف سے آگاہی نہ ہو اس ضمن میں حتمی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ مصنف نے ان دونوں علماء کے حالات شامل کتاب ہی نہیں کئے یا یہ کہ انہیں کتاب شائع کرنے والی کمیٹی کے اراکین نے حذف کر دیا، لیکن ایک بات واضح ہے اور وہ یہ کہ علامہ زینی دحلان، مولانا کیرانوی اور شیخ عبداللہ مرداد عقیدہ و فکر کے اعتبار سے آپس میں یگانگت رکھتے ہیں اور اس پر ان کی اپنی تحریریں شاہد ہیں۔

نظم الدرر فی اختصار نشر النور والزهر

نشر النور کا پہلا اختصار مکہ مکرمہ کے ایک عالم و مؤرخ شیخ عبداللہ غازی نے ”نظم الدرر فی اختصار نشر النور والزهر“ کے نام سے تیار کیا تھا [۱۰۳] جس پر مکہ مکرمہ و حجاز کے علمی حلقے نیز مذکورہ کمیٹی کے اراکین بخوبی آگاہ تھے لیکن انہوں نے اس کی اشاعت کی بجائے سالہا سال کی ”محنت“ سے محمد سعید عامودی و احمد علی سے اس اہم کتاب کا دوسرا اختصار تیار کر کے اسے شائع کیا۔

نثر الدرر فی تزییل الدرر

شیخ عبداللہ غازی نے ایک اور کتاب ”نثر الدرر فی تزییل الدرر“ کے نام سے تصنیف کی جس میں ان علماء مکہ مکرمہ کے حالات درج کئے جو شیخ عبداللہ مراد کی کتاب میں شامل ہونے سے رہ گئے تھے، محمد علی مغربی نثر الدرر کے مخطوط کے مطالعہ کے بعد لکھتے ہیں کہ شیخ عبداللہ غازی نے اس کتاب میں زیادہ تر تیرھویں و چودھویں صدی ہجری نیز ہم عصر علماء مکہ مکرمہ کے حالات قلمبند کئے ہیں۔ [۱۰۴]

نشر النور کا اصل مخطوط مفقود الخیر قرار دیا جا چکا ہے اور اس کا کوئی دوسرا قلمی نسخہ ابھی تک دریافت نہیں ہوا، نظم الدرر اور نثر الدرر بلکہ شیخ عبداللہ غازی کی جملہ تصانیف ابھی تک شائع نہیں ہوئیں اور ان کے مخطوطات یا ان کی فوٹو سٹیٹ کاپی، شیخ عبدالوہاب دہلوی، شیخ محمد حسین نصیف، محمد علی مغربی اور ڈاکٹر عبدالوہاب ابوسلیمان کے ذاتی کتب خانوں میں موجود ہیں۔

علامہ عبداللہ بن محمد غازی مکی (متوفی ۱۳۶۵ھ)

نظم الدرر اور نثر الدرر کے مصنف شیخ عبداللہ غازی کے والدین ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ جا بے جہاں ۱۲۹۱ھ میں ان کی ولادت ہوئی [۱۰۵] جب کہ دوسرے قول کے

مطابق آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور جب آپ کے والدین مکہ مکرمہ پہنچے تو شیخ عبداللہ کی عمر سات برس تھی، قرآن مجید حفظ کیا اور مسجد الحرام میں نماز تراویح پڑھائی جب کہ آپ کی عمر بارہ برس تھی، پھر مدرسہ صولتیہ میں داخلہ لیا جہاں شیخ عبدالسبحان بن شیخ خادم علی [۱۰۶]، شیخ حضرت نور افغانی [۱۰۷]، شیخ تفضل الحق خیاط مرشد آبادی [۱۰۸] اور مولانا رحمت اللہ کیرانوی سے پڑھا [۱۰۹]، حاجی امداد اللہ مہاجرکی رحمۃ اللہ علیہ کے دست اقدس پر بیعت کی، شیخ عبداللہ غازی نے مکہ مکرمہ حاضر ہونے والے عالم اسلام کے متعدد اکابر علماء و مشائخ سے علوم اخذ کئے، الدلیل المشیر میں آپ کے تیس سے زائد اساتذہ و مشائخ کے نام دیئے گئے ہیں ان میں محدث شام سید محمد بدرالدین حسنی دمشقی [۱۱۰]، سید بہاء الدین بن علامہ سید داؤد نقشبندی بغدادی، شیخ عبدالحق الہ آبادی مہاجرکی [۱۱۱]، علامہ سید محمد عبدالحی کتانی [۱۱۲]، شیخ عمر حمدان [۱۱۳] اور علامہ محمد بن عبدالرحمن سہارنپوری شامل ہیں، شیخ عبداللہ غازی نے انتہائی سادہ زندگی بسر کی اور عمر بھر تصنیف و تالیف سے وابستہ رہے، مزید تصانیف کے نام یہ ہیں:

افادۃ الا نام بذکر اخبار بلد اللہ الحرام، سات جلدوں میں، اس کا مخطوط بخط مصنف شیخ محمد حسین نصیف کے ذخیرہ کتب میں موجود ہے، محمد علی مغربی نے اس کتاب کا تفصیلی تعارف اور اس کے طویل اقتباسات اپنی کتاب میں دیئے ہیں۔

۱۔ مجموع الاذکار من احادیث النبی المختار

۲۔ کشف ما سبب من احترام اللہ واللعب

۳۔ بیان الفرائض شرح بدیع الفرائض

۴۔ فتح القوی فی ذکر اسانید السید حسین حبشی علوی (۱۲۵۸ھ - ۱۳۳۰ھ)

۵۔ تھیٹ الفوائد من تذکار الاسناد اور شاد العباد الی طریق الاسناد، ۲ جلد

شیخ عبداللہ غازی نے ۵ شعبان ۱۳۶۵ھ کو وفات پائی اور شیخ ابی بکر بن سالم البار

[۱۱۴] نے حرم مکی میں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ [۱۱۵]

نَشْرُ النُّورِ وَالزَّهْرِ اِيك نَظَر

کتاب کا مکمل نام جو مصنف نے مقدمہ میں لکھا ہے وہ یہ ہے ”نشر النور والزهر فی تراجم افاضل مکة من القرن العاشر الی القرن الرابع عشر“ اور دوسرا نام ”الدر الفاخر المکنون فی تراجم افاضل الخمس القرون“ تاہم کتاب پہلے نام سے معروف ہوئی، فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے خلیفہ شیخ عبداللہ مرداد علیہ الرحمہ کی یہ عظیم تصنیف متعدد جوہات کی بنا پر بڑی اہمیت کی حامل ہے، جن میں سے چھ یہ ہیں:

۱۔ اس کی سب سے بڑی اہمیت تو یہی ہے جو سابقہ سطور میں آچکی کہ یہ چودہ صدیوں میں علماء مکہ مکرمہ کے حالات پر لکھی گئی تمام کتب میں علامہ فاسی کی ”العقد الثمین“ کے بعد دوسری اہم کتاب ہے۔

۲۔ ماضی میں پاک و ہند اور بنگلہ دیش سے جو علماء و مشائخ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ جا بے، ہمارے یہاں برصغیر میں لکھی گئی کتب میں ان کے حالات بہت ہی کم یا سرے سے موجود ہی نہیں، شیخ عبداللہ مرداد نے ان علماء کے حالات نہ صرف حجاز کے باشندوں سے جمع کئے نیز اس کے لئے عرب دنیا میں لکھی گئی کتب مطبوعہ و غیر مطبوعہ کو کھنگالا بلکہ برصغیر میں اس موضوع پر لکھی گئی دو کتب غلام علی آزاد بلگرامی (م۔ ۱۲۰۰ھ / ۶۔ ۱۷۸۵ء) کی ”سبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان“ اور مولانا عبدالحی فرنگی محلی (م۔ ۱۳۰۲ھ) کی ”الفوائد البھیہ فی تراجم الحنفیہ“ سے بھی استفادہ کیا، نشر النور کے مطبوعہ اختصار میں ایسے متعدد علماء کے حالات درج ہیں جو برصغیر سے ہجرت کر گئے، ان کے اسماء گرامی کی ایک سرسری فہرست یہ ہے:

☆۔ شیخ احمد بن ضیاء الدین بنگالی (مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے شاگرد)

☆۔ شیخ احمد حکیم ہندی حنفی (م۔ ۱۳۰۲ھ)

☆۔ شیخ احمد عطار (پ۔ ۱۲۸۰ھ)

- ☆ - شیخ احمد معصوم حیدر آبادی (۱۰۲۷-۱۰۸۶ھ)
- ☆ - شیخ محمد اسحاق دہلوی (۱۱۹۷-۱۲۶۲ھ)
- ☆ - حاجی شیخ امداد اللہ ہندی (۱۲۳۰-۱۳۱۷ھ)
- ☆ - شیخ جان سلیمانی نقشبندی (م-۱۲۶۷ھ)
- ☆ - حافظ عبداللہ بن شیخ حسین (م-۱۳۱۰ھ)
- ☆ - شیخ حسن عرب سندھی (م-۱۳۱۶ھ)
- ☆ - شیخ کاظم کرم گنجی (پ-۱۲۷۳ھ)
- ☆ - شیخ حسن مدراسی (م-۱۲۸۵ھ)
- ☆ - شیخ حمودہ بن عطیہ سندھی (م-۱۲۶۷ھ)
- ☆ - علامہ حمید الدین بن عبداللہ سندھی (م-۱۰۰۹ھ)
- ☆ - شیخہ خدیجہ بنت شیخ اسحاق دہلوی (۱۲۳۰-۱۳۱۰ھ)
- ☆ - شیخ رحمت اللہ سندھی (۹۳۰-۹۹۳ھ)
- ☆ - شیخ شمس الدین بن (وزیر) آصف خاں (م-۹۸۶ھ)
- ☆ - شیخ صدیق سندھی (م-۱۳۲۲ھ)
- ☆ - شیخ صلاح بن عطیہ سندھی (م-۱۲۸۶ھ)
- ☆ - شیخ صنیع اللہ ہندی (م-۱۲۳۷ھ)
- ☆ - شیخ عبدالحق الہ آبادی (۱۲۵۲-۱۳۳۳ھ)
- ☆ - شیخ عبد الحمید بخش (مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے شاگرد)
- ☆ - شیخ عبد الحمید بن عبداللہ بن ابراہیم فاروقی سندھی (م-۱۰۰۹ھ)
- ☆ - شیخ عبدالرحمن مفتی (م-۱۱۲۲ھ)
- ☆ - شیخ عبدالرحمن محدث (م-۱۱۳۳ھ)

- ☆ - شیخ عبدالکریم قاضی خان احمد آبادی (۹۶۱ھ - ۱۰۱۴ھ)
- ☆ - شیخ عبدالکریم بن خضر (م - ۱۱۴۳ھ)
- ☆ - شیخ عبداللطیف عطیہ بن عبداللہ بن حمود بن عطیہ (۱۲۷۹ھ - ۱۳۲۰ھ)
- ☆ - شیخ عبداللہ بن اسعد سندھی (م - ۹۸۴ھ)
- ☆ - شیخ عبداللہ عبدالشکور (م - ۱۲۵۷ھ)
- ☆ - شیخ عبداللہ فروغ مفتی مکہ (م - ۱۰۹۰ھ)
- ☆ - شیخ عبداللہ ہندی (م - ۱۲۶۰ھ)
- ☆ - شیخ عبدالملک بن عبداللہ بن عبدالشکور (م - ۱۲۶۰ھ)
- ☆ - شیخ عبدالوہاب بن عبدالغنی فتی (م - ۱۱۱۷ھ)
- ☆ - شیخ علاء الدین میر خواجہ حسینی (م - ۹۸۵ھ)
- ☆ - شیخ علی بن عبداللہ بن عبدالشکور (م - ۱۲۶۰ھ)
- ☆ - شیخ قطب الدین دہلوی (م - ۱۲۸۹ھ)
- ☆ - شیخ محبت الدین پشاوری (پ - ۱۲۶۸ھ)
- ☆ - شیخ محمد بن عبداللہ بن عبدالشکور (م - ۱۲۷۰ھ)
- ☆ - شیخ محمد مراد بنگالی (۱۲۸۰ھ)
- ☆ - شیخ سیدی یحییٰ بن احمد زکریا بہاری (م - ۱۰۹۰ھ)
- ☆ - شیخ سیدی یحییٰ بن سید احمد معصوم نظام الدین حسینی (۱۰۲۸ھ - ۱۰۹۲ھ)
- ☆ - شیخ یعقوب دہلوی (م - ۱۲۸۳ھ)
- ☆ - شیخ یوسف بنگالی (مدرس مدرسہ صولتیہ)
- ۳۔ اس کتاب میں ”رسالہ فی الطریقۃ النقشبندیہ“ کے مصنف شیخ محمود شکاری حنفی نقشبندی المعروف کتب خانہ (۱۲۳۳ھ - ۱۳۰۲ھ) نیز ”رسالہ فی دفع المطاعن عن الشیخ احمد

فاروقی سرہندی نقشبندی و مریدیہ کے مصنف شیخ عبداللہ عتاتی زادہ (پ ۱۰۴۵ھ) کے حالات درج ہیں۔

۴۔ فاضل بریلوی کے عرب اساتذہ کے حالات زندگی اس سے قبل دست یاب نہیں ہو رہے تھے، اس کتاب میں آپ کے دو اساتذہ علامہ سید حسین بن صالح جمل اللیل شافعی (م۔ ۱۳۰۵ھ) اور شیخ عبدالرحم سراج حنفی مکی کے حالات موجود ہیں۔

۵۔ پاک و ہند میں قائم علمی ادارے اور عالمی یونیورسٹیوں میں ”رضویات“ پر کام کرنے والے محققین فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرب خلفاء کے احوال و آثار کے متلاشی تھے، اس کے صفحات پر آپ کے حسب ذیل سات خلفاء کے حالات ہیں:

☆۔ شیخ احمد حضراوی (۱۲۵۲ھ۔ ۱۳۲۷ھ)

☆۔ شیخ اسعد دھان (م۔ ۱۳۳۸ھ)

☆۔ شیخ جمال بن محمد الامیر بن حسین مالکی (۱۲۸۵ھ۔ ۱۳۲۹ھ)

☆۔ شیخ صالح کمال حنفی (۱۲۶۳ھ۔ ۱۳۳۲ھ)


☆۔ شیخ عبدالرحمن دھان (۱۲۸۳ھ۔ ۱۳۳۷ھ)

☆۔ شیخ عبداللہ دھان (۱۲۸۸ھ۔ ۱۳۶۳ھ)

☆۔ شیخ ابو حسین محمد مرزوقی (۱۲۸۳ھ۔ ۱۳۶۵ھ)

۶۔ اس کتاب نے جن ہاتھوں سے گزر کر طباعت کے مراحل طے کئے اس بنا پر مطبوعہ نسخہ میں مصنف کے مرشد فاضل بریلوی کا کسی بھی حوالے سے تفصیلی ذکر نہ ہونا تعجب کی بات نہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں ایک مقام پر صرف ایک سطر میں آپ کا ذکر آ گیا ہے، جس سے مصنف اور فاضل بریلوی کے درمیان تعلق اور اس کی نوعیت بخوبی عیاں ہے، شیخ عبداللہ ابوالخیر مرداد لکھتے ہیں! ”شیخنا العلامة احمد رضا خان بریلوی“ یعنی ہمارے شیخ علامہ احمد رضا خان بریلوی [۱۱۶] رحمہم اللہ تعالیٰ۔

نسب نامہ مراد خاندان



حوالہ جات و حواشی

[۱]- المملفوظ (۱۳۳۸ھ)، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، مرتب مولانا مصطفیٰ رضا

خاں بریلوی، مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی، حصہ دوم، ص ۱۲۰

[۲]- ایضاً، ص ۱۲۶

[۳]- ”فتاویٰ الحرمین برہم ندوۃ المین“ نئی کتابت کے ساتھ مکتبہ حامد یہ لاہور نے

شائع کی، بعد ازاں ترکی استنبول سے شیخ حسین علمی ایشیق نے اس کتاب کے متعدد ایڈیشن طبع کرا کے دنیا بھر میں مفت تقسیم کئے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔

[۴]- حرمین شریفین میں جن عرب علماء کرام نے فاضل بریلوی سے اجازتیں حاصل

کیں، مولانا حامد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اسناد کو جمع کر کے کتابی صورت دی اور اس پر مفصل عربی مقدمہ لکھا جسے ”الاجازات المتینہ لعلماء بکہ والمدینۃ“ (۱۳۲۳ھ) کے تاریخی نام سے مکتبہ حامد یہ لاہور نے شائع کیا، اس کا تازہ ایڈیشن منظمہ الدعوة الاسلامیہ جامعہ نظامیہ لاہور نے شائع کر رکھا ہے۔

[۵]- ملاحظہ ہو: المملفوظ، حصہ دوم، ص ۱۲۰ و بعد

[۶]- حرمین شریفین میں ایک ہی دور میں دو عظیم عالم ”ابوالحسن سندھی“ نام کے موجود

تھے، دونوں میں تفریق کے لئے ایک شیخ ابوالحسن سندھی الصغیر (چھوٹے) اور دوسرے شیخ ابوالحسن سندھی الکبیر (بڑے) کہلائے۔

[۷]- شیخ عبدالرحمن بن حسن فتنی حنفی (م-۱۱۶۲ھ) مکہ مکرمہ کے اکابر علماء میں سے

تھے، آپ سے بکثرت علماء نے کسب فیض کیا، ان میں شیخ طاہر سنبل، شیخ محمد بن صالح مرداد، شیخ الاسلام عبدالملک قلعی اور شیخ مصطفیٰ رحمتی رحمہم اللہ تعالیٰ شامل ہیں، شیخ عبدالرحمن فتنی اور آپ کی نسل میں سے امام حرم شیخ عبدالملک فتنی (۱۲۵۵ھ-۱۳۳۲ھ) بن شیخ عبدالوہاب بن صالح بن

عید بن شیخ عبدالرحمن کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو:

المختصر من کتاب نشر النور والزهر فی تراجم افاضل مکہ، شیخ عبداللہ مرداد، اختصار و ترتیب:

محمد سعید عامودی و احمد علی، ناشر عالم المعرفہ جدہ، طبع دوم ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء، ص ۲۳۹، ۳۲۷

[۸]- نشر النور، ص ۳۹۰-۳۹۱

[۹]- ایضاً، ص ۱۸۲-۱۸۳

[۱۰]- شریف سرور بن مساعد ۱۱۹۵ھ سے اپنی وفات ۱۲۰۲ھ تک امیر رہے

۔ (نشر النور حاشیہ ص ۲۵۵)

[۱۱]- شیخ احمد شمس ۱۱۶۱ھ سے ۱۱۶۵ھ اپنی وفات تک شیخ الخطباء رہے، فضائل زمزم

اور مناسک پر آپ کی مؤلفات موجود ہیں، آپ کی اولاد میں سے شیخ محمد اور شیخ عثمان مسجد الحرام

کے امام و خطیب ہوئے (نشر النور، ص ۹۲-۹۳)

[۱۲]- شریف عبداللہ پاشا بن محمد ولی ۱۲۷۳ھ میں اپنے والد کی وفات پر امیر مکہ بنے

جس پر اپنی وفات ۱۲۹۲ھ تک متمکن رہے۔ (نشر النور، حاشیہ ص ۲۵۶)

[۱۳]- شریف عبدالمطلب تین بار امیر مکہ رہے، ۱۲۳۳ھ میں پانچ ماہ، دوسری بار

۱۲۶۷ھ سے ۱۲۷۲ھ اور تیسری بار ۱۲۹۷ھ سے ۱۲۹۹ھ تک۔ (نشر النور، حاشیہ ص ۲۵۶)

[۱۴]- علامہ سید حسین بن صالح جمل اللیل شافعی رحمۃ اللہ علیہ فاضل بریلوی کے

استاد ہیں، آپ کے حالات حسب ذیل کتب میں دیئے گئے ہیں:

۱- نشر النور، ص ۱۷۷

۲- الامرة القرشیة اعیان مکة الحمیة، ابوہشام عبداللہ عباس بن صدیق، مکتبہ تھامہ جدہ،

طبع اول

۳- الشجرة الزکیة فی الانساب و سیر آل بیت النبوة، ابوہل یوسف بن عبداللہ جمل

اللیل، دار الحارثی للطباعة والنشر پوسٹ بکس نمبر ۱۲۸ طائف، طبع اول ۱۴۱۴ھ، ص ۱۶۵

[۱۵]۔ نشر النور، ص ۲۵۵-۲۵۶

[۱۶]۔ ایضاً، ص ۳۲۱

[۱۷]۔ شیخ عبدالملک قلعی حنفی رحمۃ اللہ علیہ مسجد الحرام کے امام و خطیب نیز مفتی مکہ مکرمہ تھے، آپ ۳۷ برس اس منصب پر تعینات رہے، قبل ازیں آپ کے والد اور دادا بھی اس پر فائز رہ چکے تھے، آپ نے متعدد کتب تصنیف کیں، چند کے نام یہ ہیں: (۱) شرح الاجرومیہ، (۲) حل الرمز شرح کنز الدقائق، (۳) فتاویٰ تین جلدوں میں، شیخ عبدالملک قلعی نے ۱۲۲۸ھ میں وفات پائی۔ (نشر النور، ص ۳۲۹-۳۳۰)

[۱۸]۔ نشر النور، ص ۳۲۳-۳۲۵

[۱۹]۔ ایضاً، ص ۵۰۰

[۲۰] ولی کامل سید محمد یاسین حنفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اپنے والد کے علاوہ فقیہ مکہ شیخ طاہر سنبل رحمۃ اللہ علیہ (م- ۱۲۱۸ھ)، شیخ عثمان شامی، مفتی عبدالملک قلعی (م- ۱۲۲۸ھ)، شیخ مصطفیٰ رحمتی، سید احمد جمل اللیل اور علامہ محدث محمد صالح فلانی عمری مدنی سے تعلیم حاصل کی، امیر مکہ نے عارف باللہ سید محمد یاسین کو مفتی احناف کا منصب پیش کیا جسے آپ نے قبول نہیں فرمایا اور یہ آپ کے بھتیجے سید عبداللہ بن ابراہیم میرغنی کے سپرد کیا گیا، سید محمد یاسین نے ۱۲۵۱ھ یا ۱۲۵۵ھ میں وفات پائی اور قبرستان المعلیٰ میں اپنے خاندان کے مخصوص احاطہ میں جو کہ طبری خاندان کے احاطہ سے قریب ہے، دفن ہوئے، آپ کی متعدد تصانیف ہیں ان میں، شرح علی منک ملتقی الابحار، شرح علی الجوہر المکنون فی الثلاثہ فنون للعلامة الاخضرى اور شرح علی النقایۃ للحافظ السیوطی شامل ہیں۔ (نشر النور، ص ۴۹۲-۴۹۳ ملخصاً)

[۲۱]۔ شیخ عبدالرحمن جمال الکبیر (م- ۱۲۴۹ھ) مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، سید محمد تونسلی

و دیگر علماء سے تعلیم حاصل کی، شریف غالب امیر مکہ کے دور میں قاضی جدہ رہے، شیخ عبداللہ مرداد کی شادی آپ کی دختر سے ہوئی اور شیخ احمد ابوالخیر مرداد آپ کے نواسے ہیں۔ (نشر النور، ص ۲۴۰)

[۲۲]۔ نشر النور، ص ۳۲۰

[۲۳]۔ شیخ محمد بن جی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، شیخ طاہر سنبل، شیخ عبدالحفیظ عجمی (م۔ ۱۲۴۵ھ) و علامہ شیخ عبدالملک قلعی وغیرہ اکابر علماء کرام کے ہاں تعلیم پائی، مسجد الحرام میں مدرس رہے اور ۱۲۵۰ھ میں وفات پائی (نشر النور، ص ۲۱۶-۲۱۷)

[۲۴]۔ شیخ عبدالرحمن جمال رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۲۹۰ھ) حنفی عالم و فقیہ تھے، حرم مکی میں مدرس رہے، آپ کے اساتذہ میں مفتی احناف شیخ کتبی اور علامہ سید احمد دحلان رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۳۰۴ھ) بھی شامل ہیں، آپ سے اکابر علماء مکہ نے پڑھا، ان میں شیخ محمد علی مرداد، شیخ احمد بیت المال اور شیخ احمد ابوالخیر مرداد اہم ہیں۔ (نشر النور، ص ۲۳۰-۲۳۱)

[۲۵]۔ مفتی سید احمد میر غنی رحمۃ اللہ علیہ ۱۲۴۰ھ میں پیدا ہوئے، دیگر اساتذہ کے علاوہ شیخ محمد مراد بنگالی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث، تصوف اور فقہ پڑھی، ۱۲۹۸ھ میں شریف عبدالمطلب امیر مکہ نے مفتی سید احمد میر غنی کو مفتی احناف کا منصب پیش کیا تو آپ نے اس شرط کے ساتھ قبول کیا کہ میں سرکاری مجالس میں حاضر ہونے کی پابندی نہیں کروں گا۔ (نشر النور، ص ۱۱۸-۱۱۹)

[۲۶]۔ شیخ عبدالقادر خوقیر حنفی کے تلامذہ میں شیخ صالح کمال حنفی (م۔ ۱۳۳۲ھ)، شیخ عبدالقادر صابر (م۔ ۱۳۲۳ھ) اور شیخ عبداللہ زبیر حنفی (م۔ ۱۳۲۲ھ) شامل ہیں۔ (نشر النور، ص ۵۷۲)

انہی شیخ عبدالقادر خوقیر کے ہوتے شیخ ابوبکر (۱۲۸۴ھ-۱۳۲۹ھ) بن شیخ محمد عارف امام مسجد الحرام بن علامہ عبدالقادر خوقیر کتبی نے حجاز مقدس کے ہاشمی عہد میں مکہ مکرمہ میں کھلے عام وہابیت کی دعوت دینا شروع کی، اس سلسلے میں وہ ہندوستانی وہابیہ سے حصول مدد کے لئے ۱۳۱۳ھ میں ہندوستان آئے، مکہ مکرمہ میں شیخ ابوبکر خوقیر کی ان سرگرمیوں کی بنا پر شاہ حجاز حسین بن علی نے ۱۳۳۹ھ میں انہیں جیل میں ڈال دیا، جب حجاز پر آل سعود خاندان کی حکمرانی قائم ہوئی تو

۱۳۲۳ھ میں شاہ عبدالعزیز آل سعود نے انہیں رہا کیا۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: سیر و تراجم، عمر عبدالجبار، ص ۲۲-۲۳)

[۲۷]۔ شیخ احمد امین بیت المال (م-۱۳۲۳ھ) کے دیگر اساتذہ میں شیخ محمد سعید بشارۃ (م-۱۲۸۲ھ)، شیخ جمال مفتی (م-۱۲۸۴ھ) اور علامہ سید احمد دحلان شامل ہیں، شیخ احمد امین نے چند کتب بھی تصنیف کیں۔ (سیر و تراجم، ص ۶۴، نشر النور، ص ۱۰۳)

[۲۸]۔ سید ابراہیم میرغنی (۱۲۳۵ھ-۱۳۰۲ھ) نے قرآن مجید حفظ کیا، اپنے والد کے علاوہ اپنے چچا سید محمد عثمان میرغنی (م-۱۲۶۸ھ) سے بھی علوم اخذ کئے، سید ابراہیم میرغنی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور قبرستان المعلیٰ میں مختص خاندان میرغنی کے احاطہ میں دفن ہوئے۔ (نشر النور، ص ۶۰)

[۲۹]۔ مفتی سید عبداللہ بن محمد بن سید عبداللہ محبوب میرغنی حنفی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جن اکابر علماء کرام کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیا ان میں آپ کے چچا سید محمد یاسین میرغنی، ولی کامل شیخ عمر عبدالرسول (۱۱۸۵ھ-۱۲۴۷ھ)، مفتی شیخ عبدالحفیظ عجمی اہم ہیں، مفتی سید عبداللہ اپنے استاد شیخ عبدالحفیظ عجمی حنفی کی وفات پر ۱۲۴۵ھ میں ان کی جگہ ”مفتی مکہ“ ہوئے اور اپنی وفات ۱۲۷۳ھ تک اس پر تعینات رہے، آپ نے دو عالم و فاضل فرزند یادگار چھوڑے، علامہ سید ابراہیم میرغنی اور مفتی سید احمد میرغنی۔ (نشر النور، ص ۳۲۲-۳۲۳)

[۳۰]۔ ان ایام میں خلافت عثمانیہ کی طرف سے حسیب پاشا گورنر حجاز تھے، جو ۱۲۶۴ھ کو گورنر بنے اور ۱۲۶۶ھ میں معزول کئے گئے۔ (نشر النور، حاشیہ ص ۳۲۲)

[۳۱]۔ مفتی سید محمد حسین کتھی حنفی ۱۲۵۵ھ میں اپنے وطن سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، آپ علامہ سید احمد طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، مفتی سید محمد حسین کتھی ۱۲۰۲ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۸۱ھ میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی، آپ ایک سال تک ”مفتی مکہ“ رہے بعد ازاں استنبول سے خلیفہ عثمانی کے حکم پر مفتی سید عبداللہ میرغنی پھر سے اس منصب پر بحال کئے گئے اور اپنی

وفات تک اس پر موجود رہے، سید محمد کتبی کی متعدد تصنیفات ہیں جن میں ”حاشیہ علی شرح العینی علی الکنز“ وغیرہ کتب شامل ہیں۔ (اہل الحجاز بعقہم التاریخی، حسن عبدالحی قزازی کی (پ۔ ۱۳۳۸ھ) طبع اول ۱۳۱۵ھ/۱۹۹۳ء، مطبع موسسة المدینة للصحافة جده، ص ۳۱۸)

[۳۲]۔ علامہ سید محمد عثمان بن عبد اللہ بن سید محمد ابی بکر میر غنی ۱۲۰۸ھ میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور ۱۲۶۸ھ میں طائف میں وفات پا کر مکہ مکرمہ میں سپرد خاک ہوئے، آپ کے اساتذہ میں آپ کے چچا سید یاسین میر غنی وغیرہ اکابر مشائخ شامل ہیں، سید محمد عثمان مکہ مکرمہ میں تصوف و صوفیاء کے سلسلہ میر غنیہ کے شیخ طریقت تھے، جب ولی کامل علامہ سید احمد بن ادیس رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو انہوں نے سلسلہ شاذلیہ میں بھی سید محمد عثمان میر غنی کو اجازت عطا فرمائی، آپ کی متعدد تصانیف ہیں ان میں اوراد و ازکار پر ایک کتاب اور ”شرح منظومۃ البیوقونیہ فی مصطلح الحدیث“ وغیرہ شامل ہیں۔ (نثر النور، ص ۲۹۲)

[۳۳]۔ نثر النور، ص ۳۱۹-۳۲۱

[۳۴]۔ ایضاً، ص ۲۶۰-۲۶۱

[۳۵]۔ علامہ ابو حفص عمر بن عبدالکریم بن عبدالرسول رحمہم اللہ تعالیٰ، خاتم المحققین تھے، آپ کے مناقب پر آپ کے ایک شاگرد شیخ ابو بکر زرعد (م۔ ۱۲۶۲ھ) نے ایک کتاب لکھی، شیخ عمر ۱۱۸۵ھ میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور حرمین شریفین حاضر ہونے والے مصر و شام کے بکثرت علماء سے فیض پایا، آپ نو برس مدینہ منورہ مقیم رہے اور وہاں کے فضلاء سے استفادہ کیا، آپ حرم مکی میں مدرس اور کچھ عرصہ قاضی مکہ رہے، آپ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے، علامہ عمر عبدالرسول نے ۲۱ ربیع الاول ۱۲۴۷ھ کو وصال فرمایا اور طبعی عمر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت پائی، مسجد الحرام میں علامہ سید یاسین میر غنی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور المعلیٰ میں سادات باعلوی کے احاطہ میں قبر بنی، آپ کے شاگردوں میں حمزہ عاشور، شیخ العلماء شیخ عبداللہ سراج (پ۔ ۱۲۰۰ھ)، علامہ

سید محمد سنوسی مالکی مراکشی مکی (م-۱۲۷۶ھ)، مفتی سید عبداللہ میر غنی، مفتی شافعیہ مکہ محمد حبشی (م-۱۲۸۱ھ)، شیخ محمد خضر بصری مکی شافعی (م-۱۲۶۰ھ تقریباً)، شیخ صدیق کمال حنفی مکی (م-۱۲۸۲ھ)، شیخ جمال حنفی مکی (م-۱۲۸۳ھ) اور استنبول میں خلافت عثمانیہ کے شیخ الاسلام شیخ احمد عارف بیگ نیز محدث ہند ارتضیٰ علی عمری صوفی وغیرہ شامل ہیں۔ (نشر النور، ص ۳۷۸-۳۸۰)

[۳۶]- شیخ عبدالحفیظ عجمی حنفی مکہ مکرمہ کے ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو علم و فضل میں ممتاز تھا، آپ کے دادا مسند حجاز شیخ حسن عجمی رحمۃ اللہ علیہ (م-۱۱۱۳ھ) مکہ مکرمہ کے کثیر التصانیف علماء میں سے ہیں، جن میں متعدد کتب تصوف اور صوفیاء پر ہیں، شیخ عبدالحفیظ عجمی ۱۲۲۱ھ میں قاضی مکہ بنے پھر مفتی بنائے گئے، آپ کی چند تصانیف ہیں جن پر معاصر علماء مکہ مکرمہ نے تقارین لکھیں، آپ نے ۲ ربیع الاول ۱۲۳۶ھ یا ۱۲۳۵ھ میں وفات پائی، اس موقع پر مفتی سید عبداللہ میر غنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا! آج فقہ، ابوحنیفہ صغیر کے ساتھ دفن ہو گئی۔ (نشر النور، ص ۲۳۱-۲۳۲)

[۳۷]- شریف یحییٰ بن سرور بن مساعد ۱۲۲۸ھ سے ۱۲۳۲ھ تک امیر مکہ رہے۔ (نشر النور، حاشیہ ص ۲۹۰)

[۳۸]- نشر النور، ص ۲۸۹-۲۹۰

[۳۹]- ایضاً، ص ۲۵۶

[۴۰]- شیخ جمال (م-۱۲۸۳ھ) بن عبداللہ بن شیخ عمر حنفی، محدث، مفسر، فقیہ، عالم باعمل تھے، آپ اپنے دور کے بے نظیر فقیہ تھے، اپنے استاد شیخ عبداللہ سراج کی وفات کے بعد ان کی جگہ ”شیخ العلماء مکہ“ مقرر ہوئے، بعد ازاں ”مفتی احناف“ کا منصب بھی آپ کے سپرد ہوا، آپ نے یہ دونوں ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں، آپ کی وفات کے بعد علامہ سید احمد دحلان مکی مفتی شافعیہ (م-۱۳۰۴ھ) کو ”شیخ العلماء“ اور شیخ عبدالرحمن سراج (م-۱۳۱۴ھ) کو

مفتی احناف“ بنایا گیا، جس روز شیخ جمال نے وفات پائی تو شہر مکہ مکرمہ کے تمام بازار بند ہو گئے اور امیر مکہ شریف عبداللہ سمیت خلق کثیر نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل کی، آپ کی تصانیف کے نام یہ ہیں:

۔ فتاویٰ علیہا العمل والمعمول ببلد اللہ الامین

۔ الفتاویٰ الجمالیہ

۔ رسالہ فی فضائل لیلۃ النصف من شعبان

۔ مناقب السادة البدرین

۔ مناقب سیدنا عبدالرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہم

۔ مناقب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ (نشر النور، ص ۱۶۱-۱۶۲)

شیخ جمال حنفی رحمۃ اللہ علیہ، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شیخ عبدالرحمن سراج

حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ (المملفوظ، ج ۲، ص ۱۳۷)

[۴۱]۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ (م۔ ۱۳۰۸ھ) ہندوستان سے ہجرت

کر کے ۱۲۷۰ھ میں مکہ مکرمہ پہنچے جہاں علامہ سید احمد دحلان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی قدردانی سے

کام لیا اور آپ کو حرم مکی میں مدرس تعینات کیا، بعد ازاں مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے ۱۲۹۰ھ میں

وہاں پر مدرسہ صولتیہ قائم کیا اور اس میں درس دینے لگے، آپ سے علماء مکہ کی کثیر تعداد نے مختلف

علوم اسلامیہ حاصل کئے، مولانا کیرانوی کے مفصل حالات کے لئے ملاحظہ ہو:

۔ اعلام الحجاز فی القرن الرابع عشر للهجرة، محمد علی مغربی، مطبع دارالبلاد جدہ، جلد دوم،

ص ۲۸۶-۳۱۳

۔ ماہنامہ المنہل جدہ، شمارہ دسمبر ۱۹۸۸ء۔ جنوری ۱۹۸۹ء، ص ۱۵۲-۱۶۶، مضمون

بعنوان ”المدرسة الصولتية وجهاد قرن من الزمان“ از قلم مسعود سلیم رحمت اللہ۔

مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علمائے دیوبند کے نظریات کی تردید میں

لکھی گئی دو کتب مولانا عبدالسمیع میرٹھی (رام پور منہاراں۔ میرٹھ، یوپی) کی ”انوار ساطعہ“ کے دوسرے ایڈیشن اور مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ کی ”تقدیس الوکیل“ پر تقریفات لکھیں۔

[۴۲]۔ علامہ سید عبداللہ بن علامہ سید محمد عبداللہ بخاری المشہور بہ کوجک حنفی اپنے وطن

سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، بعد ازاں مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور وہاں پر علامہ محدث شیخ محمد

عابد سندھی (م۔ ۱۲۵۲ھ) صاحب ”طواع الانوار شرح الدر المختار“ (آٹھ جلدوں میں) کے حلقہ

درس میں شامل ہوئے، پھر واپس مکہ مکرمہ آکر مسجد الحرام میں درس دینا شروع کیا جہاں بہت سے

اہل علم نے آپ سے استفادہ کیا، سید عبداللہ کوجک نے ۱۲۹۷ھ کو وفات پائی، آپ کے بیٹے سید

حسن حرم کی میں احناف کے امام تھے۔ (نشر النور، ص ۳۱۶-۳۱۷)

[۴۳]۔ نشر النور، ص ۲۹۰

[۴۴]۔ شیخ حسن (م۔ ۱۳۱۰ھ) بن عبدالقادر طیب حنفی مکہ مکرمہ میں موجود احناف

کے اکابر علماء میں سے تھے، آپ کے اساتذہ میں شیخ العلماء شیخ جمال کی، سید محمد کتھی الکبیر اور عالم

جلیل شیخ رحمت اللہ کیرانوی اہم ہیں، شیخ حسن طیب کی تصانیف میں شرح علی منظومۃ بدء الامالی،

شرح علی الاجرومیہ، شرح علی الرسالۃ الجامعۃ وغیرہ کتب شامل ہیں۔ (نشر النور، ص ۱۶۶-۱۶۷)

[۴۵]۔ مولانا غلام دستگیر قصوری کی کتاب ”تقدیس الوکیل“ پر مولانا حضرت نور

افغانی (وفات ۱۳۲۱ھ بمقام مکہ مکرمہ) مدرس اول مدرسہ صولتیہ کی تصدیق موجود ہے۔

[۴۶]۔ نشر النور، ص ۱۳۲-۱۳۵

[۴۷]۔ اہل الحجاز بعقہم التاریخی، ص ۲۶۶

[۴۸]۔ سیر و تراجم بعض علمائنا فی القرن الرابع عشر للهجرة، عمر عبدالجبار، مکتبہ تہامہ

پوسٹ بکس ۵۲۵۵ جدہ، طبع سوم ۱۳۰۲ھ/۱۹۸۲ء، ص ۷۴-۷۵

[۴۹]۔ نشر النور، مقدمہ ص ۳۲

[۵۰]۔ ایضاً، ص ۳۱۷

[۵۱]- ماہنامہ المنہل جلد ۸، شمارہ دسمبر ۸۸ء، جنوری ۱۹۸۹ء، ص ۱۶۴

[۵۲]- شیخ عبدالرحمن سراج مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۳۹ھ-۱۳۱۳ھ) فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، آپ دو بار مفت احناف رہے، پہلی بار ۱۲۸۴ھ سے ۱۲۹۸ھ تک، تھوڑے ہی عرصہ بعد پھر یہ ذمہ داری سنبھالی اور ۱۳۱۰ھ تک اس کے فرائض بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیئے، آپ کی تصانیف یہ ہیں، ضوء السراج علی جواب المحتاج فی الفتاویٰ (چار جلدوں میں)، مجموعہ فی الفقہ تشتمل علی غرائب المسائل، شیخ عبدالرحمن سراج حنفی کے حالات کے لئے ملاحظہ ہوں:

- نشر النور، ص ۲۲۳-۲۲۴

- معجم المؤلفین، عمر رضا کحالی، ج ۵، ص ۱۴۹-۱۵۰

- ہدیۃ العارفین، اسماعیل پاشا بغدادی، ص ۵۵۸

- اعلام الحجاز، محمد علی مغربی، ج ۳، ص ۲۳۸-۳۷۲

”الدولۃ المکیہ“ پر شیخ عبدالرحمن سراج مکی کے بیٹے شیخ عبداللہ سراج مکی رحمۃ اللہ علیہ

(م-۱۳۶۸ھ) کی تقریظ موجود ہے۔

[۵۳]- نشر النور، ص ۲۲۴

[۵۴]- ایضاً، ص ۶۰، ۱۶۱

[۵۵]- شریف عون رفیق پاشا بن محمد بن عبدالمعین ۱۲۹۹ھ سے اپنی وفات ۱۳۲۳ھ

تک امیر مکر رہے۔ (نشر النور، حاشیہ ص ۲۰۷)

[۵۶]- مفتی احناف شیخ عبداللہ بن عباس بن جعفر بن عباس بن محمد بن صدیق حنفی

۱۲۷۰ھ میں پیدا ہوئے، ۱۳۱۱ھ میں مفتی احناف بنے اور اسی دوران ۱۳۲۵ھ میں دورہ یمن پر

گئے اور وہاں کے شہر صنعاء میں وفات پائی، شیخ عبداللہ نیز ان کے والد ماجد شیخ عباس حنفی کے

حالات نشر النور، ص ۳۰۴-۳۰۵، ۲۲۸-۲۲۹ پر دیئے گئے ہیں۔

۴/صفر ۱۳۲۴ھ کو حرم مکی کے کتب خانہ میں فاضل بریلوی اور مفتی احناف شیخ عبداللہ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: المملفوظ، حصہ دوم، ص ۱۳۷-۱۳۸

[۵۷]- نشر النور، ص ۳۰۴

[۵۸]- شیخ درویش بن حسن عجمی حنفی مکی ۱۲۷۶ھ میں پیدا ہوئے، قرآن مجید حفظ کیا

اور مسجد الحرام میں نماز تراویح پڑھائی، متعدد فضلاء مکہ سے علوم اخذ کئے، آپ کے دیگر اساتذہ میں شیخ عبدالقادر شمس (پ-۱۲۵۵ھ)، سید البکری شطاشافعی مکی (م-۱۳۱۰ھ) اور شیخ عبدالرحمن سراج شامل ہیں، شیخ درویش مسجد الحرام میں امام و خطیب اور مدرس رہے، آپ نے ۱۳۴۶ھ میں وفات پائی۔ (نشر النور، ص ۱۹۴)

[۵۹]- شیخ ابوالخیر حضرمی مکی مسجد الحرام میں مدرس اور شواہخ کے امام رہے۔ (نشر النور،

ص ۳۴۶)

[۶۰]- شیخ عبداللہ لبنی حنفی مکی مسجد الحرام میں مدرس تھے، آپ کے دیگر اساتذہ یہ ہیں،

علامہ سید بکری شطا، شیخ محمد خیاط شافعی، نیز آپ کے بھائی شیخ جعفر لبنی (م-۱۳۴۰ھ)، تکمیل تعلیم کے بعد شیخ عبداللہ لبنی حرم مکی میں مدرس رہے۔ (نشر النور، ص ۳۱۷)

[۶۱]- شیخ محمد منزل حنفی (م-۱۳۳۲ھ) حرم مکی میں فقہ کا درس دینے پر مامور تھے جسے

وفات تک جاری رکھا۔ (نشر النور، ص ۴۸۲)

[۶۲]- علی حافظ (۱۳۲۷-۱۴۰۸ھ) مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم مدینہ

منورہ کے اسکولوں میں حاصل کی، پھر مسجد نبوی شریف میں داخلہ لیا جو اس زمانے میں ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی تھی اور یہاں سے علماء فارغ التحصیل ہو کر نکلتے تھے، کئی سال بعد وہاں سے معلم کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا، آپ عملی زندگی میں مدینہ منورہ میونسپلٹی کے چیئرمین رہے، اپنے بھائی عثمان حافظ کے ساتھ مل کر ۱۳۵۶ھ میں مدینہ منورہ سے پہلا روزنامہ اخبار "المدینہ المنورہ" کے نام سے جاری کیا جو بعد ازاں جدہ منتقل کیا گیا اور وہاں سے اب تک شائع ہو رہا ہے، علی حافظ نے

نظم و نثر میں چند تصنیفات چھوڑیں، متعدد انعامات حاصل کئے، ۱۳۶۰ھ / ۱۹۴۱ء میں شاہ عبدالعزیز آل سعود نے حجاز کے مختلف شہروں کی نمائندگی کرنے والے وفد کو ریاض آنے کی دعوت دی، اس پر مدینہ منورہ سے بارہ رکنی نمائندہ وفد ریاض گیا، علی حافظ اس کے رکن تھے۔ (اعلام الحجاز، محمد علی مغربی، مطبع مؤسسہ المدنی عباسیہ قاہرہ، جلد سوم، طبع اول ۱۳۱۰ھ / ۱۹۹۰ء، ص ۴۰۰، نیز، فصول من تاریخ المدینہ المنورہ، علی حافظ، ملخص اردو ترجمہ بنام ”ابواب تاریخ المدینہ المنورہ“ مترجم آل حسن صدیقی، مطبع شرکت المدینہ المنورہ، للطباعة والنشر جدہ، طبع اول ۱۳۱۷ھ / ۱۹۹۶ء، آخری صفحہ)

[۶۳]۔ ابواب تاریخ المدینہ المنورہ، ص ۱۶۳

[۶۴]۔ حسین عرب ۱۳۳۸ھ / ۱۹۱۹ء میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مسجد الحرام سے تعلیم کا آغاز کیا، نظم و نثر میں متعدد تصانیف ہیں، ۱۹۶۱ء۔ ۱۹۶۳ء تک سعودی عرب کے وزیر حج و اوقاف رہے۔ (الحركة الادبية في المملكة العربية السعودية، ڈاکٹر بکری شیخ امین، دارالعلم للملایین بیروت لبنان، طبع چہارم، ص ۲۱۱)

[۶۵]۔ ماہنامہ المنھل جدہ، شمارہ دسمبر ۱۹۸۸ء، جنوری ۱۹۸۹ء، ص ۳۶۔۳۸

[۶۶]۔ سید علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۲۸ھ۔ ۱۳۹۱ھ) مولانا مصطفیٰ رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں نیز آپ کے جلیل القدر فرزند پروفیسر ڈاکٹر سید محمد بن علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ مولانا ضیاء الدین احمد قادری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ سید علوی مالکی کے حالات کے لئے ملاحظہ ہو: اعلام الحجاز، ج ۲، ص ۲۷۴۔۲۸۴

[۶۷]۔ اعلام الحجاز، ج ۳، ص ۲۶۔۲۰

[۶۸]۔ اعلام الحجاز، ج ۳، ص ۳۵۰

[۶۹]۔ شریف علی بن شریف عبداللہ ۱۳۲۳ھ سے ۱۳۲۶ھ تک امیر مکہ رہے۔

(نشر النور، حاشیہ ص ۳۰۵)

[۷۰]- غیوب خمسہ سے مراد وہ پانچ علوم ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے یعنی قیامت کب آئے گی، بارش کب برے گی، حمل میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، موت کہاں آئے گی۔
(سورۃ لقمان، پارہ ۲۱، آخری آیت)

[۷۱]- المفلوظ، حصہ دوم، ص ۱۲۸-۱۲۹

[۷۲]- یاد رہے کہ الدولۃ المکیہ کے مطبوعہ نسخہ پر اکٹھ علماء کرام کی تقاریظ دی گئی ہیں اور ابھی بہت سے عرب علماء کرام کی تقاریظ غیر مطبوعہ صورت میں دارالعلوم امجدیہ کراچی میں موجود ہیں (الدولۃ المکیہ، طبع اول کراچی، صفحہ آخری)

[۷۳]- الدولۃ المکیہ، (عربی اردو) لاہور ایڈیشن، ص ۲۰۶-۲۰۷

[۷۴]- حسام الحرمین، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، مکتبہ نبویہ لاہور، ص ۳۵-۳۹

[۷۵]- سیر و تراجم، ص ۲۳۸

[۷۶]- ماہنامہ المنہل، جدہ، شمارہ دسمبر ۱۹۸۸ء، جنوری ۱۹۸۹ء، ص ۱۶۵

[۷۷]- سیر و تراجم، ص ۲۳۸-۲۳۹

[۷۸]- اہل الحجاز بعقہم التاریخی، ص ۲۷۶

[۷۹]- نشر النور، حالات مصنف از قلم محمد سعید عامودی و احمد علی، ص ۳۱

[۸۰]- نشر النور، ص ۳۰۴-۳۰۵

[۸۱]- سیر و تراجم، ص ۱۹۳-۱۹۵

[۸۲]- شیخ عربی بن محمد صالح سجینی (۱۲۹۶ھ-۱۳۷۹ھ) کے حالات کے لئے

ملاحظہ ہوں: سیر و تراجم، ص ۱۹۰-۱۹۲، اہل الحجاز بعقہم التاریخی، ص ۲۷۶-۲۷۹، نیز رجال من

مکتبہ المکتزہ، زہیر محمد جمیل کتبی مکہ (پ-۱۳۷۵ھ)، مطبع دارالفنون للطباعة والنشر جدہ، طبع اول

۱۴۱۲ھ/۱۹۹۲ء، جلد سوم، ص ۵۵

[۸۳]- شیخ محمد حامد جداوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے

شاگرد اور مسجد الحرام میں مدرس تھے۔ (ماہنامہ المنہل، جدہ، شماره دسمبر ۸۸ء جنوری ۱۹۸۹ء، ص ۱۶۵) حسام الحرمین پر آپ کی تقریظ موجود ہے۔

[۸۴]۔ المملفوظ، حصہ دوم، ص ۱۳۷

[۸۵]۔ ماہنامہ منار الاسلام، ابو ظہبی، شماره اکتوبر ۱۹۸۷ء، ص ۱۰۶-۱۱۳، ڈاکٹر رفیق

مصری کا مضمون بعنوان ”کیف عالج الفقهاء مشكلته تدھور التقود“

[۸۶]۔ نشر النور، ص ۱۴۴

[۸۷]۔ المملفوظ، حصہ دوم، ص ۱۳۸

[۸۸]۔ الاجازات المتینہ بعلماء بکہ والمدینہ، (۱۳۲۴ھ)، مولانا احمد رضا خان

بریلوی، منظمہ الدعوة الاسلامیہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، ص ۴۹

[۸۹]۔ محمد علی مغربی ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۵ء کہ جدہ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۱۷ھ/۱۹۹۶ء میں

وفات پائی، اخبار ”صوت الحجاز“ (سن اجراء ۱۳۵۰ھ/۱۹۳۲ء) مکہ مکرمہ کے ایڈیٹر رہے، تاریخ،

ادب، ثقافت، سوانح وغیرہ موضوعات پر پندرہ کے قریب مطبوعہ تصانیف ہیں، ایک نعتیہ دیوان

شائع ہوا، آپ نے چودہویں صدی ہجری کے مشاہیر حجاز پر ۱۵۵۰ صفحات اور چار جلدوں پر مشتمل

اسی مشاہیر کے حالات پر کتاب ”اعلام الحجاز“ لکھی، جس میں فاضل بریلوی کے استاد شیخ

عبدالرحمن سراج مکی حنفی، الدولتہ المکیہ کے مقرر شیخ عبداللہ سراج حنفی (م-۱۳۶۸ھ)، فاضل

بریلوی کے خلیفہ شیخ احمد حضراوی (م-۱۳۲۷ھ) اور مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی کے خلیفہ شیخ

سید علوی بن عباس مالکی کے حالات درج ہیں۔

[۹۰]۔ اعلام الحجاز، ج ۴، ص ۲۳۸-۲۳۹ ملخصاً

[۹۱]۔ محمد سعید عامودی ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مدرسہ الفلاح

مکہ مکرمہ (سن تاسیس ۱۳۳۰ھ) میں تعلیم پائی، شاعر وادیب، مؤرخ و صحافی تھے، مجلس شوریٰ کے

رکن رہے، متعدد عالمی ادبی کانفرنسوں میں سعودی عرب کی نمائندگی کی، اخبار صوت الحجاز، ماہنامہ

الحج (سن اجراء ۱۳۶۶ھ / ۱۹۴۷ء) اور ماہنامہ رابطہ العالم الاسلامی (سن اجراء ۱۳۸۳ھ / ۱۹۶۳ء) مکہ مکرمہ کے ایڈیٹر رہے، ۲ شعبان ۱۴۱۱ھ کو وفات پائی، متعدد تصانیف ہیں جن میں اکثر مطبوع ہیں، تفصیلی تعارف کے لئے ملاحظہ ہوں: روزنامہ الندوہ مکہ مکرمہ، شمارہ ۲۷ نومبر ۱۹۹۷ء، ص ۷ پر فاروق باسلامہ کا مضمون ”شخصیات مکیہ۔ محمد سعید العامودی“، نیز الحركة الادبیة فی المملكة العربیة السعودیة، ص ۱۰۳-۱۰۴ اور اعلام الحجاز، ج ۴، ص ۲۳۲-۲۴۰

[۹۲]- احمد علی ۱۳۲۵ھ / ۱۹۰۷ء میں ہندوستان میں پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ تعلیم پائی، فارسی، انگریزی اور عربی زبانوں پر عبور حاصل کیا، سعودی عرب میں متعدد سرکاری عہدوں پر تعینات رہے، شریعت کالج مکہ مکرمہ کے صدر رہے، متعدد تصنیفات ہیں جن میں آل سعود خاندان پر بھی ایک تصنیف شامل ہے۔ (الحركة الادبیة، ص ۴۵۷)

[۹۳]- نشر النور، ص ۵

[۹۴]- عبدالقدوس انصاری ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۶ء میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، پانچ سال کی عمر میں والد نے وفات پائی، پھر اپنے خاندان کے ایک بزرگ مسجد نبوی کے مدرس شیخ محمد طیب انصاری نے پرورش کی نیز ابتدائی تعلیم دی، ۱۳۴۱ھ میں عبدالقدوس انصاری نے مولوی حسین احمد فیض آبادی (۱۲۹۶ھ-۱۳۷۷ھ) کے بڑے بھائی مولوی احمد فیض آبادی (۱۲۹۳ھ-۱۳۵۸ھ) کے قائم کردہ مدرسہ العلوم الشرعیہ (سن تاسیس ۱۳۴۰ھ) میں داخلہ لے لیا اور مولوی احمد فیض آبادی سے تعلیم مکمل کی، سرکاری ملازمت سے عملی زندگی کا آغاز کیا بعد ازاں صحافت سے وابستہ ہو گئے اور ۱۳۵۵ھ میں مدینہ منورہ سے ماہنامہ ”المُنھل“ جاری کیا جو اب جدہ سے شائع ہو رہا ہے، عبدالقدوس انصاری نے ۱۴۰۳ھ میں وفات پائی، نظم و نثر میں متعدد تصانیف ہیں، ان میں مدینہ منورہ کے آثار قدیمہ پر ایک کتاب، اپنے استاد مولوی احمد فیض آبادی، نیز شاہ عبدالعزیز ال سعود پر کتب وغیرہ شامل ہیں۔ (اعلام الحجاز، ج ۴، ص ۱۸۶-۲۴۰، نیز اعلام من ارض النبوة، انس یعقوب کتبی مدنی (پ ۱۳۹۳ھ)، جلد دوم، طبع اول ۱۴۱۵ھ ۱۹۹۴ء، مطبع

دارالبلاد للطباعة والنشر جدہ، ص ۴۲)

مولوی احمد فیض آبادی کے قائم کردہ اس مدرسہ کو ہاشمی حکومت نے بند کر دیا تھا، سعودی عہد میں دوبارہ کھولا گیا، اس مدرسہ پر ڈاکٹر محمد عید خطر اوی نے کتاب بنام ”مدرستہ العلوم الشرعیہ“ لکھی جو مطبوع ہے، اس میں جن مقامی لوگوں نے تعلیم پائی ان میں ایک نام محمد علی حرکان ہے، جو بعد ازاں رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل رہے اور اس دعران فاضل بریلوی کے اردو ترجمہ قرآن کنزالایمان و دیگر تصانیف کے چند عرب ممالک میں داخلہ پر پابندی کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

[۹۵]۔ نشر النور، ص ۱۳، ۱۴، ۲۹

[۹۶]۔ محمد حسین نصیف ۱۳۰۲ھ میں جدہ میں پیدا ہوئے، ۱۳۹۱ھ میں طائف میں وفات پائی اور جدہ میں دفن ہوئے، یہ جدہ کے اہم تاجر، سیاسی و علمی شخصیت تھے، شاہ عبدالعزیز آل سعود (م ۱۳۷۳ھ/ ۱۹۵۳ء) حجاز پر اپنی حکمرانی قائم کرنے کے بعد ۱۳۴۴ھ میں پہلی بار جدہ آئے تو انہی محمد حسین نصیف کے محل نما گھر میں بیٹھ کر اہل حجاز کے وفود سے اطاعت کی بیعت لی۔ (اعلام الحجاز، ج ۲، ص ۲۳۲)

[۹۷]۔ رشدی صالح الملکس نامور ادیب و صحافی تھے، سعودی عہد میں مکہ مکرمہ سے شائع ہونے والے پہلے اخبار ”ام القرئی“ (سن اجراء ۱۳۴۳ھ) کے ایڈیٹر رہے، متعدد تصنیفات ہیں، ان میں ”تاریخ الطباعة والصحافة فی الحجاز“ اہم ہے (الحركة الادیبیہ، ص ۱۰۳)

[۹۸]۔ عمر عبدالجبار ۱۳۲۰ھ میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مسجد الحرام میں تعلیم پائی، ہاشمی عہد میں عسکری کالج سے ڈگری حاصل کر کے فوج میں افسر بھرتی ہو کر عملی زندگی کا آغاز کیا، حجاز کے نامور ادیب، صحافی و ماہر تعلیم تھے، ۱۳۹۱ھ میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی، متعدد تصنیفات ہیں جن میں ”سیر و تراجم“ اہم ہے، جس میں چودہویں صدی ہجری کے ۱۱۸ سے زائد علمائے مکہ مکرمہ کے حالات درج ہیں، اس کتاب پر عبدالقدوس انصاری نے مقدمہ لکھا، عمر عبدالجبار سعودی

عہد میں مکہ مکرمہ میں مختلف عہدوں، حرم مکی پولیس کے افسر اعلیٰ اور پاسپورٹ آفس مکہ مکرمہ کے ڈائریکٹر وغیرہ تعینات رہے۔ (سیر و تراجم، ص ۱۰۸)

[۹۹]۔ عبداللہ عبدالجبار مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، وہیں تعلیم پائی پھر مزید حصول علم کے لئے مصر کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور سند حاصل کی، سعودی وزارت تعلیم میں متعدد اعلیٰ عہدوں پر متمکن رہے، پانچ سے زائد تصنیفات ہیں، ان میں ”قصۃ الادب فی الحجاز“ اہم ہے جو ڈاکٹر محمد عبدالمنعم خفاجی کے ساتھ مل کر تصنیف کی اور ۱۹۵۸ء میں قاہرہ سے شائع ہوئی۔ (الحركة الادبیہ، ص ۲۶۷، ۶۵)

[۱۰۰]۔ نشر النور، مقدمہ ص ۶

[۱۰۱]۔ محمد سرور صبان ۱۳۱۶ھ/۱۸۹۸ء میں جدہ میں پیدا ہوئے، جدہ و مکہ مکرمہ میں تعلیم پائی، ادیب و شاعر تھے، شاہ فیصل (م۔ ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء) کے دور میں وزیر مالیات اور پھر رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل رہے، چند تصانیف ہیں جن میں ”ادب الحجاز“ اہم ہے، جس کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۵۸ء میں مصر سے شائع ہوا، مکہ مکرمہ کے ذاتی کتب خانوں محمد سرور صبان کا ذخیرہ کتب سب سے اہم ہے، ۱۳۹۱ھ میں وفات پائی۔ (اعلام الحجاز، ج ۱، ص ۲۳۰-۲۵۲)

[۱۰۲]۔ نشر النور، مقدمہ ص ۸-۱۱ ملخصاً

[۱۰۳]۔ اعلام الحجاز، ج ۴، ص ۹۸، الدلیل المشیر، ص ۲۲۲

[۱۰۴]۔ ایضاً

[۱۰۵]۔ الدلیل المشیر، ابی بکر حبشی علوی (م ۱۳۷۷ھ)، مکتبہ المکیہ مکہ مکرمہ، طبع اول

۱۳۱۸ھ/۱۹۹۷ء، ص ۲۱۷، نیز اعلام الحجاز، ج ۴، ص ۸۹

[۱۰۶]۔ مولانا غلام دستگیر قصوری کی ”تقدیس الوکیل“ پر مولانا عبدالسبحان مدرس دوم

مدرسہ کی تصدیق موجود ہے۔

[۱۰۷]۔ مولانا حضرت نور افغانی تقریباً ۱۲۵۰ھ میں اپنے آبائی وطن میں پیدا ہوئے

اور ۱۲۹۱ھ میں مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے جہاں مولانا رحمت اللہ کیرانوی سے متعدد علوم حاصل کئے، بعد ازاں مدرسہ صولتیہ و مسجد الحرام میں مدرس رہے، ۱۳۲۱ھ میں وفات پائی۔ (نثر النور، ص ۵۰۳-۵۰۴)

[۱۰۸]۔ سیر و تراجم، ص ۲۰۲

[۱۰۹]۔ ماہنامہ المنہل جلد ۸، شماره دسمبر ۸۸ء، جنوری ۱۹۸۹ء، ص ۱۶۵

[۱۱۰]۔ محدث شام سید بدرالدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۶۷-۱۳۵۴ھ) سے خلق

کثیر فیض یاب ہوئی، مولانا ضیاء الدین قادری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے تلامذہ میں شامل ہیں، علماء دیوبند کے سرخیل مولوی رشید احمد گنگوہی و مولوی خلیل احمد انبیٹھوی نے محافل میلاد و قیام کو فعل ہنود مثل کنھیا کے جنم دن وغیرہ سے تشبیہ دی جس کی تفصیل ”براہین قاطعہ“ میں درج ہے، ۱۳۲۹ھ میں مدینہ منورہ میں مقیم ہندوستان کے دو علماء مولانا احمد علی قادری رامپوری و مولانا محمد کریم اللہ پنجابی نے قول گنگوہی کا عربی ترجمہ کر کے استفتاء کی صورت میں دمشق (شام) میں محدث سید بدرالدین حسنی کی خدمت میں بھیجا، آپ نے اس کے مفصل جواب کے لئے اپنے شاگرد خاص علامہ محمود آفندی عطار رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا، علامہ عطار نے قول گنگوہی کا مفصل رد لکھا جو ”استجاب القیام عند ذکر ولادۃ علیہ الصلوٰۃ والسلام“ کے عنوان سے دمشق کے ماہنامہ ”الحقائق“ شماره محرم ۱۳۳۰ھ میں شائع ہوا۔

فاضل بریلوی کی کتاب ”الدولۃ المکیہ“ پر محدث شام کے فرزند علامہ سید تاج الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریظ لکھی، محدث شام اور ان کے جلیل القدر فرزند کا ذکر خیر مولانا شہاب الدین رضوی ایڈیٹر ماہنامہ ”سنی آواز“ بریلی کی کتاب ”علماء عرب کے خطوط فاضل بریلوی کے نام“ ناشر رضا کیڈمی بمبئی، طبع اول ۱۹۹۶ء میں موجود ہے، عربی میں محدث شام کے مفصل حالات کے لئے حسب ذیل دو کتب ملاحظہ ہوں:

۔ شیخ محمد بدرالدین حسنی کما عرفۃ، تالیف شیخ محمد صالح فرفور دمشقی، دار الامام ابی حنیفہ

دمشق، طبع اول ۱۹۸۶ء

- محدث الشام العلامة السيد بدرالدين حسني، شيخ محمد عبداللہ الرشيد، مکتبه الامام الشافعي

الرياض، طبع اول ۱۴۱۹ھ / ۱۹۹۸ء

[۱۱۱]- فاضل بریلوی اور مولانا عبدالحق الی آبادی کے درمیان مکہ مکرمہ میں متعدد

ملاقاتیں ہوئیں، حسام الحرمین پر آپ کی تقریظ موجود ہے۔

[۱۱۲]- علامہ سید عبدالحق کتانی مراکشی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۰۳ھ-۱۳۸۲ھ) وہ پہلے

عرب عالم ہیں جنہیں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عطا فرمائی، آپ نے متعدد

موضوعات پر کتب تصنیف کیں، ان میں ”فہرس الفہارس“ کو عالمگیر پبیریائی ملی۔ (الدلیل المشیر،

ص ۱۲۸-۱۲۵)

[۱۱۳]- شیخ عمر حمدان محری تیونی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۹۱ھ-۱۳۶۸ھ) ”محدث الحرمین“

کے لقب سے مشہور ہیں، الدولۃ المکیہ، حسام الحرمین پر تقاریر لکھیں، شیخ عمر حمدان، فاضل بریلوی

کے خلیفہ ہیں، الدلیل المشیر، سیر و تراجم اور اعلام من ارض النبوة جلد اول میں آپ کے حالات

درج ہیں، نیز آپ کی علمی اسناد پر شیخ ابی الفیض فادانی نے کتاب ”اتحاف الاخوان باختصاص مطمع

الوجدان فی اسانید الشیخ عمر حمدان“ مرتب کی جس کا پہلا ایڈیشن ۱۳۷۱ھ میں قاہرہ سے اور دوسرا

۱۴۰۶ھ میں دمشق سے شائع ہوا۔

[۱۱۴]- سید ابوبکر سالم البار حضرتی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۰۱ھ-۱۳۸۴ھ) اور آپ کے

والد ماجد سید سالم بن عیدروس البار علوی حضرتی رحمۃ اللہ علیہ دونوں فاضل بریلوی کے خلفاء میں

سے ہیں، اول الذکر کے حالات الدلیل المشیر، سیر و تراجم اور اہل الحجاز بعقبہم تاریخی میں دئے

گئے ہیں۔

[۱۱۵]- الدلیل المشیر، ص ۲۲۳

[۱۱۶]- نشر النور، ص ۴۰۳

ماخذ

(۱)۔ قرآن حکیم

(۲)۔ الاجازات المتینة لعلمائکة والمدینة (۱۳۲۴ھ)، مولانا احمد رضا خاں

بریلوی، منظمہ الدعوة الاسلامیہ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور، سن اشاعت درج نہیں۔

(۳)۔ اعلام الحجاز، محمد علی مغربی، جلد اول، مطبع دارالعلم للطباعة والنشر جدہ، طبع دوم

۱۳۰۵ھ/۱۹۸۵ء

(۴)۔ اعلام الحجاز، جلد دوم، مطبع دارالبلاد جدہ، طبع دوم ۱۳۱۵ھ/۱۹۹۴ء

(۵)۔ اعلام الحجاز، جلد سوم، مطبع المدنی المؤسسة السعودیہ شارع عباسیہ قاہرہ، طبع

اول ۱۳۱۰ھ/۱۹۹۰ء

(۶)۔ اعلام الحجاز، جلد چہارم، مطبع دارالبلاد جدہ، طبع اول ۱۳۱۴ھ

(۷)۔ اعلام من ارض النبوة، سید انس یعقوب کتھی مدنی، جلد اول، مطبع دارالبلاد جدہ،

طبع اول ۱۳۱۴ھ/۱۹۹۳ء

(۸)۔ اعلام من ارض النبوة، جلد دوم، مطبع دارالبلاد جدہ، طبع اول ۱۳۱۵ھ/۱۹۹۴ء

(۹)۔ اهل الحجاز بعقبهم التاريخی، حسن عبدالحی قزاز، مطبع مؤسسة المدینة للصحافة

جدہ، طبع اول ۱۳۱۵ھ/۱۹۹۴ء

(۱۰)۔ الحركة الادبیة فی المملكة العربیة السعودیة، ڈاکٹر بکری شیخ امین، دارالعلم

للملایین بیروت لبنان، طبع چہارم ۱۹۸۵ء

(۱۱)۔ حسام الحرین، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، مکتبہ نبویہ لاہور (عربی، اردو)

(۱۲)۔ الدلیل المشری الی فلک اسانید الاتصال بالحیب البشری ﷺ، شیخ ابی بکر حبشی

علوی، مکتبہ المکیہ مکہ مکرمہ، طبع اول ۱۳۱۸ھ/۱۹۹۷ء

(۱۳)۔ الدولۃ المکیہ، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، کراچی ایڈیشن، طبع اول، (عربی، اردو)

(۱۴)۔ الدولۃ المکیہ، لاہور ایڈیشن، طبع اول، (عربی، اردو)

(۱۵)۔ رضال من مکتہ المکتزہ، زہیر محمد جمیل کتھی مکی، جلد سوم، مطبع دارالفنون للطباعة

جدہ، طبع اول ۱۴۱۲ھ/۱۹۹۲ء

(۱۶)۔ سیر و تراجم بعض علمائنا فی القرن الرابع عشر للهجرة، عمر عبد الجبار، مکتبہ تھامہ جدہ،

طبع سوم ۱۴۰۳ھ/۱۹۸۲ء

(۱۷)۔ المختصر من کتاب نشر النور والزهر، اختصار محمد سعید عامودی و احمد علی، عالم المعرفہ

جدہ، طبع دوم ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء

(۱۸)۔ ماہنامہ الحقائق، دمشق، شمارہ محرم ۱۴۳۰ھ

(۱۹)۔ ماہنامہ منار الاسلام، ابو ظہبی، شمارہ ربیع الاول ۱۴۰۸ھ/اکتوبر ۱۹۸۷ء

(۲۰)۔ ماہنامہ المنہل جدہ، شمارہ دسمبر ۸۸ء جنوری ۱۹۸۹ء

(۲۱)۔ روزنامہ الندوة مکہ مکرمہ، شمارہ ۲۷ نومبر ۱۹۹۷ء

(۲۲)۔ ابواب تاریخ المدینۃ المنورۃ (فصول من تاریخ المدینۃ المنورۃ)، علی حافظ،

مترجم آل حسن صدیقی، مطبع شرکت المدینۃ المنورہ للطباعة والنشر جدہ، طبع اول ۱۴۱۷ھ/۱۹۹۶ء

(۲۳)۔ انوار ساطعہ در بیان مولود و فاتحہ، مولانا عبد السمیع رامپوری، مطبع مجتہائی دہلی،

طبع ۱۴۳۶ھ

(۲۴)۔ براہین و اطعہ، مولوی رشید احمد گنگوہی و مولوی خلیل احمد انیسٹوی،

دارالاشاعت اردو بازار کراچی، طبع ۱۹۸۷ء

(۲۵)۔ تقدیس الوکیل عن توہین الرشید و الخلیل، مولانا غلام دستگیر قصوری، نوری بک

ڈپولاہور

(۲۶)۔ علماء عرب کے خطوط فاضل بریلوی کے نام، مولانا شہاب الدین رضوی، رضا

اکیڈمی بمبئی، طبع اول

۱۹۹۶ء

(۲۷)۔ المفلوظ (۱۳۳۸ھ) مولانا احمد رضا خاں بریلوی، مرتب مولانا مصطفیٰ رضا

پبلشنگ کمپنی کراچی

خاں بریلوی، مدینہ

<http://t.me/Tehqiqat>

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تیسرا حصہ

فاضل بریلوی اور مفتی مالکیہ شیخ حسین مکی الازہری کا خاندان

تیرھویں صدی ہجری کے مکہ مکرمہ میں ”شیخ حسین مالکی“ نام کے دو جلیل القدر علماء موجود تھے، جو مسجد الحرام کے امام، خطیب، مدرس اور مفتی مالکیہ کے یکساں مناصب پر فائز رہے، ان میں ایک گورنر مکہ، شریف غالب کے دور میں مفتی مالکیہ رہے اور انہوں نے تقریباً ۱۲۲۸ھ یا اس کے بعد وفات پائی [۱]، جبکہ دوسرے شیخ حسین مالکی رحمۃ اللہ علیہ گورنر مکہ، شریف محمد بن عون کے دور میں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آئے، ذیل کی سطور میں انہی ثانی الذکر شیخ حسین مالکی اور ان کی اولاد میں سے چند اکابر علماء کرام کے حالات پیش کئے جا رہے ہیں۔

مفتی مالکیہ شیخ حسین مکی الازہری رحمۃ اللہ علیہ

شیخ حسین بن ابراہیم بن حسین بن محمد بن عامر مالکی، مراکش الاصل تھے [۲] لیکن آپ مصر میں پیدا ہوئے [۳]، آپ کا سلسلہ نسب طرابلس کے نواح میں آباد ایک ایسے خاندان سے جا ملتا ہے جو صدیوں وہاں آباد رہا، شیخ حسین مالکی ایک ماہر فقیہ، عقلی و نقلی علوم کے سمندر اور شیخ ایشیوخ تھے، آپ ۱۲۲۲ھ میں پیدا ہوئے اور قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد جامعہ الازہر میں تعلیم مکمل کی [۴]، شیخ احمد حضراوی [۵] لکھتے ہیں کہ شیخ حسین مالکی ۱۲۴۰ھ کے بعد گورنر مکہ شریف محمد بن عون [۶] کے توسط سے مکہ مکرمہ آئے اور مسجد الحرام میں مالکیہ کے امام و خطیب تعینات ہوئے، آپ اخلاق عظیمہ کے مالک اور علم و فضل، زہد و تقویٰ میں مشہور تھے، ۱۲۶۲ھ میں آپ کو ”مفتی مالکیہ“

کے اہم منصب پر تعینات کیا گیا [۷]، مسند افتاء کی ذمہ داریاں انجام دیتے ہوئے آپ نے کسی مصلحت کو پاس نہیں بھٹکنے دیا اور فتویٰ جاری کرتے ہوئے کسی فرد کے اثر و رسوخ کو خاطر میں نہیں لائے اور ہر فتویٰ میں پوری آزادی سے شرعی حکم بیان کیا، اسی باعث آپ نے عدل و انصاف میں شہرت پائی۔ [۸]

شیخ حسین مالکی الازہری رحمۃ اللہ علیہ فن کتابت سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے، آپ نے اکابرین کی لاتعداد کتب انتہائی خوبصورت خطاطی میں نقل کیں، حرم مکی لائبریری میں صحیح بخاری کا ایک مکمل نسخہ زیر نمبر ۱۰۵/ حدیث موجود ہے جو آپ نے ایک ہی قلم سے نقل کیا، تیس جلدوں پر مشتمل اس نسخہ کے آخری صفحہ پر شیخ حسین مالکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس کی کتابت بروز جمعۃ المبارک ۷/ جمادی الاول ۱۲۸۴ھ کو کعبہ شرفہ کے سائے میں مکمل کی [۹]، اسی لائبریری میں شیخ نجم الدین غیظی (م ۹۸۱ھ) کی تصنیف ”الابتحاج فی الکلام علی الاسراء والمعراج“ زیر نمبر ۴۳/ تاریخ موجود ہے جسے شیخ حسین مالکی نے ۱۲۶۸ھ میں نقل کیا [۱۰]۔

حرم مکی میں شیخ حسین مالکی سے جن طلبان علم نے تعلیم پائی ان میں آپ کے فرزند ان کے علاوہ چند مشہور علماء کرام کے نام یہ ہیں:

☆ امام حرم شیخ عبدالقادر مشاط مالکی [۱۱]

☆ مدرس حرم شیخ خلیفہ بن حمد نبھانی [۱۲]

☆ مدرس حرمین شریفین شیخ محمد بن سلیمان حسب اللہ شافعی [۱۳]

☆ مفتی مالکیہ و خطیب حرم شیخ ابوبکر بن جعی بسیونی [۱۴]

شیخ حسین مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد الحرام کی امامت و خطابت، مدرس اور مفتی جیسی اہم ذمہ داریاں انجام دینے کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف جیسے اہم کام پر بھی توجہ دی اور متعدد تصنیفات یادگار چھوڑیں جن کے نام یہ ہیں:

۔ رسالہ فی قرآۃ الامام حفص، اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ حرم مکی لائبریری میں زیر نمبر

۱۳۳/ لغت عربیہ موجود ہے جسے احمد محمد سرور جعلی نے ۱۲۸۳ھ میں نقل کیا۔ [۱۵]
 - رسالۃ فی مصطلح الحدیث، زیر نمبر ۴۶/ حدیث، کاتب شیخ عبداللہ بن شیخ حسین مالکی۔
 دوسرا نسخہ بخط شیخ محمد علی بن شیخ حسین مالکی، سن کتابت ۱۳۰۳ھ، زیر نمبر ۱۰۲/ حدیث۔ [۱۶]
 - توضیح المناسک علی مذہب الامام مالک، سن کتابت ۱۲۶۸ھ، زیر نمبر ۵/ فقہ مالکی۔ [۱۷]

- تقییدات علی کتاب توضیح المناسک، سن کتابت ۱۲۶۸ھ، زیر نمبر ۵۲/ فقہ مالکی۔ [۱۸]
 - شرح منک الخطاب المسمی ہدایۃ السالک، بخط مصنف، سن کتابت ۱۲۶۵ھ، زیر نمبر ۵۲/ فقہ مالکی۔ [۱۹]

- قرۃ العین فی فتاویٰ الحسین، زیر نمبر ۴۸/ فتاویٰ۔ [۲۰]
 - شفاء السقم وجلاء الظلم علی متن الحکم (العطائیہ)، زیر نمبر ۸۲/ تصوف۔ [۲۱]
 - شرح بانس سعاد

- حاشیہ علی العلامة الدردیر [۲۲]۔ غالباً یہ حاشیہ شیخ احمد بن محمد الدردیر (م ۱۲۰۱ھ) کی کتاب ”شرح اقرب المسالک لمذہب الامام مالک“ پر لکھا گیا۔
 مفتی شیخ حسین مالکی نے اتوار کی رات ۱۰ ربیع الثانی ۱۲۹۲ھ کو وفات پائی اور قبرستان المعلیٰ مکہ مکرمہ میں سپرد خاک ہوئے، آپ نے پانچ عالم و فاضل فرزند یادگار چھوڑے، شیخ محمد، شیخ عبداللہ، شیخ امیر، شیخ عابد اور شیخ علی رحمہم اللہ تعالیٰ جمعاً۔ [۲۳]

مولانا احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۷۲ھ/ ۱۸۵۶ء۔ ۱۳۴۰ھ/ ۱۹۲۱ء) اور شیخ حسین مالکی الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ملاقات نہیں، اس لئے کہ شیخ حسین مالکی، فاضل بریلوی کے پہلے سفر حج ۱۲۹۶ھ/ ۱۸۷۸ء سے چار سال قبل وصال فرما چکے تھے۔

مفتی مالکیہ شیخ محمد بن حسین مالکی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ حسین بن ابراہیم مالکی رحمۃ اللہ علیہ ۱۲۴۰ھ کے بعد یا ۱۲۵۵ھ میں مصر سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچے تو شیخ محمد کی عمر تقریباً تین سال تھی، آپ نے مکہ مکرمہ میں قرآن مجید حفظ کیا اور اپنے والد ماجد شیخ حسین مالکی کے علاوہ علامہ سید احمد زینی دحلان [۲۴] وغیرہ حرم مکی کے اکابر علماء کرام سے دیگر علوم اخذ کئے، شیخ حسین مالکی نے وفات پائی تو مفتی مالکیہ کا منصب آپ کے فرزند شیخ محمد کو سونپا گیا، شیخ محمد بن حسین مالکی رحمۃ اللہ علیہ بلند پایہ عالم دین، ادیب نیز اخلاق حسنہ کے مالک تھے، محرم ۱۳۰۹ھ میں مکہ مکرمہ میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی اور شیخ محمد نے اسی باعث وفات پائی [۲۵]، حرم مکی میں خانہ کعبہ کے دروازہ کے پاس آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور المعلىٰ قبرستان میں تدفین عمل میں آئی، آپ کی نسل باقی نہیں، آپ کے شاگردوں میں آپ کے بھائی شیخ علی مالکی اہم ہیں۔ [۲۶]

فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی بار حرمین شریفین حاضر ہوئے تو شیخ محمد بن حسین مالکی رحمۃ اللہ علیہ حرم مکی میں مالکیہ کے امام، خطیب اور مفتی جیسے تین اہم مناصب پر خدمات انجام دے رہے تھے، دونوں کے درمیان متعدد ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، لیکن مطبوعہ کتب میں ان ملاقاتوں کی تفصیلات موجود نہیں۔

شیخ عبداللہ بن حسین مالکی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ حسین بن ابراہیم مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند دوم شیخ عبداللہ مالکی رحمۃ اللہ علیہ بھی مکہ مکرمہ کے اہم علماء میں سے تھے، علمائے حجاز سے متعلق راقم کی پیش نظر کتب میں آپ کے حالات و خدمات کی تفصیلات کہیں درج نہیں لیکن علم و فضل سے آپ کے گہرے تعلق کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ حرم مکی لائبریری میں آپ کی نقل کردہ دو کتب آج بھی موجود ہیں، مذکورہ لائبریری میں شیخ حسین مالکی کی تصنیف ”رسالۃ فی مصطلح الحدیث“ شیخ عبداللہ مالکی کی کتابت شدہ زیر نمبر ۴۶/ حدیث اور شیخ ابی بکر بن محمد ملا حنفی (م ۱۲۷۰ھ) کی تصنیف ”مسلك الثقات فی نصوص

الصفات“ کا ایک نسخہ زیر نمبر ۷۳/۷ توحید موجود ہے جسے شیخ عبداللہ مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۲۶۹ھ میں نقل کیا۔ [۲۷]

مفتی مالکیہ شیخ محمد عابد بن حسین مالکی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا اصل نام عابد ہے [۲۸] لیکن محمد عابد کے نام سے معروف ہوئے [۲۹] بعض تحریروں میں آپ کا نام محمد بن عابد بن حسین مالکی درج ہے جو کہ درست نہیں [۳۰]، آپ بروز اتوار بوقت عصر ۱۷/۱۱/۱۲۷۵ھ کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کے والد ماجد مفتی مالکیہ علامہ شیخ حسین مالکی نے آپ کی ظاہری و روحانی تربیت کرنے میں تمام تر جہد سے کام لیا تا آنکہ آپ نے اس فرزند کی کامل تربیت فرما کر وفات پائی [۳۱]، شیخ محمد عابد مالکی کے دیگر اساتذہ میں مدرسہ صولعیہ مکہ مکرمہ (سن تاسیس ۱۲۹۰ھ) کے بانی مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ [۳۲]، علامہ سید احمد دحلان شافعی [۳۳] اور علامہ سید احمد زاوی [۳۴] اہم ہیں، خلافت عثمانیہ کے دور میں حرمین شریفین میں رائج نظام کی رو سے فتویٰ جاری کرنے والے علماء کے لئے ضروری تھا کہ وہ اہلیت کا امتحان دیں، جو حکومت کے مقرر کردہ اکابر علماء مکہ پر مشتمل بورڈ کی نگرانی میں لیا جاتا اور اس میں کامیابی حاصل کرنے والے علماء کو سند جاری کی جاتی جس پر بورڈ کے صدر کے علاوہ گورنر مکہ کے دستخط مثبت ہوتے، اور اس کے بعد ہی علماء مختلف موضوعات پر فتاویٰ جاری کرنے کے مجاز ہوتے، حسام الحرمین میں درج شیخ محمد عابد مالکی کے فتویٰ کے آخر میں دی گئی آپ کی مہر کے عکس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ محمد عابد رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۳۰۰ھ میں فتویٰ جاری کرنا شروع کیا [۳۵] جب کہ آپ کی عمر پچیس برس تھی، ۱۳۰۹ھ میں آپ کے بڑے بھائی شیخ محمد مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی تو ان کی جگہ شیخ محمد عابد ”مفتی مالکیہ“ کے منصب پر تعینات کئے گئے [۳۶]، آپ نے اس اہم منصب کی ذمہ داریاں انجام دیتے ہوئے ہمیشہ کلمہ حق بلند کیا اور کسی مصلحت، خوف اور اثر و رسوخ کو خاطر میں نہیں لائے [۳۷]، حرم مکی کے مدرس شیخ زکریا

بیلا (۱۳۲۹ھ-۱۳۱۳ھ) جنہوں نے آپ کو دیکھا ہوا تھا، اپنی کتاب ”الجواہر الحسان فی تراجم الفضلاء والاعیان“ میں لکھتے ہیں کہ شیخ عابد بن حسین مالکی پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، آپ حکمت و دانائی میں ممتاز اور حق بات کہنے میں جری تھے، ان اوصاف میں آپ مشہور علماء پر فضیلت رکھتے تھے [۳۸]۔

شریف عون رفیق پاشا بن محمد بن عبدالنہین جو ۱۲۹۹ھ سے اپنی وفات ۱۳۲۳ھ تک خلیفہ عثمانی کی طرف سے مکہ مکرمہ کا گورنر رہا [۳۹] ایک عجیب الاطوار اور منتقم مزاج حکمران تھا، اس نے اپنی عجیب و غریب عادات اور احکامات سے اہل مکہ کا سانس لینا دو بھر کر دیا، جس پر تنگ آ کر اعیان مکہ نے اس کے بارے میں شکایات پر مشتمل ایک درخواست تیار کی اور اس پر شہر کے دیگر زعماء کے علاوہ پانچ جلیل القدر علماء کرام جو اہم سرکاری مناصب، شیخ السادة، مفتی احناف، مفتی مالکیہ، مفتی شافعیہ اور مفتی حنابلہ پر تعینات تھے، انہوں نے تصدیقی دستخط ثبت کئے اور یہ درخواست خلیفہ عثمانی سلطان عبدالحمید کی طرف استنبول روانہ کر دی گئی، جس پر خلیفہ نے اہل مکہ کی شکایات کی تفصیلات جاننے کے لئے گورنر حجاز احمد راتب پاشا کی نگرانی میں ایک تحقیقی کمیٹی تشکیل دے دی، ادھر گورنر مکہ کو جب اس درخواست کا علم ہوا تو اس نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ سے کام لیتے ہوئے درخواست گزاروں اور اس کی تصدیق کرنے والے علماء کرام کے خلاف انتقامی کارروائی کرتے ہوئے ان میں سے متعدد کو جیل میں بند کر دیا اور ان پانچ علماء کو ان مناصب سے معزول کر کے مکہ بدر کر دیا، مفتی مالکیہ شیخ محمد عابد مالکی رحمۃ اللہ علیہ مکہ بدر کئے جانے والے ان پانچ علماء میں سے ایک تھے [۴۰]، گورنر مکہ شریف عون کے دور کے حالات اور اس واقعہ کی تفصیلات شیخ احمد سباعی مکہ (۱۳۲۳ھ-۱۴۰۴ھ) کی کتاب ”تاریخ مکہ“ اور محمد علی مغربی (۱۳۳۳ھ-۱۴۱۷ھ) کی ”اعلام الحجاز“ میں درج ہیں [۴۱]، ان علماء کرام کی معزولی اور مکہ مکرمہ سے اخراج کا واقعہ ۱۳۱۰ھ میں پیش آیا (۴۲)۔ الغرض ان علماء کرام نے نئی منزلوں کی تلاش میں اپنی راہ لی اور شیخ محمد مالکی رحمۃ اللہ علیہ یمن پہنچے جہاں کے علماء کرام نے آپ کے

استقبال اور احترام میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، آپ کچھ عرصہ نین میں مقیم رہے، پھر خلیجی ریاستوں میں تشریف لے گئے اور ایک کے بعد دوسری ریاست سے ہوتے ہوئے بالآخر دہئی پہنچے اور وہاں طویل عرصہ قیام فرمایا، حتیٰ کہ آپ کو وطن، اولاد اور اہل خاندان کی یاد ستانے لگی، جس پر آپ حجاج کے ایک قافلہ میں شامل ہو کر دہئی سے مکہ مکرمہ پہنچے جہاں آپ کے احباب نے خوشی کا اظہار کیا اور سجدہ شکر بجلائے، شیخ محمد عابد خفیہ طور پر گھر سے مسجد الحرام میں داخل ہوتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ گورنر مکہ شریف عون سے محفوظ رہے تا آنکہ گورنر نے وفات پائی اور شیخ محمد عابد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں پھر سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا اور عمر کا باقی حصہ طلباء کی خدمت اور تصنیف و تالیف میں گزارا۔ [۴۳]

نثر النور سے معلوم ہوتا ہے کہ نئے گورنر مکہ شریف علی بن شریف عبداللہ نے شیخ محمد عابد مالکی کو پھر سے ”مفتی مالکیہ“ کے منصب پر بحال کر دیا [۴۴]، قبل ازیں آپ مسجد الحرام میں مدرس رہ چکے تھے اور آپ کا گھر بھی ایک بڑے مدرسہ کی حیثیت رکھتا تھا، آپ سے بکثرت تشنگان علم نے پیاس بجھائی اور آپ کے متعدد شاگرد اپنے دور کے مشہور علماء میں شمار ہوئے [۴۵] جن میں سے چند نام یہ ہیں:

- ☆ شیخ محمد علی مالکی (آپ کے چھوٹے بھائی)
- ☆ شیخ جمال بن محمد امیر کلی (آپ کے بھتیجے)
- ☆ مدرس حرم علامہ سید عباس مالکی حسنی کلی [۴۶]
- ☆ علامہ قاری سید محمد مالکی حسنی کلی [۴۷]
- ☆ محدث الحرمین شیخ عمر حمدان محری [۴۸]
- ☆ قاضی مکہ شیخ محمد نور فطانی [۴۹]
- ☆ مدرس حرم شیخ علی بنجر [۵۰]
- ☆ شیخ محمد حبیب اللہ جلکنی شنتقیلی مہاجر مدنی [۵۱]

☆ شیخ محمد خضر جکینی شفقیطی مہاجر مدنی [۵۲]

حضرت شیخ محمد عابد مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے درس و تدریس، مسند افتاء کی ذمہ داریاں اور پھر طویل عرصہ جلاوطنی میں بسر کرنے کے باوجود مختلف موضوعات پر متعدد کتب تصنیف کیں، حرم مکی لائبریری میں آپ کی تین تصنیفات کے مخطوطات موجود ہیں، جن کے نام یہ ہیں:

☆ اعذب المقال فی دلیل الارسال، زیر نمبر ۴۹/فقہ مالکی [۵۳]

☆ رفع البدع والفساد عن حدیقة الذکر والاورد، زیر نمبر ۱۲۳/تصوف [۵۴]

☆ نہایۃ العدل فی ادلۃ السدل، زیر نمبر ۴/فقہ مالکی، بخط مصنف [۵۵]

آپ کی مزید تصنیفات کے نام یہ ہیں:

☆ رسالۃ فی التوسل

☆ ہدایۃ الناسک علی توضیح الناسک، اپنے والد گرامی کی کتاب پر شرح لکھی۔ [۵۶]

حضرت علامہ شیخ محمد عابد مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ احباب پورے عالم اسلام تک پھیلا ہوا تھا، مختلف ممالک کے اکابر علماء و مشائخ کے ساتھ آپ کے قریبی روابط تھے، عرب دنیا کے جلیل القدر عالم دین، مشہور پیر طریقت و ولی کامل حضرت علامہ امام سید احمد بن حسن عطاس حضرمی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۵۷ھ-۱۳۳۲ھ) آپ کے اہم احباب میں سے تھے، امام سید احمد عطاس اپنے وطن حریضہ علاقہ حضرموت جنوبی یمن سے حصول علم کے لئے مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں پانچ سال سے زائد مقیم رہ کر علامہ سید احمد دحلان شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر علماء مکہ کے علاوہ حرمین شریفین حاضر ہونے والے اہم علماء سے بھرپور استفادہ کیا اور درجہ کمال پر پہنچے، آپ علامہ سید دحلان کے محبوب شاگرد تھے، علامہ دحلان نے آپ کا عقد اپنی بیعتی سے کیا اور آپ کو مکہ مکرمہ میں اپنا خلیفہ و قائم مقام قرار دیا، امام سید احمد عطاس کے شاگردوں میں علامہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۰ھ) جیسے علماء و صوفیاء شامل ہیں، علامہ سید احمد عطاس ۱۳۲۵ھ میں مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو مفتی شافعیہ شیخ محمد سعید باصیل رحمۃ اللہ علیہ [۵۷] کے ہاں قیام فرمایا جہاں شیخ محمد عابد

مالکی اور دیگر علماء مکہ مکرمہ کے علاوہ حج و زیارت کے لئے عالم اسلام سے آئے ہوئے اکابر علماء کرام دن رات آپ کے ہاں آتے اور علمی مجالس منعقد ہوتیں [۵۸]۔

پنجاب کے مایہ ناز عالم مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ بھی شیخ محمد عابد رحمۃ اللہ علیہ کے احباب میں سے تھے، ان دونوں عظیم و جلیل علماء اہل سنت کے درمیان ملاقات و قربت کا پس منظر یہ ہے کہ ۱۳۰۲ھ میں دہلی کے تین علماء غیر مقلد اور علماء دیوبند و گنگوہہ و سہارنپور کی طرف سے اور مطبع ہاشمی میرٹھ کی سعی سے ایک فتویٰ چار ورق پر چھپ کر اکثر اطراف میں تشہیر کیا گیا جس کا عنوان تھا ”فتویٰ مولود و عرس وغیرہ“ اور خلاصہ مضمون اس کا یہ تھا کہ محفل مولد شریف علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام بدعت ضلالت، اور اسی طرح اموات کی فاتحہ و درود جو ہندوستان میں رائج ہے یہ سب حرام اور رسم بد اور معصیت ہے، کچھ دن گزرے تھے کہ دوسرا فتویٰ چوبیس صفحہ کا اسی مطبع ہاشمی میں چھپ کر مشہور ہوا جس کا عنوان تھا ”فتویٰ مولود شریف یعنی مولود معہ دیگر فتاویٰ“ جس میں زیادہ تر میلاد شریف کی مذمت کی گئی اور پہلا چار ورقہ فتویٰ بھی اس میں چھپا [۵۹]، چوبیس صفحات کے اس کتابچہ میں مولوی رشید احمد گنگوہی (م ۱۳۲۳ھ) کا ایک فتویٰ شامل تھا، جس میں انہوں نے محفل میلاد کو کنھیا کے جنم دن سے تشبیہ دیتے ہوئے فعل ہنود قرار دیا، یہ فتاویٰ جیسے ہی شائع ہوا ہندوستان بھر کے اہل سنت میں تشویش و افسوس کی لہر دوڑ گئی، حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ [۶۰] کے خلیفہ اور مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا عبدالسمیع رامپوری میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء) نے اس فتویٰ کے تعاقب میں فوراً قلم اٹھایا اور ”انوار ساطعہ در بیان مولود فاتحہ“ کے نام سے ایک ضخیم کتاب لکھی جو ۱۳۰۲ھ میں چھپ کر منظر عام پر آگئی، مولانا عبدالسمیع کی یہ کتاب قرآن مجید، احادیث مبارکہ، اقوال سلف صالحین اور علمائے عرب و عجم کی تحریروں سے مزین تھی، جن میں میلاد شریف کو سلف سے لے کر خلف تک ثابت کیا گیا تھا، لیکن مولوی رشید احمد گنگوہی اور ان کے ہمنوا بدستور اپنی رائے پر بصد رہے اور مولوی گنگوہی نے انوار ساطعہ کے جواب میں ”براہین قاطعہ“ لکھی جو ان کے مرید مولوی خلیل احمد انیسٹھوی

(م ۱۳۳۶ھ) کے نام سے ۱۳۰۴ھ/۱۸۸۷ء میں مطبع ہاشمی میرٹھ میں چھپی [۶۱]، گنگوہی کے مذکورہ بالافتویٰ کا مکمل متن اس کتاب میں شامل کیا گیا۔ [۶۲]

براہین قاطعہ طبع ہو کر جیسے ہی مولانا عبدالمسیح رامپوری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، آپ نے ”انوار ساطعہ“ کے دوسرے ایڈیشن کی تیاری شروع کر دی اور اس میں براہین قاطعہ کی بعض عبارات کا رد شامل کیا نیز اپنے مرشد گرامی حاجی امد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ اور استاد جلیل مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ سمیت ہندوستان بھر کے چوبیس اکابر علماء کرام کی تقریقات و تصدیقات شامل کر کے اسے ۱۳۰۷ھ میں مکمل کیا۔ [۶۳]

ادھر جب براہین قاطعہ مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعہ میں آئی تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، مولوی خلیل احمد انبیٹھوی ان دنوں ریاست بہاولپور میں مقیم تھے جہاں ۳۱ شوال ۱۳۰۶ھ کو مولانا قصوری اور انبیٹھوی کے درمیان ان مسائل پر مناظرہ ہوا جو انوار ساطعہ اور براہین قاطعہ میں زیر بحث آچکے تھے، اس مناظرہ میں مولوی خلیل احمد انبیٹھوی کو شکست فاش ہوئی، مولانا قصوری نے اس مناظرہ کی روداد کتابی صورت میں قلمبند کی، مگر علمائے دیوبند نے بعض اشتہارات میں اپنے ہم خیال عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ نظریات تو محض علمائے برصغیر کے ہاں ہی پائے جاتے ہیں، علمائے حرمین شریفین تو ان کے ہم نوا نہیں، اس پر حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۰۷ھ میں اس کتاب کو لے کر عازم حجاز ہوئے تاکہ وہاں کے مشاہیر علماء سے رائے لی جائے۔ [۶۴]

مولانا غلام دستگیر قصوری نے براہین قاطعہ میں توحید باری تعالیٰ اور مقارنات کے منافی چہ عبارات کا رد لکھ کر ان کا عربی ترجمہ کیا اور یہ سارا قضیہ جو گزشتہ پانچ سال سے ہندوستان بھر کی علمی حلقوں میں وجہ نزاع بنا ہوا تھا، اسے علمائے حرمین شریفین نیز مکہ مکرمہ میں مقیم علمائے ہند کی خدمت میں پیش کیا جسے پڑھ کر وہاں کے چھابہم عرب علماء کرام نیز مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ و حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سمیت وہاں پر مقیم ہندوستان کے تیرہ علماء کرام نے اپنی

آراء کا اظہار کیا اور مولانا قصوری کے دلائل کی تائید میں تقریظات و تصدیقات لکھیں، مولانا قصوری ایک ہفتہ کم ایک سال حرمین شریفین میں مقیم رہنے کے بعد وطن واپس آئے اور مناظرہ بہاولپور نیز اس پر لکھے گئے جواب الجواب اور علمائے حرمین شریفین کی تقاریر و تصدیقات کو مرتب کر کے ”تقدیس الوکیل عن توحین الرشید والخلیل“ کے نام سے کتابی صورت میں شائع کیا، مفتی مالکیہ شیخ محمد عابد مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب پر تقریظ لکھنے والے چھ اکابر علمائے حرمین شریفین میں سے ایک ہیں۔ [۶۵]

مولانا قصوری نے خطہ ہند پر موجود اہل سنت کو انتشار سے بچانے کے لئے ہر ممکن سعی سے کام لیا اور یہاں کے اہل سنت کے عقائد و معمولات کی علمائے حرمین شریفین سے تائید و تصدیق کرا لائے، لیکن علماء دیوبند بدستور ”براہین قاطعہ“ کے مندرجات پر مصر رہے تا آنکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو آگے بڑھایا، آپ نے براہین قاطعہ وغیرہ علماء دیوبند کی چند اور کتب کی متنازع عبارات اور قادیانیوں کے عقائد کو عربی میں ترجمہ کر کے ان کی تردید کی، اور جب آپ ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۵ء میں دوسرے حج سفر حج زیارت کے لئے حرمین شریفین حاضر ہوئے تو یہ یہ سارا قضیہ تمام تر تفصیلات کے ساتھ علمائے حرمین شریفین کی مجالس میں پیش کرتے ہوئے فیصلہ ان پر چھوڑا، جس پر وہاں کے تینتیس اکابر علماء کرام نے فاضل بریلوی اور یہاں کے علماء اہل سنت کے موقف کی تائید کرتے ہوئے اس پر تقاریر قلمبند کیں جو ”حسام الحرمین علی منخر الکفر والمین“ کے نام سے کتابی صورت میں عربی و اردو میں شائع ہو چکی ہیں، اور اس میں شیخ محمد عابد مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریظ سرفہرست ہے، [۶۶] اور جب اسی قیام مکہ کے دوران فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر کئے گئے اعتراضات کے جواب میں ”الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ“ کے تاریخی نام سے عربی میں کتاب لکھی تو اس پر عالم اسلام کے اکابر علماء کرام کی بڑی تعداد نے تقریظات لکھیں [۶۷]، مفتی مالکیہ و مدرس حرم شیخ محمد عابد مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب پر تقریظ لکھنے والے اولین علماء مکہ میں سے ہیں۔ [۶۸]

حضرت علامہ شیخ محمد عابد مالکی رحمۃ اللہ علیہ خلافت عثمانیہ کی طرف سے مکہ مکرمہ میں ”مفتی مالکیہ“ رہے، قبل ازیں آپ کے والد ماجد اور بڑے بھائی اس منصب پر فائز رہے، آپ خود حرم شریف میں مدرس رہے اور استاذ العلماء ہوئے، اعلاء کلمۃ الحق میں کسی لیت وعل سے کام نہیں لیا اور وقت کے حکمران کے جاہ و جلال سے خوف زدہ نہ ہوئے، سالہا سال جلا وطنی میں بسر کئے، جہاں اور جس حال میں رہے علم کے چراغ جلاتے رہے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ عبدالحق الہ آبادی مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر علماء ہند سے آپ کے قریبی روابط و مراسم رہے، متعدد کتب تصنیف کیں، فاضل بریلوی سے عمر میں محض تین سال چھوٹے تھے، لیکن اس تمام تر علم و فضل کے باوجود آپ نے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا اعتراف کیا اور بروز بدھ ۹/ صفر ۱۳۲۳ھ کو مکہ مکرمہ میں شیخ محمد عابد مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے سند اجازت و خلافت حاصل کی۔ [۶۹] حضرت شیخ محمد عابد مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اتوار کی رات ۲۲/ شوال ۱۳۲۰ھ یا ۱۳۲۱ھ کو وصال فرمایا۔ [۷۰]

مفتی مالکیہ و سیبویۃ العصر شیخ محمد علی بن حسین مالکی رحمۃ اللہ علیہ

الامام العلامة اتقی الجلیل الشیخ محمد علی بن حسین بن ابراہیم مالکی رمضان المبارک ۱۲۸۷ھ میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کا اصل نام علی ہے [۷۱] لیکن محمد علی کے نام سے شہرت پائی [۷۲]، آپ کی عمر پانچ برس تھی کہ آپ کے والد ماجد نے وفات پائی، آپ کے بڑے بھائی نے آپ کی پرورش کی اور آپ کی شادی کی، ۱۳۱۰ھ میں ان کی وفات ہوئی تو دوسرے بڑے بھائی العلامة والقذوة الفہامہ شیخ عابد بن حسین مالکی نے آپ کی سرپرستی فرمائی اور آپ کو مختلف علوم دیدیہ، عربی لغت اور فقہ مالکی کی تعلیم دے کر سند عطا کی [۷۳]، شیخ محمد علی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے خاتمة الفقہاء والمحدثین فی بلد اللہ الامین سید ابو بکر شطاشافی رحمۃ اللہ علیہ [۷۴] سے فقہ

شافعی، علامہ شیخ عبدالحق الہ آبادی مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ [۷۵] سے تفسیر، فقہ حنفی، اور علامہ محدث شیخ عبداللہ شیخ عبداللہ قدومی حنبلی نابلسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۲۷ھ-۱۳۳۱ھ) سے صحیح بخاری و فقہ حنبلی پڑھی۔ [۷۶]

شیخ محمد علی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر اساتذہ میں شیخ محمد عبدالباقی فرنگی محلی مہاجر مدنی [۷۷]، شیخ محمد ابی الخضر بن ابراہیم دمیاطی مدنی، علامہ سید محمد عبدالحی کتانی مراکش [۷۸]، علامہ سید حسین بن محمد بن حسین شافعی حبشی علوی مکی [۷۹]، علامہ سید محمد سالم سری تریبی حضرمی [۸۰]، مفتی شافعیہ محمد سعید با بصیل مکی، علامہ سید عمر بن محمد شطاک مکی [۸۱]، شیخ المعمر شیخ عبدالغنی بن صباح بیہاوی، علامہ سید علی بن ظاہر وتری مدنی [۸۲]، علامہ سید احمد بن اسماعیل برزنجی [۸۳] اور شیخ فالح ظاہری مدنی [۸۴] وغیرہ اپنے دور کے متعدد اکابر علماء شامل ہیں۔ [۸۵]

حضرت شیخ محمد علی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں حجاز مقدس تین حکومتوں کے دور سے گزرا، پہلے وہاں صدیوں سے ترکوں کی حکومت تھی جس کا خاتمہ ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۶ء میں ہوا اور وہاں پر آج کے شاہ اردن حسین بن طلال کے دادا شریف حسین بن علی ہاشمی نے اپنی بادشاہت قائم کر لی، ۱۳۳۳ھ/۱۹۲۳ء میں اس ہاشمی مملکت کا خاتمہ ہوا اور پھر سعودی دور کا آغاز ہوا، شیخ محمد علی مالکی ان تینوں ادوار میں مختلف اہم مناصب پر تعینات رہے، تقریباً ۱۳۱۵ھ میں آپ مفتی مالکیہ شیخ محمد عابد مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے معاون بنے اور ۱۳۴۰ھ میں ان کی وفات پر ”مفتی مالکیہ“ کی ذمہ داری مکمل طور پر آپ کے سپرد ہوئی، شیخ محمد علی مالکی نے فتویٰ جاری کرنے میں کبھی کسی سفارش یا جاہ منصب کی پروا نہیں کی [۸۶]، آپ عثمانی عہد میں ہی محکمہ عدل کے اہم اداروں ”مجلس التعمیر“ کے رکن اور ”مجلس التعزیرات الرسمیہ“ کے صدر رہے، اور ہاشمی عہد میں محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر، پھر پارلیمنٹ اور مجلس شوریٰ کے رکن بنائے گئے، ۱۳۴۰ھ میں آپ نے محکمہ تعلیم کے منصب سے استعفیٰ دے دیا جس پر آپ کی جگہ علامہ سید عباس مالکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ تعینات کئے گئے، شیخ محمد علی

مالکی سعودی عہد میں عدالتی نظام کی سپریم کونسل کے رکن رہے۔ [۸۷]

۱۳۲۳ھ میں آپ انڈونیشیا تشریف لے گئے اور وہاں اٹھارہ ماہ تک مقیم رہے، ۱۳۲۵ھ میں آپ دوسری بار وہاں گئے اور چھ ماہ قیام فرمایا اور اسی سفر کے دوران ملائیشیا تشریف لے گئے، ان دنوں ملائیشیا میں سلطان سکندر شاہ بن سلطان ادریس شاہ کی بادشاہت تھی، جو علماء و مشائخ کا قدردان تھا، سلطان نے آپ سے ملاقات کی اور لطف و احسان سے پیش آیا، انہی ایام میں جمعیتہ الثبانی المسلمین قاہرہ کی طرف سے شائع ہونے والے رسالہ میں ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں مسلمانوں کے لئے انگریزی ہیٹ پہننے نیز غیر مسلم کے ساتھ مسلمان عورت کے نکاح کو جائز قرار دیا گیا، یہ موضوع ملائیشیا میں تشویش کا باعث بنا ہوا تھا، چنانچہ سلطان کی درخواست پر شیخ محمد علی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں شرعی حکم بیان کرنے کے لئے ایک کتاب لکھی جس میں مسلمانوں کو انگریزی ہیٹ کے استعمال سے باز رہنے کی تلقین کی اور غیر مسلم سے نکاح کی حرمت قرآنی آیات نیز احادیث مقدسہ سے ثابت کی اور اس موضوع سے متعلق مہدین کے دعاوی و اعتراضات کا بھرپور رد کیا، انڈونیشیا و ملائیشیا میں قیام کے دوران آپ وہاں کے تمام اہم شہروں میں تشریف لے گئے اور ہر مقام پر آپ کا شاندار استقبال کیا گیا، وہاں پر موجود آپ کے تلامذہ نے آپ کے اعزاز میں محفل کا اہتمام کیا اور آپ کے مواعظ حسنہ سے خلق کثیر فیض یاب ہوئی۔ [۸۸]

دوسری صدی ہجری کے شیخ ابو بشر عمرو بن قنبر حارثی الملقب سیبویہ علم نحو کے موجد و شارح تسلیم کئے جاتے ہیں، شیخ محمد علی مالکی نے امام النحاة سیبویہ کی کتاب ”کتاب الامام الکبیر سیبویہ“ شیخ محمد عابد مالکی سے پڑھی اور علم بلاغت کے امام علامہ ابی یعقوب بن ابی بکر سکاکی خوارزمی حنفی (۵۵۵ھ-۶۲۶ھ) کی کتاب ”مفتاح العلوم“ علامہ شیخ محمد عبدالحق الہ آبادی سے پڑھی اور پھر شیخ محمد علی مالکی نے ان علوم میں اہم مقام حاصل کیا، آپ مسجد الحرام میں درس دیا کرتے تھے، عمر عبد الجبار نے آپ سے سماعت کئے گئے دروس میں سے ایک کا خلاصہ اپنی کتاب

میں درج کرتے ہوئے لکھا کہ شیخ محمد علی مالکی علم لغت میں شہرت خاصہ رکھتے تھے اور ”سیبویہ العہد الماضي“ و ”سیبویہ زمانہ وسکا کی اوانہ“ کے لقب سے مشہور تھے۔ [۸۹]

شیخ محمد علی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر ایک بڑے مدرسہ کی حیثیت رکھتا تھا، جہاں آپ خود اور دیگر مدرسین علم کی خدمت کے لئے ہمہ اوقات مستعد رہتے، فقیہہ مکہ شیخ ابراہیم داؤد فطانی شافعی ساہا سال یہاں پر طلباء کی علمی پیاس بجھاتے رہے [۹۰]، علاوہ ازیں ۱۳۵۳ھ میں شیخ محمد علی مالکی کے شاگرد شیخ محسن بن علی مساوی نے مکہ مکرمہ میں انڈونیشیا کے مہاجر طلباء کے لئے مدرسہ دارالعلوم الدینیہ کی بنیاد رکھی تو شیخ محمد علی مالکی رحمۃ اللہ علیہ عدالتوں کی اعلیٰ کمیٹی کی رکنیت سے مستعفی ہو کر اس مدرسہ ہو گئے، آپ اس کے صدر مدرس نیز مدرسہ کی مشاورتی کمیٹی کے رکن بنائے گئے اور آپ نے منتہی طلباء کو پڑھانا شروع کیا، آپ یہاں دن میں چار بار حلقہ درس قائم کرتے اور یہ سلسلہ آپ کی وفات تک جاری رہا، اس دوران ۲۲۴ طلباء نے آپ سے تعلیم مکمل کر کے سند پائی [۹۱]، شیخ محمد علی مالکی کے شاگرد اپنے دور کے اکابر علماء کرام میں شمار ہوئے اور انہوں نے مسجد الحرام، حجاز مقدس اور دیگر مقامات کے مدارس میں بھرپور تدریسی خدمات انجام دیں، نیز ان میں سے بڑی تعداد منصب قضاء پر فائز رہی اور انہوں نے علم کے فروغ نیز اشاعت اسلام کے لئے اہم خدمات انجام دیں، آپ کے مشہور شاگردوں کے اسماء گرامی یہ ہیں:

☆ مدرس دارالعلوم دینیہ و وزارت خزانہ کے افسر شیخ عبدالطیف مالکی (آپ کے

فرزند)

☆ شیخ محمود بن شیخ عبدالطیف مالکی (آپ کے پوتے)

☆ شیخ اسعد بن جمال بن محمد امیر مالکی (آپ کے بھائی کے پوتے)

☆ علامہ سید علوی بن عباس مالکی مکی حسنی [۹۲]

☆ علامہ سید محمد صالح فرفور حسنی دمشقی حنفی [۹۳]

☆ مفتی مالکیہ نلامہ سید محمد مکی کتانی حسنی مراکشی [۹۴]

- ☆ فقیہ مکہ شیخ ابراہیم بن داؤد فطانی مکی شافعی [۹۵]
- ☆ شیخ محمد ابراہیم ختنی مدنی حنفی [۹۶]
- ☆ شیخ محمد علی ترکی عنزی حنبلی [۹۷]
- ☆ قاضی مکہ شیخ حسین عبدالغنی [۹۸]
- ☆ محدث حرمین شریفین شیخ عمر حمدان محری مدنی
- ☆ شیخ محمد امین بن ابراہیم فودہ [۹۹]
- ☆ شیخ محسن بن علی مساوی [۱۰۰]
- ☆ قاضی مکہ و مشہور فقیہ شیخ احمد بن عبداللہ ناصرین مکی شافعی [۱۰۱]
- ☆ وزیر خزانہ علامہ سید محمد طاہر دباغ مکی [۱۰۲]
- ☆ علامہ شیخ سید ابو بکر حبشی علوی مکی شافعی (مصنف "الدلیل المشیر") [۱۰۳]
- ☆ مدرس حرم شیخ زکریا بن عبداللہ بیلا مکی [۱۰۴]
- ☆ مدرس حرم شیخ ابوالفیض محمد یاسین فادانی مکی شافعی [۱۰۵]
- ☆ شیخ حسن بن محمد مشاط مکی (رکن مجلس شوریٰ) [۱۰۶]
- ☆ شیخ الاسلام شیخ محمود زہدی بن عبدالرحمن [۱۰۷]
- ☆ مفتی قطننا علامہ سید ابراہیم غلامی دمشقی گیلانی نقشبندی مجددی [۱۰۸]
- ☆ مفتی شافعیہ علامہ سید محمد بدرالدین بن علامہ سید ابراہیم غلامی [۱۰۹]
- ☆ مدرس حرم مکی شیخ احمد بن یوسف قستی [۱۱۰]
- ☆ قاضی شیخ احمد ہرسانی
- ☆ قاضی مکہ شیخ یحییٰ امان
- ☆ مدرس حرم مکی علامہ سید محمد امین کتبی مکی حنفی (م ۱۴۰۲ھ)
- ☆ شیخ زبیر احمد (صدر مدرس مدرسہ ادرسیہ سلطانیہ بمقام فریق)

- ☆ شیخ عبداللہ بن زید مراکشی (مشہور فقیہ)
- ☆ شیخ مختار بالی (رکن مجلس منظمہ دارالعلوم دینیہ)
- ☆ شیخ صالح بن ادریس کلنتنی (مدرس دارالعلوم دینیہ)
- ☆ شیخ یعقوب بن عبدالقادر مندیلی (مدرس دارالعلوم دینیہ)
- ☆ شیخ زین بن عبداللہ باویان (صدر مدرس دارالعلوم دینیہ)
- ☆ شیخ عبدالعزیز بن احمد قدحی (مدرس دارالعلوم دینیہ)
- ☆ شیخ محمد نوح اشعری (مدرس مدرسہ خیریہ بمقام فلفلان)
- ☆ شیخ عبدالقادر بن طالب (مدرس دارالعلوم شرعیہ مدینہ منورہ)
- ☆ شیخ عصمت اللہ فرغانی (مدرس مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ) [۱۱۱]
- امام جلیل شیخ محمد علی مالکی رحمۃ اللہ نے کتب احادیث، علوم حدیث، تفسیر، اصول تفسیر و قرأت، توحید و عقائد، فقہ مذاہب اربعہ، فرائض و حساب، فلک و میقات، اصول فقہ و قواعد فقیہہ، بلاغت، معانی، بدیع، نحو، صرف، لغت، اصول لغت، منطق، تصوف، مواعظ، سیر و مغازی و شمائل، تاریخ، مناقب و طبقات وغیرہ موضوعات پر اہم کتب اساتذہ سے پڑھیں اور پھر عمر بھر درس و تدریس سے وابستہ رہے، اس بنا پر آپ وسیع الاطلاع مصنفین میں سے ہیں، آپ جب کسی کتاب کی شرح لکھنے کا ارادہ کرتے تو پہلے اس کتاب کا صحیح ترین نسخہ تلاش کرتے اور پھر اسے بنیاد بنا کر کام شروع کرتے، اس لئے آپ کے حواشی و تحقیقات نیز تقریرات خصوصی اہمیت کی حامل اور وافر معلومات کی آئینہ دار ہیں۔ [۱۱۲]

آپ تصوف سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے، آپ کے اساتذہ میں سے متعدد اپنے دور کے کاملین میں سے تھے، شیخ محمد علی مالکی نے تصوف کی اہم کتب میں سے سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ”غنیۃ الطالبین“ اور امام شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ”عوارف المعارف“ نیز شیخ الاسلام ہروی کی ”منازل السائرین“ اور شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ

علیہ کی ”فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم“ وغیرہ اپنے بھائی شیخ محمد عابد مالکی رحمۃ اللہ علیہ سے اور امام الکبیر شیخ ابوالقاسم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ”قوت القلوب“ اور امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ”روض الریاحین فی حکایت الصالحین“، نیز امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصیدہ ہمزیہ و قصیدہ بردہ اور علامہ ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ کا دیوان نیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احياء العلوم الدین، منہاج العابدین و مکاشفۃ القلوب وغیرہ کتب علامہ سید ابوبکر شطراشی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھیں، علاوہ ازیں علامہ شاہ عبدالحق الہ آبادی مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ سے علامہ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی ”حزب البحر“ وغیرہ اور علامہ شیخ عبدالکریم جبلی رحمۃ اللہ علیہ کی ”الانسان الکامل“ وغیرہ، نیز علامہ شیخ عبدالوہاب شعرانی مصری رحمۃ اللہ علیہ کی ”الانوار القدسیہ“ و دیگر کتب پڑھ کر سند روایت حاصل کی [۱۱۳] اور جب تصنیف و تالیف کے لئے قلم اٹھایا تو تصوف کی مشہور کتاب ”التعرف“ کی شرح لکھی۔ [۱۱۴]

شیخ محمد علی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد و معمولات اہل سنت کی توضیح و تشریح اور دفاع میں متعدد کتب لکھیں، محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ذکر ولادت پر قیام تعظیسی پر اعتراضات کے جوابات اور مسئلہ کی وضاحت پر آپ نے کتاب ”الہدی التام فی موارد المولد النبوی وما اعتد فیہ من القیام“ لکھی، غالباً یہ کتاب مولوی رشید احمد گنگوہی و مولوی خلیل احمد نیٹھوی کی تحریروں کے پس منظر میں لکھی گئی، نیز ایمان والدین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ”سعادة الدارین بنجاة الابوین“ نامی کتاب لکھی اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے فضائل، زیارت روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز اور آثار سے حصول فیض و برکت پر ایک کتاب تالیف کی، علاوہ ازیں اوراد و وظائف، فتنہ قادیانیت، تقلید آئمہ، حدیث لولاک کے موضوع پر آپ کی مؤلفات موجود ہیں۔

آپ مفتی مالکیہ کے علاوہ مختلف مناصب پر تعینات رہے اور درس و تدریس کے ساتھ بھی عمر بھر وابستگی قائم رکھی، لیکن ان گونا گوں مصروفیات کے باوجود آپ نے مختلف موضوعات پر

ساتھ سے زائد کتب تصنیف کیں [۱۱۵]، ان میں سے اب تک صرف چند کتب شائع ہوئیں اور متعدد کے مخطوطات آپ کے فرزند شیخ عبداللطیف مالکی کے ذخیرہ کتب [۱۱۶] نیز حرم مکی لائبریری میں محفوظ ہیں، اس لائبریری میں سینکڑوں مخطوطات موجود ہیں اور کسی ایک مصنف کی کتب کے اعتبار سے شیخ محمد علی مالکی کی تصنیفات تعداد میں سب سے زیادہ ہیں اور ان میں سے متعدد آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہیں، حرم مکی لائبریری کے شعبہ مخطوطات میں آپ کی ۳۳ تصنیفات موجود ہیں، جن کے نام اور لائبریری نمبر نیز ان کے بارے میں دیگر معلومات حسب ذیل ہیں:

☆ رسالۃ فی حکم روایۃ السنۃ بالمعنی، سن کتابت ۱۳۶۲ھ، ۱۱۶/حدیث [۱۱۷]

☆ تکملۃ العوائد تتمیم الفوائد، عقود الفرائد پر حاشیہ، ۷۲/حدیث [۱۱۸]

☆ الجواهر السنیۃ فی تبیین حکمۃ الدین العلیہ، سن کتابت ۱۳۶۶ھ، ۱۳۷/توحید [۱۱۹]

☆ کشف اللبس بیان حکمۃ بناء الاسلام علی خمس، سن کتابت ۱۳۵۳ھ، بخط مصنف،

۷۴/توحید [۱۲۰]

☆ اظہار الحق لمبین..... علی تحریم مس و حمل القرآن لغير المعظمین، سن کتابت

۱۳۵۱ھ، ۶۱/فقہ مالکی [۱۲۱]

☆ انوار الشروق فی احکام الصدوق، سن کتابت ۱۳۲۷ھ، کاتب عبدالرحیم بن محمد

صالح بن سلیمان میمن، ریڈیو کے بارے میں شرعی حکم، اس پر شیخ عبداللہ نابلسی اور علامہ سید محمد

عبدالحی کتانی کی تقریظات موجود ہیں، ۲/فقہ مالکی [۱۲۲] مطبوعہ ۱۳۲۹ھ [۱۲۳]

☆ ایضاح المناسک علی مذہب الامام مالک، ۵۱/فقہ مالکی [۱۲۴]

☆ بلوغ المأمول من غایۃ الوصول شرح لب الاصول، علامہ ابن نجیم حنفی کی لب

الاصول پر شیخ زکریا انصاری کی شرح پر حاشیہ، ۱۳۴/تصوف [۱۲۵]

☆ تنبیہ الرکی وایقاظ الغسی، سن کتابت ۱۳۵۵ھ، بخط مصنف، نابالغ کی طرف سے

دی گئی طلاق کے بارے میں، ۵۷/فتاویٰ [۱۲۶]

☆ الحجج المرضية في النسخة ورد بعض شبه الخشية، سن کتابت ۱۳۲۲ھ، بخط مصنف، ۲۱/فقہ

مالکی [۱۲۷]

☆ شرح قوانین ابن جزی، دو جلد، ۳۴-۳۵/فقہ مالکی [۱۲۸] تذکرہ نگاروں نے اس

کا نام ”الحواشی السنیة علی قوانین ابن جزی المالکی“ لکھا ہے [۱۲۹] نامکمل رہی [۱۳۰]

☆ الصارم المبید لمنکر حکمة التقليد، بخط مصنف، ۵۰/فقہ مالکی [۱۳۱]

☆ طواع الھدی والفصل بتحذیر المسلمین بضرب الناقوس والطبل، ۵۳/

فتاویٰ [۱۳۲]، شیخ احمد بن یوسف قستی نے اس کتاب کا ترجمہ ملاوی زبان میں کیا۔ [۱۳۳]

☆ فتح المتعال فی بیان ضعف القول بسنیة الصلاة فی النعال، سن کتابت ۱۳۶۲ھ،

۶۰/فقہ مالکی [۱۳۴]

☆ اللمة فی بیان ما هو الراجع فی اول وقت الجمعة، سن کتابت ۱۳۵۰ھ، بخط مصنف،

۶۳/فتاویٰ [۱۳۵]

☆ مجموعة فوائد ونقول، دو جلد، بخط مصنف، فقہ ودیگر موضوعات پر، ۵۴/مجامع

[۱۳۶]

☆ مکنون الجواہر فیما یتفتح بہ المسافر، مجموعة تقاریر، ۵۵/فتاویٰ [۱۳۷]

☆ منهل الاسعاف فی بیان وجوب العمل بخیر التلغراف، سن کتابت ۱۳۵۲ھ، بخط

مصنف، کتاب کے آخر میں حکم شراہ اولاد الکفار کے موضوع پر ایک فتویٰ درج ہے [۱۳۸]

☆ طواع الاسرار العطائیة فی مطالع سماء مراضی الحضرة الالهیة، ۱۳۶۰ھ کو مدینہ منورہ

میں لکھی گئی، ۱۲۹/تصوف [۱۳۹]

☆ نیل الامیة علی مقدمة العزیة، بخط مصنف، ۲۲/فقہ مالکی [۱۴۰]

☆ عین الحقیقة فی بیان المقصود بالطریقة، سن کتابت ۱۳۳۲ھ، بخط مصنف، ۱۳۱/

تصوف [۱۴۱]

☆ مفاتیح کنز اللمعات لفتح ابواب المطالب المرتجات، بخط مصنف، ۱۳۶/ تصوف

[۱۴۲]

☆ المقاصد الباسطہ لبيان تنوع العالم الى ملك وملكوت وواسطہ، سن کتابت ۱۳۵۸ھ،

خط مصنف، ۱۲۹/ تصوف [۱۴۳]

☆ مناہل الرياسة والکياسة في بيان موارد عذب الفراسة، بخط مصنف، ۱۳۵/ تصوف

[۱۴۴]

☆ منہاج الفوز ^{لصحیح} بيان سبيل التوبة النصوح، سن کتابت ۱۳۶۲ھ، بخط مصنف،

۱۴۰/ تصوف [۱۴۵]

☆ الہدی التام فی موارد المولد النبوی وما اعتيد فيه من القيام، لایبریری ہذا میں اس

کتاب کے تین مخطوطات موجود ہیں جن میں سے ایک بخط مصنف ہے جو ۱۳۶۰ھ میں لکھا گیا،

۱۳۲/ تصوف [۱۴۶]

☆ حاشیہ علی شرح المنہوری علی السلم فی المنطق، ۱۴۰/ علوم عربیہ [۱۴۷]

☆ السوانح الفاخرة فی علم المناظرة، سن کتابت ۱۳۵۵ھ، ۲۶/ فقہ مالکی [۱۴۸]

☆ تحفة الخلان بتهدیب البیان، بخط مصنف، ۱۴۰/ علوم عربیہ [۱۴۹]، الدلیل

المشیر میں اس کتاب کا نام یوں لکھا ہے ”تحفة الخلان فی علم البیان علی شرح الشیخ عباس علی متن الشیخ

عابد“ [۱۵۰] اس کا ایک اور قلمی نسخہ بڑی تقطیع کے ۲۹۶ صفحات پر مشتمل صاحب المسلك الجلی کے

پیش نظر تھا۔ [۱۵۱]

☆ تدریب الطلاب فی قواعد الاعراب، سن کتابت ۱۳۳۰ھ، بخط مصنف، ۱۵۱/ علوم

عربیہ [۱۵۲] بقول فادانی یہ کتاب سوال و جواب کے انداز میں لکھی گئی اور دو جلدوں پر مشتمل

ہے۔ [۱۵۳]

☆ الفتوحات المکیہ فی القواعد النحویہ، ۱۵۶/ علوم عربیہ [۱۵۴]

☆ ہدیۃ المنان الی تہذیب البیان، بخط مصنف، ۱۴۰/ علوم عربیہ [۱۵۵]
 ☆ رسالۃ فی الخلیل، اس کتاب کے دو مخطوطات ہیں اور دونوں ہی ۱۳۳۳ھ میں لکھے گئے، ۴۰/ ادب [۱۵۶]
 حرم مکی لاہیری میں موجود مذکورہ بالا کتب کے علاوہ شیخ محمد علی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی مزید تصنیفات کے نام یہ ہیں:

☆ السوانح الجازمۃ فی التعاریف اللازمہ، منطق کے موضوع پر

☆ السادات الی سبیل الدعوات

☆ اثارۃ الدجا شرح تنویر الحج، نظم سفینۃ النجا

☆ بلوغ الامدیۃ بفتاویٰ النوازل العصریہ

☆ عقود الفرائد، عقائد کے موضوع پر

☆ المقصد السدید فی بیان اخطاء الشوکانی فیما فتح بہ رسالۃ القول المفید، قاضی شوکانی

کارڈ نیز مسئلہ تقلید و اجتہاد پر بحث

☆ بوارق انوار الحج و فضائلہ و آدابہ و ما فیہ من حکم و اسرار و فضائل مکہ والمدینۃ و ما جاء فی

فضل زیارۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اهل بیتہ و التبرک بالآثار

☆ سعادۃ الدارین بنجاة الابوین

☆ شمس الاشراق فی حکم التعامل بالادوارق

☆ فرائد النحو الوسیمة شرح الدرۃ الیقیمۃ

☆ تقریرات علی حاشیہ الخضر علی الفیہ ابن مالک

☆ جمع الهوامع شرح جمع الجوامع

☆ تقریرات علی کتاب العقد الفرید فی علم الوضع

☆ الحوشی النقیہ علی کتاب البلاغۃ، بحجۃ من علماء الازہر الذین ہم الشیخ محمد طموم وز ملاوہ

☆ تقریرات علی شرح المحلی مجمع الجوامع

☆ حاشیہ علی کتاب التلطف شرح التعرف، علم اصول اور تصوف پر

☆ تہذیب الفروق والقواعد السنیہ فی الاسرار الفقیہ، امام شہاب

الدین احمد بن ادیس قرانی کی "الفروق" کی تلخیص

☆ حواشی علی کتاب الاشباہ والنظائر للسیوطی

☆ انتصار الاعتصام بمعتمد کل مذهب من مذاہب الائمة الاعلام،

۱۳۳۲ھ میں شائع ہوئی

☆ ردع الجهلة واهل الفرہ فی اتباع قول من یرد المطلقة ثلاثاً فی

مرۃ، مطبوعہ ۱۳۳۰ھ

☆ توضیح احسن ما یقتضی وبہ تعلیل المیتوتہ یکتفی، مطبوعہ ۱۳۳۲ھ

☆ التنقیح لحکم التلقیح

☆ رسالہ بذیل التنقیح فی الفتوی عن ثلاث مسائل

☆ تحذیر المسلمین من لبس البر نیطہ وزی الکافرین، مطبوعہ ۱۳۵۷ھ

☆ فصول البدائع فی رد ما اورده علی الہدی المنازع

☆ الورد العلوی، اوراد و وظائف کے موضوع پر

☆ القواطع البرہانیہ فی بیان افک غلام احمد و اتباعہ القادیانیہ [۱۵۷] فتنہ قادیانیت

کے رد میں پورے عالم عرب میں سے کسی عرب عالم کی یہ پہلی تصنیف ہے۔

امام انخوشی شیخ محمد علی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کے ناموں پر غور کیا جائے تو یہ بات

بخوبی عیاں ہوتی ہے کہ آپ مختلف علوم اسلامیہ میں درجہ کمال پر فائز تھے، اسی باعث آپ نے

حدیث، اصول فقہ، فقہ مذاہب اربعہ، عقائد، تصوف، مواعظ، منطق، لغت، بلاغت، نحو، علم الاصول

اور شعر و ادب وغیرہ علوم کی اہم کتب پر حواشی لکھے یا ان موضوعات پر کتب تصنیف کیں، نیز

وہابیت، دیوبندیت، غیر مقلدیت، قادیانیت و دہریت وغیرہ کے رد میں قلم کا بھرپور استعمال کیا، آپ کے شاگرد شیخ محمد یاسین بن عیسیٰ فادانی مکی عرب دنیا کے علمی حلقوں میں نمایاں مقام رکھتے تھے، دارالعلوم دیوبند کے سابق مفتی اور دارالعلوم کراچی کے بانی مفتی محمد شفیع دیوبندی (م ۱۳۹۶ھ/ ۱۹۷۶ء) کے بیٹے جسٹس محمد تقی عثمانی (پ ۱۳۶۲ھ/ ۱۹۴۳ء) وغیرہ علماء نے شیخ فادانی کی شاگردی حاصل کی اور اسے اپنے لئے اعزاز سمجھا [۱۵۸]، یہی شیخ محمد یاسین فادانی اپنے استاد شیخ محمد علی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل کو مختصر الفاظ میں یوں متعارف کراتے ہیں:

” شیخنا الامام العلامة المتفنن سیبویہ زمانہ و فرید عصرہ و
وانہ فضیلة الشيخ محمد علی بن حسین مالکی المدرس
بالمسجد الحرام ورئيس الاساتذہ بمدرسة دارالعلوم الد
ینیہ“ [۱۵۹]

دوسرے مقام پر آپ یوں رقمطراز ہیں:

” شیخنا و شیخ مشیخہ دارالعلوم الدینیہ و شیخ مشائخ اہل
العصر بالحجاز الامام العلامة المدقق الفہامہ الجامع بین
علمی المنقول والمعقول والحاوی لعلم الفروع وعلوم
الاصول صاحب الفضیلة الشيخ محمد علی المالکی بن
العلامة مفتی المالکیہ بمکہ فی عصرہ الشيخ حسین بن
ابراہیم المغربی الازہری“ [۱۶۰]

فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۲۳ھ میں مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور وہاں تقریباً تین ماہ
قیام کی سعادت حاصل کی تو ان دنوں شیخ محمد علی مالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائی مفتی مالکیہ شیخ محمد عابد
مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے معاون نیز مسجد الحرام میں مدرس اور مالکیہ کے امام تھے اور متعدد کتب تصنیف
کر چکے تھے، اس دوران فاضل بریلوی اور سیبویہ العصر شیخ محمد علی مالکی کے درمیان متعدد ملاقاتیں

ہوئیں اور آپ نے فاضل بریلوی کی دواہم کتب ”الدولۃ المکیہ“ اور ”حسام الحرمین“ پر تقاریظ لکھیں نیز ۹ صفر ۱۳۲۲ھ کو شیخ محمد علی مالکی نے فاضل بریلوی سے مختلف علوم و فنون اور تصوف کے جمیع سلاسل میں اجازت و خلافت حاصل کی۔ [۱۶۱]

حضرت شیخ محمد علی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کا عمر بھر معمول رہا کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں بخاری شریف کا ختم فرمایا کرتے۔ [۱۶۲]

زندگی کے آخری چند سالوں میں آپ شدید گرمی کے دنوں میں اہل و عیال سمیت طائف چلے جاتے جہاں کا موسم معتدل تھا، چنانچہ ۱۳۶۷ھ میں آپ مکہ مکرمہ سے زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حاضر ہوئے اور پھر شعبان کے اوائل میں وہیں سے طائف چلے گئے، چند دن بعد مرض میں مبتلاء ہوئے اور اسی باعث پیر کی صبح ۲۸ شعبان ۱۳۶۷ھ کو وفات پائی [۱۶۳]، اسی دن بوقت عصر آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں جم غفیر نے شرکت کی اور طائف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کے مزار کے قریب آسودہ خاک ہوئے، تغممدہ برحمتہ و رضوانہ و أسکنہ فسیح جناتہ۔ [۱۶۴]

حضرت شیخ محمد علی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات الدلیل المشیر، سیر و تراجم اور خیر الدین زرکلی کی کتاب ”الاعلام“ جلد ششم، صفحہ ۳۰۵ میں درج ہیں، نیز شیخ محمد یاسین فادانی نے ”بغیۃ المرید من علوم الاسانید“ میں قلمبند کئے لیکن یہ کتاب تا حال شائع نہیں ہوئی، شیخ فادانی نے ہی آپ کے حالات اور اسناد و روایات پر ”المسلك الجلی فی اسانید فضیلة الشیخ محمد علی“ کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی جو بڑی تقطیع کے ۶۲ صفحات پر مشتمل ہے اور اس کا ایک ایڈیشن طبع ہو کر کم یاب ہو چکا ہے۔

جسٹس شیخ جمال بن امیر مالکی رحمۃ اللہ علیہ

العالم النبیه الفاضل النحوی النجیب الکامل شیخ جمال بن محمد امیر مالکی رحمۃ اللہ علیہ

۱۲۸۵ھ کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اپنے چچا مفتی مالکیہ شیخ عابد ودیگر اکابر علماء مکہ سے تعلیم پائی [۱۶۵] بالخصوص شیخ عابد مالکی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم نقلی و عقلی، فروع و اصول اخذ کئے، آپ کے دیگر اساتذہ میں علامہ سید بکری شطاشافعی، علامہ شیخ عبدالوہاب شافعی بھری مہاجر مکی [۱۶۶] اور علامہ سید عبدالکریم داغستانی [۱۶۷] اہم ہیں، شیخ جمال مالکی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مسجد الحرام میں مدرس مقرر ہوئے، جہاں بکثرت طلباء نے آپ سے استفادہ کیا، آپ محکمہ تعلیم مکہ مکرمہ کی اعلیٰ کمیٹی کے رکن رہے، پھر گورنر مکہ شریف حسین بن علی نے آپ کو اعلیٰ شرعی عدالت ”محکمۃ التعزیرات الشرعیہ“ کا چیف جج تعینات کیا۔ [۱۶۸]

شیخ جمال مالکی معتدل جسامت، کشادہ سینہ، متحمل و بردبار، خوش اخلاق، متواضع، علائق دنیا سے بیزار، اشاعت دین کے لئے ہمہ اوقات مستعد و غیرہ اوصاف کے مالک تھے، آپ مسجد الحرام میں باب داؤدیہ و باب ابراہیم کے درمیان حلقہ درس قائم کیا کرتے تھے، آپ امیر و فقیر، عربی و عجمی اور گورے و کالے کے درمیان کوئی امتیازی سلوک روانہ رکھتے اور تمام طلباء سے یکساں شفقت سے پیش آتے، کسی طالب علم کی عیادت یا ان کی طرف سے دی گئی دعوت طعام میں شرکت کے لئے آپ مکہ مکرمہ کے دور دراز محلوں تک تشریف لے جاتے جب کہ ان دنوں ذرائع آمد و رفت محدود تھے، آپ طلباء کے ساتھ بیٹھ کر ہر طرح کے کھانے بلا تکلف تناول فرماتے اور ہر ممکن طریقہ سے ان کی حوصلہ افزائی فرماتے، نتیجہ طلباء آپ کی طرف کھنچے چلے آتے اور آپ ”امام مالکی“ کے لقب سے مشہور ہوئے۔


شیخ جمال مالکی رحمۃ اللہ علیہ فقہ اور نحو کا درس دیا کرتے جن میں الفیہ ابن مالک، الممتز اور الثمرات الحبیہ وغیرہ کتب کا درس اہم ہے، اور آپ کے حلقہ درس میں اہل حجاز، یمن نیز انڈونیشیا کے طلباء کی بڑی تعداد شامل ہوتی، عمر عبدالجبار نے آپ سے سماعت کردہ دروس میں سے ایک کا خلاصہ اپنی کتاب میں درج کیا ہے [۱۶۹]، آپ کے تلامذہ میں علامہ سید محمد طاہر دباغ [۱۷۰] اور علامہ سید علوی مالکی حسنی [۱۷۱] جیسے علماء شامل ہیں۔

جسٹس شیخ جمال مالکی المعروف بہ امام مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دو کتب ”الدولۃ المملکیہ“ اور ”حسام الحرمین“ پر تقاریر لکھیں جو مطبوع ہیں، اور ۹ صفر ۱۳۲۲ھ بروز بدھ کو ہی فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی مالکیہ شیخ حسین بن ابراہیم الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے دو فرزند ان شیخ محمد عابد مالکی، شیخ محمد علی مالکی کے علاوہ ان کے ایک پوتے شیخ جمال مالکی رحمہم اللہ تعالیٰ کو بھی جمیع علوم اسلامیہ میں اجازت و خلافت عطا کی [۱۷۲]

حضرت شیخ جمال مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۳۲۹ھ میں وفات پائی اور چار فرزند ان عبدالعزیز، عبدالرحمن، عبدالغنی اور اسعد اپنی نسبی یادگار چھوڑے [۱۷۳]، بقول شیخ حسن مشاط مالکی یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ مکہ مکرمہ میں شیخ جمال مالکی اور پھر علامہ سید علوی مالکی حسنی کی تجہیز و تکفین نیز نماز جنازہ میں لوگوں کی بکثرت شمولیت کے باعث پوری چودہویں صدی ہجری کے دو سب سے بڑے اجتماع تھے۔ [۱۷۴]

تیرہویں و چودہویں صدی ہجری کے حجاز مقدس کی درس و تدریس، تصنیف و تالیف، مسند افتاء، امامت و خطابت، شعر و ادب اور اشاعت عقائد اسلامیہ جیسے اہم موضوعات کی تاریخ مرتب کرتے ہوئے مفتی مالکیہ شیخ حسین بن ابراہیم الازہری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولاد کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، بلکہ آج بھی جب ہم پندرہویں صدی ہجری کے تیسرے عشرہ میں داخل ہونے والے ہیں، مکہ مکرمہ میں اس خاندان سے تعلیم حاصل کرنے والے سادات علماء کرام کی اولاد میں سے پروفیسر ڈاکٹر سید محمد بن علوی مالکی حسنی علیہ الرحمہ نے اسی لگن سے دینی علوم کی کدمت کا سلسلہ جاری رکھا اور آج کی دنیا کا کوئی گوشہ ڈاکٹر سید محمد بن علوی کی علمی خدمات اور اثرات سے خالی نہیں۔

خاندان شیخ حسین مالکی الازہری رحمۃ اللہ علیہ



حوالے و حواشی

[۱]۔ المختصر من کتاب نشر النور والزهر، شیخ عبداللہ ابوالخیر مکی (م ۱۳۴۳ھ)، اختصار و ترتیب و حواشی شیخ محمد سعید عامودی (م ۱۴۱۱ھ) و شیخ احمد علی بھوپالی مہاجر مکی (م ۱۴۱۳ھ)، طبع دوم ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء، عالم المعرفہ جدہ، ص ۱۸۲

[۲]۔ ایضاً، ص ۱۸۰

[۳]۔ الدلیل المشیر، علامہ شیخ ابوبکر حبشی علوی مکی (م ۱۳۷۴ھ)، مکتبہ المکیہ مکہ مکرمہ، طبع اول ۱۴۱۸ھ/۱۹۹۷ء، ص ۲۷۶

[۴]۔ نشر النور، ص ۱۸۰-۱۸۱

[۵]۔ علامہ شیخ احمد حضراوی شافعی ہاشمی مکی (۱۲۵۲ھ-۱۳۲۷ھ) اٹھارہ سے زائد کتب کے مصنف تھے، آپ مؤرخ حجاز کہلائے، آپ کے شاگردوں میں سید محمد زمزمی کتابی (م ۱۳۷۱ھ/۱۹۵۱ء) مدفون دمشق وغیرہ اپنے دور کے اکابر علماء مشائخ شامل ہیں، شیخ احمد حضراوی رحمۃ اللہ علیہ، فاضل بریلوی کے خلفاء میں سے ہیں، آپ کے مفصل حالات نشر النور، سیر و تراجم اور اعلام الحجاز جلد سوم میں درج ہیں۔

[۶]۔ شریف محمد بن عبدالمعین بن عون ۱۲۴۳ھ سے ۱۲۶۷ھ تک اور دوبارہ ۱۲۷۲ھ سے اپنی وفات ۱۲۷۴ھ تک گورنر مکہ رہے۔ (نشر النور، حاشیہ ص ۲۹۸)

[۷]۔ نشر النور، ص ۱۸۰-۱۸۱

سیر و تراجم میں ہے کہ آپ ۱۲۲۶ھ میں ”مفتی مالکیہ“ بنائے گئے، لیکن یہ درست نہیں، اس لئے کہ سن مذکور میں آپ کی عمر محض چار برس تھی، یقیناً یہ اندراج کتابت کی غلطی ہے۔ (سیر و تراجم بعض علمائنا فی القرن الرابع عشر للهجرة، عمر عبدالجبار مکی (م ۱۳۹۱ھ)، مکتبہ تھامہ جدہ، طبع سوم ۱۴۰۳ھ/۱۹۸۲ء، ص ۱۰۰)

[۸]- سیر و تراجم، ص ۱۰۰

[۹]- فہرس مخطوطات مکتبہ مکتہ المکرمہ، ناشر مکتبہ ملک فہد الوطنیہ ریاض، طبع اول

۱۳۱۸/۱۹۹۷ء، یہ فہرست حرم مکی لاہری کے محافظ شیخ عبدالملک بن شیخ عبدالقادر طرابلسی کی نگرانی میں پروفیسر ڈاکٹر عبدالوہاب ابراہیم ابوسلیمان وغیرہ ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ کے دس اساتذہ نے مل کر تیار کی، ص ۵۷، نیز نشر النور حاشیہ ص ۱۸۱

[۱۰]- فہرس مخطوطات مکتبہ مکتہ المکرمہ، ص ۲۵۵

[۱۱]- امام حرم شیخ عبدالقادر مشاط مالکی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۲۸ھ-۱۳۰۲ھ) کے والد

ماجد مکہ مکرمہ کے بڑے تاجر تھے، شیخ عبدالقادر مشاط نے حرم مکی کے علاوہ جامعہ الازہر میں تعلیم پائی، آپ شیخ حسین مالکی اور علامہ سید احمد دحلان شافعی (م ۱۳۰۴ھ) کے اہم اور خاص شاگردوں میں سے ایک ہیں، علامہ مشاط مسجد الحرام کے امام، خطیب اور مدرس تھے، چند تصنیفات ہیں نیز اپنے استاد علامہ سید احمد دحلان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پر حواشی لکھے، شیخ عبدالقادر کے شاگردوں میں علامہ سید احمد زاوی مالکی مکی (۱۲۶۲ھ-۱۳۱۶ھ)، شیخ حسن بن زہیر مالکی مکی (م ۱۳۰۱ھ)، شیخ عبداللہ بن عثمان حنفی مکی (م ۱۳۲۴ھ)، شیخ محمد صباغ مصری مہاجر مکی (م ۱۳۲۱ھ) اور شیخ یاسین بیسونی شافعی مکی (۱۲۷۳ھ-۱۳۵۴ھ) وغیرہ اپنے دور کے اکابر علماء مکہ شامل ہیں۔ (نشر النور، ص ۵۷۲)

[۱۲]- شیخ خلیفہ بن حمد نبھان (۱۲۷۰ھ-۱۳۶۲ھ) بحرین میں پیدا ہوئے اور سترہ

برس کی عمر میں حصول تعلیم کے لئے مکہ مکرمہ پہنچے، جہاں مفتی مالکیہ شیخ حسین بن ابراہیم کے علاوہ شیخ عبدالقادر مشاط، شیخ عبدالرحمن دھان (۱۲۸۳ھ-۱۳۳۷ھ)، شیخ محمد یوسف خیاط شافعی وغیرہ متعدد اکابر علماء سے مختلف علوم و فنون حاصل کئے، بعد ازاں علماء مدینہ منورہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور علامہ سید احمد بن اسماعیل برزنجی شافعی (۱۲۵۹ھ-۱۳۳۵ھ) وغیرہ اکابر علماء سے اسناد حاصل کیں، شیخ خلیفہ نبھان نے ایشیا و افریقہ کے متعدد ممالک کی سیاحت کی، شیخ خلیفہ نے علم

فلکیات و توقيت کے موضوعات پر سات سے زائد کتب تصنیف کیں جن میں سے ایک کتاب مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ وغیرہ مدارس کے نصاب میں شامل رہی، آپ مسجد الحرام میں مدرس تعینات تھے، اہم تلامذہ میں مولوی عبدالرحمن کریم بخش، علامہ سید احمد عبداللہ دحلان، شیخ حسن مشاط (۱۳۱۷ھ-۱۳۹۹ھ) اور شیخ محمد یاسین بن عیسیٰ فادانی (م ۱۳۱۰ھ) کے نام شامل ہیں۔ (سیر و تراجم، ص ۱۰۱-۱۰۲)

شیخ خلیفہ کے بیٹے شیخ محمد نبھان (م ۱۳۷۰ھ) بھی مشہور عالم اور صاحب تصانیف تھے، آپ کی ایک تصنیف ”سورج زمین کے گرد چکر کاٹ رہا ہے“ کے نظریہ پر ہے۔ (سیر و تراجم، ص ۲۷۷-۲۷۵)

[۱۳]۔ شیخ محمد بن سلیمان حسب اللہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۲۲ھ-۱۳۲۵ھ) نے مکہ مکرمہ میں شیخ حسین مالکی کے علاوہ جن علماء سے تعلیم پائی ان میں مفتی شافعیہ شیخ احمد دمیاطی (م ۱۲۷۰ھ)، علامہ سید احمد نحر اوی شافعی (م ۱۲۹۱ھ) وغیرہ شامل ہیں، بعد ازاں آپ مزید حصول علم کے لئے عازم مصر ہوئے، نیز مدینہ منورہ میں شیخ عبدالغنی دہلوی نقشبندی سے پڑھا، شیخ محمد حسب اللہ ہر سال ماہ رمضان میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کرتے اور اس ماہ مبارک میں وہاں مقیم رہ کر مسجد نبوی میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”الشفاء“ کا درس دیا کرتے، آپ مسجد الحرام مکہ مکرمہ میں مدرس تھے، مفتی شافعیہ علامہ سید احمد دحلان رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۰۴ھ میں منصب افتاء سے الگ ہوئے تو گورنر حجاز عثمان پاشا نے یہ منصب شیخ محمد حسب اللہ کے سپرد کرنا چاہا لیکن آپ نے قبول نہیں کیا، آپ کے تلامذہ میں شیخ عثمان بن عبداللہ تمبوسی (م ۱۳۶۹ھ) اور شیخ ابوبکر بن شہاب الدین تمبوسی اہم ہیں، شیخ محمد حسب اللہ کی تصنیفات کے نام یہ ہیں:

حاشیہ علی منک الخطیب الشربینی الکبیر، الریاض البدیعیہ فی اصول الدین و بعض فروع الشریعہ، فیض المنان شرح فتح الرحمن، حاشیہ علی فتح المعین، ہدایۃ العوام الی معرفۃ الایمان

والاسلام وغیرہ، حرم مکی لائبریری میں آپ کی چار تصنیفات کے مخطوطات موجود ہیں۔ (سیر و تراجم،

ص ۲۲۹-۲۳۲، نشر النور، ص ۳۱۹-۳۲۰، فہرس مخطوطات مکتبہ مکتہ المکرمۃ، ص ۵۳۲)

[۱۴]۔ شیخ ابوبکر بن جحی بیسونی رحمۃ اللہ علیہ کے والد مصر سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ

جائے، وہیں پر شیخ ابوبکر پیدا ہوئے اور شیخ حسین مالکی کے علاوہ شیخ احمد میاطی، شیخ العلماء شیخ

جمال (م ۱۲۸۴ھ) سے تعلیم پائی اور گورنر مکہ شریف محمد بن عون نے شیخ ابوبکر کو مسجد الحرام کا امام

وخطیب مقرر کیا، بعد ازاں آپ گورنر شریف عبدالمطلب کے دور میں ”مفتی مالکیہ“ تعینات کئے

گئے، شیخ ابوبکر نے ۱۳۰۰ھ کے بعد مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ (نشر النور، ص ۶۲-۶۳)

[۱۵]۔ فہرس مخطوطات مکتبہ مکتہ المکرمۃ، ص ۳۶

[۱۶]۔ ایضاً، ص ۶۱

[۱۷]۔ ایضاً، ص ۱۲۴

[۱۸]۔ ایضاً، ص ۱۴۰

[۱۹]۔ ایضاً، ص ۱۸۹-۱۹۰

[۲۰]۔ ایضاً، ص ۲۱۸

[۲۱]۔ ایضاً، ص ۲۹۰

[۲۲]۔ سیر و تراجم، ص ۱۰۰، نشر النور، ص ۱۸۱

[۲۳]۔ نشر النور، ص ۱۸۰-۱۸۱

[۲۴]۔ علامہ سید احمد بن زینی دحلان شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۰۴ھ) کا اسم گرامی کسی

تعارف کا محتاج نہیں، آپ ”شیخ العلماء“ اور ”مفتی شافعیہ“ کے مناصب پر تعینات رہے، متعدد

تصنیفات ہیں، حجاز مقدس اور پورے عالم اسلام کے لاتعداد اکابرین نے آپ سے استفادہ کیا،

آپ کے شاگردوں میں حجاز مقدس میں مملکت حاشمیہ کے بانی حسین بن علی، پاک و ہند کے علماء

میں سے مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی (م ۱۲۸۵ھ) اور ان کے فرزند مولانا ابولحسنات عبدالحی

لکھنوی (۱۳۰۴ھ)، مولانا تقی علی خاں بریلوی اور ان کے فرزند مولانا احمد رضا خاں بریلوی، مولانا احمد الدین چکوالی اور مولوی خلیل احمد انبیٹھوی وغیرہ علماء شامل ہیں، علامہ سید احمد دحلان کے حالات و خدمات پر آپ کے شاگرد علامہ سید ابوبکر شطا شافعی مکی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۶۶ھ-۱۳۱۰ھ) نے ”نخجہ الرحمن فی بعض مناقب السید احمد بن زینی دحلان“ کے نام سے کتاب لکھی جو عرصہ دراز قبل شائع ہوئی تھی اور اس کا قلمی نسخہ بخط مصنف آج بھی حرم مکی لائبریری میں زیر نمبر ۴۵/ تاریخ موجود ہے۔ (فہرس مخطوطات مکتبہ مکتہ المکرمۃ، ص ۲۸۱)، علاوہ ازیں علامہ سید احمد دحلان کی ایک اہم تصنیف ”الفتوحات الاسلامیہ بعد مضی الفتوحات النبویہ“ کا تازہ ایڈیشن دو جلدوں میں کل ۱۰۳۲ صفحات پر مشتمل کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ دار البصائر دمشق اور دار صیاد بیروت کے اشتراک سے ۱۴۱۷ھ/ ۱۹۹۷ء میں شائع ہوا، اس ایڈیشن کے آغاز میں مصنف کے مختصر حالات دیئے گئے ہیں۔

علامہ سید احمد دحلان شافعی کی نسل آگے نہیں چلی، لیکن آپ کے بھائی کی اولاد آج کے حجاز کے بڑے تاجروں اور اہم شخصیات میں سے ہے، چنانچہ آپ کے بھائی کے پڑپوتے ڈاکٹر سید عبداللہ بن صادق (پ ۱۳۳۸ھ) بن عبداللہ (۱۲۹۱ھ-۱۳۶۰ھ) بن صادق (م ۱۲۹۷ھ) بن زینی دحلان ۱۹۸۸ء سے ۱۹۹۸ء تک ایون صنعت و تجارت جدہ کے سیکرٹری جنرل رہے، نیز روزنامہ ”البلاد“ جدہ (سن اجراء ۱۳۵۰ھ) کے ایڈمنسٹریشن چیئر مین ہیں، ڈاکٹر موصوف کے چھوٹے بھائی سید عماد دحلان سول انجینئر ہیں اور بین الاقوامی نمائش گاہ جدہ کے ڈائریکٹر ہیں، ڈاکٹر سید عبداللہ دحلان کے دادا علامہ سید عبداللہ دحلان رحمۃ اللہ علیہ فاضل بریلوی کے خلفاء میں سے ہیں۔

[۲۵]۔ آپ کا سن وصال نشر النور میں ۱۳۰۹ھ اور سیر و تراجم میں ۱۳۱۰ھ درج ہے،

اول الذکر کتاب کے مصنف آپ کے ہم عصر علماء مکہ میں سے ہیں، اس بنیاد پر ان کا درج کردہ سن وصال درست معلوم ہوتا ہے۔

- [۲۶]۔ نشر النور، ص ۴۲۱، سیر و تراجم، ص ۲۶۰
- [۲۷]۔ فہرس مخطوطات مکتبہ مکتہ المکرمۃ، ص ۶۱، ۱۱۰
- [۲۸]۔ نشر النور، ص ۱۶۳، ۱۸۱، سیر و تراجم، ص ۱۵۲
- [۲۹]۔ اعلام الحجاز فی القرن الرابع عشر للهجرة، محمد علی مغربی (م ۱۹۹۶ھ)، جلد سوم، مطبع المدنی عباسیہ قاہرہ، طبع اول، ص ۳۲۷، نیز فہرس مخطوطات مکتبہ مکتہ المکرمۃ، ص ۱۲۳، حسام الحرمین علی منخر الکفر والمین، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، مکتبہ نبویہ لاہور، ص ۶۵
- [۳۰]۔ مثلاً فہرس مخطوطات مکتبہ مکتہ المکرمۃ، ص ۵۴۳
- [۳۱]۔ سیر و تراجم، ص ۱۵۲
- [۳۲]۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۰۸ھ) کی ہندوستان، مکہ مکرمہ اور ترکی میں غراں قدر خدمات ہیں، ۱۲۹۰ھ میں آپ نے کلکتہ کی ایک صاحب ثروت خاتون صولت النساء بیگم کے مالی تعاون سے مکہ مکرمہ میں مدرسہ صولتیہ قائم کیا، جس نے امت مسلمہ کے علمی زوال کو روکنے میں کسی بڑی اسلامی یونیورسٹی کا کردار ادا کیا، آپ کی خدمات کے اعتراف میں خلیفہ عثمانی نے آپ کو ”پایہ حریم شریفین“ کا خطاب دیا، مولانا رحمت اللہ کے حالات متعدد کتب و رسائل میں درج ہیں، جن میں سے چند کے نام یہ ہیں۔
- تجلیات مہر انور، علامہ مفتی سید شاہ حسین گردیزی گوٹروی نقشبندی، مکتبہ مہریہ گوٹرا شریف اسلام آباد، طبع اول ۱۴۱۲ھ/۱۹۹۲ء، ص ۳۱۰-۳۳۵
- ۔ اعلام الحجاز، محمد علی مغربی، جلد دوم، مطابع دارالبلاد جدہ، طبع دوم ۱۴۱۵ھ/۱۹۹۳ء، ص ۲۸۶-۳۱۳
- ۔ اہل الحجاز بعقبہم التاریخی، حسن عبدالحی قزاز، مطابع المدینہ للصحافة جدہ، طبع اول ۱۴۱۵ھ/۱۹۹۳ء، ص ۱۷۹-۱۸۷
- ۔ علماء العرب فی شبہ القارة الهندیة، شیخ یونس ابراہیم سامرائی، طبع اول ۱۹۸۶ء،

وزارت اوقاف عراق، ص ۷۵۰

- ماہنامہ منار الاسلام ابو ظہبی، شماره مارچ ۱۹۸۷ء، ص ۹۰-۹۸

- ماہنامہ المنہل جدہ، شماره دسمبر ۸۸ء جنوری ۱۹۸۹ء، ص ۱۵۲-۱۶۶

[۳۳]- الدلیل المشر، ص ۲۷۱

[۳۴]- الدلیل المشر، ص ۲۷۱، علامہ سید احمد زواوی مالکی رحمۃ اللہ

علیہ (۱۲۶۲ھ-۱۳۱۶ھ) مکہ مکرمہ کے جلیل القدر علماء میں سے تھے، آپ نے علامہ سید احمد

دحلان، شیخ محمد بیسونی شافعی مکی (م ۱۳۰۲ھ) اور شیخ عبدالقادر مشاط کے علاوہ مکہ مکرمہ حاضر ہونے

والے دیگر اکابر علماء کرام سے مختلف علوم پڑھے، آپ کے دو فرزند ان علامہ سید عبداللہ زواوی

مالکی (م ۱۳۲۳ھ) اور سید محمد زواوی مالکی بھی اہم علماء مکہ میں سے ہوئے، علامہ سید عبداللہ زواوی

ہندوستان تشریف لائے تھے۔ (نشر النور، ص ۹۱، سیر و تراجم، ص ۵۹، ۱۴۰)

[۳۵]- حسام الحرمین، ص ۶۵

[۳۶]- نشر النور، ص ۱۸۱، سیر و تراجم میں ہے کہ شیخ عابد مالکی اپنے والد کی وفات پر

مفتی مالکیہ بنائے گئے، یہ صحیح نہیں، نشر النور میں واضح طور پر لکھا ہے کہ شیخ عابد مالکی نے ۱۳۰۹ھ میں

یہ منصب سنبھالا اور یہی درست ہے، یاد رہے کہ مکہ مکرمہ میں مذاہب اربعہ کے اکابر علماء میں سے

بیک وقت ایک ایک عالم "مفتی" مقرر ہوتے تھے۔

[۳۷]- سیر و تراجم، ص ۱۵۲

[۳۸]- سیر و تراجم، ص ۱۵۲

[۳۹]- نشر النور، حاشیہ ص ۲۰۷

[۴۰]- اس درخواست پر دستخط اور پھر مکہ بدر کئے جانے والے دیگر چار علماء کرام کے

اسماء گرامی یہ ہیں: شیخ السادة سید علوی سقاف (م ۱۳۳۵ھ)، مفتی احناف شیخ عبدالرحمن سراج

حنفی (م ۱۳۱۴ھ)، مفتی شوافع سید عبداللہ زواوی (م ۱۳۲۳ھ)، مفتی حنابلہ و نائب حرم سید ابراہیم۔

[۴۱]- تاریخ مکہ، احمد سباعی، ناشر نادى مکہ الثقافى مکہ مکرمہ، طبع چہارم ۱۳۹۹ھ، بحوالہ

اعلام الحجاز، ج ۳، ص ۳۴۷-۳۷۱

[۴۲]- محمد علی مغربی نے احمد سباعی کے حوالے سے لکھا کہ ان علماء کے ساتھ یہ واقعہ

۱۳۱۴ھ میں پیش آیا (اعلام الحجاز، ج ۳، ص ۳۵۳) لیکن یہ درست نہیں، جبکہ نشر النور میں ہے کہ یہ سانحہ ۱۳۱۰ھ میں پیش آیا (نشر النور، ص ۱۸۱) اور یہی صحیح ہے۔

[۴۳]- سیر و تراجم، ص ۱۵۲-۱۵۳

[۴۴]- نشر النور، ص ۱۸۱

[۴۵]- سیر و تراجم، ص ۱۵۲

[۴۶]- علامہ سید عباس بن عبدالعزیز مالکی حسی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۷۰ھ-۱۳۵۳ھ)

کے دیگر اساتذہ میں شیخ محمد یوسف خیاط اہم ہیں، علامہ سید عباس مالکی نے علم البیان، علم الوضع اور فقہ کے موضوعات پر چند کتب تصنیف کیں۔ آپ مسجد الحرام میں مدرس تھے، باب محکمہ اور باب باسطیہ کے درمیانی برآمدہ میں آپ کا حلقہ درس منعقد ہوتا جہاں خلق کثیر آپ سے فیض یاب ہوئی، آپ کے شاگردوں میں آپ کے فرزند علامہ سید علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۹۱ھ) اہم ہیں، علامہ سید عباس مالکی حافظ قرآن اور مسجد الحرام میں مالکیہ کے امام و خطیب تھے۔ (نشر النور، ص ۲۲۹، سیر و تراجم، ص ۱۴۴-۱۴۶، ۱۵۲، اہل الحجاز بعقبہم التاریخی، ص ۲۵۸-۲۶۰)

علامہ سید عباس مالکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند علامہ سید علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند مولانا محمد مصطفیٰ رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۱۰ھ-۱۴۰۲ھ) کے خلفاء میں سے ہیں۔ (ماہنامہ اعلیٰ حضرت، مقام اشاعت بریلی، شمارہ اکتوبر نومبر ۱۹۹۰ء، مفتی اعظم ہند نمبر، ص ۷۹)

[۴۷]- علامہ سید محمد بن عبدالعزیز مالکی حسی کی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۸۷ھ-۱۳۱۲ھ) بھی

اپنے بھائی علامہ عباس مالکی کی طرح شیخ محمد عابد مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، آپ کے والد

ماجد سید عبدالعزیز بن عباس مالکی رحمۃ اللہ علیہ مسجد الحرام کے خطیب اور مالکیہ کے امام تھے، علامہ سید محمد مالکی نے مکہ مکرمہ میں وباء پھیلنے کے باعث عین عالم شباب میں وفات پائی، آپ عالم و فاضل، حافظ قرآن اور صالحین میں سے تھے۔ (نثر النور، ص ۲۸۰)

[۲۸]۔ محدث الحرمین شیخ عمر حمدان محرمی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۹۱ھ - ۱۳۶۸ھ) نے شیخ

محمد عابد مالکی کے علاوہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید عبداللہ کتانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الخطباء شیخ احمد ابوالخیر مردادکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۵ھ) اور شیخ محمد امین سوید دمشقی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۵ھ) سمیت سینکڑوں علماء سے استفادہ کیا، آپ ”محدث الحرمین الشریفین“ کے لقب سے مشہور ہیں، مدینہ منورہ میں وفات پائی، الدلیل المشیر کے مصنف آپ کے اہم تلامذہ میں سے ہیں، شیخ عمر حمدان رحمۃ اللہ علیہ فاضل بریلوی نیز مفتی اعظم ہند کے خلفاء میں سے ہیں، آپ کے حالات اور اسانید و مرویات پر آپ کے شاگرد شیخ محمد یاسین فادانی مکی (م ۱۳۱۱ھ) نے تین ضخیم جلدوں میں کتاب ”مطعم الوجدان فی اسانید الشیخ عمر حمدان“ تالیف کی، پھر خود ہی اس کا خلاصہ ”اتحاف الاخوان باختصار مطعم الوجدان فی اسانید الشیخ عمر حمدان“ کے نام سے دو جلدوں میں تیار کیا جس کی پہلی جلد کا پہلا ایڈیشن ۱۳۷۱ھ میں قاہرہ سے اور دوسرا ۱۴۰۶ھ میں دمشق سے شائع ہوا، شیخ عمر حمدان کے حالات الدلیل المشیر، ص ۳۱۰-۳۲۷، اعلام من ارض النبوة، ج ۱، ص ۱۶۹-۱۸۲۔ سیر و تراجم، ص ۲۰۴-۲۰۷، نیز قاہرہ کے مشہور عالم شیخ محمود سعید ممدوح مقیم دہلی کی کتاب ”تشفیہ الاسماع“ مطبوعہ قاہرہ ۱۹۸۴ء، ص ۲۲۶-۲۳۲ کے علماء مدینہ منورہ کے حالات پر محمد سعید دفتر دار مدنی (پ ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۴ء) کے مرتب کردہ تذکرے میں بھی درج ہیں۔

[۲۹]۔ شیخ محمد نور فطانی (م ۱۳۶۳ھ) نے مکہ مکرمہ میں شیخ محمد عابد مالکی رحمۃ اللہ علیہ

کے علاوہ الازہر یونیورسٹی قاہرہ میں شیخ محمد عبدہ مصری وغیرہ علماء سے تعلیم پائی اور وہاں شیخ محمد عبدہ کے مکتب فکر سے گہری وابستگی اختیار کر لی، شیخ محمد نور فطانی مکہ مکرمہ کی اعلیٰ عدالت کے جج رہے

جبکہ علامہ سید محمد مرزوقی ابو حسین رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۸۳ھ-۱۳۶۵ھ) انہی ایام میں اس عدالت کے چیف جسٹس تھے۔ (سیر و تراجم، ص ۲۶۹-۲۷۲، اہل الحجاز بعقبہم التاريخی، ص ۲۹۳-۲۹۴) علامہ سید محمد مرزوقی رحمۃ اللہ علیہ فاضل بریلوی کے اہم خلفاء میں سے ہیں۔

[۵۰]- شیخ علی بنجر ۱۲۸۵ھ میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، قرآن مجید حفظ کیا اور سید ابو بکر شطا المعروف بہ سید بکری شطا، شیخ عابد مالکی، شیخ سعید یمانی (م ۱۳۵۲ھ)، شیخ محمد یوسف خیاط اور شیخ صالح سرودجی (م ۱۳۲۹ھ) سے تعلیم پائی، پھر مسجد الحرام میں مدرس مقرر ہوئے اور ۱۲ ذوالحجہ ۱۳۷۰ھ کو وفات پائی۔ (سیر و تراجم، حاشیہ ص ۱۳۱)

[۵۱]- شیخ محمد حبیب اللہ جکنی شنقیطی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۹۵ھ-۱۳۶۳ھ) موریتانیہ کے علاقہ شنقیط میں آباد قبیلہ جکنی میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم مقامی علماء سے حاصل کی پھر ترک وطن کر کے مراکش پہنچے اور وہاں کے علماء سے استفادہ کیا، بعد ازاں وہیں پرتدریس کا سلسلہ شروع کیا، ۱۳۳۱ھ میں مراکش کے بادشاہ نے مسجد اقصیٰ، مسجد خلیل اور حج و زیارت کے لئے سفر اختیار کیا تو آپ بھی ہمراہ تھے اور آپ نے حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں قیام کر لیا اور حرمین شریفین، دمشق، قاہرہ، مراکش وغیرہ کے لاتعداد علماء و مشائخ سے ملاقاتیں کیں، نیز ان سے استفادہ کیا، آپ کے اساتذہ میں شیخ محمد عابد مالکی، علامہ شیخ احمد سنوسی مدنی (م ۱۳۵۱ھ)، علامہ شیخ سید محمد عبدالحی کتانی مراکشی اور علامہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی فلسطینی وغیرہ اپنے دور کے اکابرین شامل ہیں، شیخ محمد حبیب اللہ شنقیطی نے بکثرت حج اور عمرے ادا کئے اور مسجد نبوی شریف میں بار بار مختلف رہے، آخر عمر میں آپ مکہ مکرمہ مقیم رہے پھر قاہرہ تشریف لے گئے اور وہیں وفات پا کر حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے مزار کے قریب آسودہ خاک ہوئے، آپ کی تصنیفات کی تعداد ۳۸ سے زائد ہے جو نظم و نثر میں ہیں، چند کے نام یہ ہیں: دلیل السالک الی موطا مالک (منظوم)، تبیین المدارک لنظم دلیل السالک، اضاءة الحالک من الفاظ دلیل السالک، زبدة المسالک للاجازة فی روایات موطا

مالک، فتح القدير المالک فی شرح الفاظ موطا مالک، شرح علی کافیہ ابن مالک، البهجة المرضیه حاشیہ علی شرح الالفیہ للسیوطی، الجواب المقنع المحرر فی اخبار عیسیٰ والمهدی المنتظر، زاد المسلم فیما اتفق علیہ البخاری والمسلم، فتح المنعم بیان ما احتج لیانہ من زاد المسلم (پانچ جلدوں میں طبع ہوئی)۔

شیخ محمد حبیب اللہ شنقیطی کے شاگردوں میں الدلیل المشیر کے مصنف علامہ سید ابوبکر علوی شافعی، محدث حرین شریفین شیخ عمر حمدان اور امام محمد زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۷۱ھ) وغیرہ اکابر علماء و صوفیاء شامل ہیں، علامہ سید محمد عبدالحی کتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب ”فہرس الفہارس والاثبات“ شیخ محمد حبیب اللہ شنقیطی کی تحریک پر تصنیف کی۔ (دلیل المشیر، ص ۷۲-۸۳، التحریر الوجیز فیما یتغیہ المستجیز، شیخ محمد زاہد الکوثری، مکتب المطبوعات الاسلامیہ حلب شام، طبع اول ۱۴۱۳ھ/۱۹۹۳ء، ص ۷-۹)

[۵۲]۔ حافظ الوقت شیخ محمد خضر جکنی شنقیطی مہاجر مدنی اپنے بڑے بھائی علامہ شیخ محمد حبیب اللہ شنقیطی کے ساتھ آبائی وطن ترک کر کے پہلے مراکش اور بعد ازاں مدینہ منورہ میں مقیم ہوئے، آپ ۱۳۴۳ھ میں زندہ تھے، آپ کے شاگردوں میں امام محمد زاہد الکوثری مصری وغیرہ علماء شامل ہیں۔ (الدلیل المشیر، ص ۷۳، ۷۴ نیز التحریر الوجیز، ص ۷، ۹) شیخ محمد خضر شنقیطی کے مفصل حالات محمد سعید دفتر دار مدنی نے لکھے۔ (فصول من تاریخ المدینۃ المنورۃ، علی حافظ مدنی، اردو ترجمہ بنام ”ابواب تاریخ المدینۃ المنورۃ“ مترجم آل حسن صدیقی، طبع اول مطبوعہ جدہ ۱۴۱۷ھ/۱۹۹۶ء، ص ۲۵-۲۶)

[۵۳]۔ فہرس مخطوطات مکتبہ مکتہ المکرمۃ، ص ۱۲۳

[۵۴]۔ ایضاً، ص ۲۸۱-۲۸۲

[۵۵]۔ ایضاً، ص ۲۵۳

[۵۶]۔ سیر و تراجم، ص ۱۵۳

[۵۷]۔ مفتی شافعیہ شیخ محمد سعید باہصیل رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۰ھ) اکابر علماء مکہ میں سے تھے، ۱۳۲۵ھ میں گورنر مکہ نے خلافت عثمانیہ اور امام یمن کے ذریعہ مفاہمت کے لئے علماء مکہ مکرمہ کا پانچ رکنی وفد یمن کے دار الحکومت صنعاء روانہ کیا تو شیخ محمد سعید باہصیل اور ان کے فرزند عالم جلیل شیخ علی باہصیل اس میں شامل تھے (سیر و تراجم، ص ۲۲۲) الدولۃ المملکیہ اور حسام الحرمین پر شیخ محمد سعید باہصیل کی تقاریر موجود ہیں۔

[۵۸]۔ سیر و تراجم، ص ۶۷-۶۹، الدلیل المشری، ص ۲۱۶-۲۲۰

[۵۹]۔ انوار ساطعہ در بیان مولود و فاتحہ، مولانا عبدالسمیع رامپوری، مطبع مجتہبائی دہلی،

۱۳۲۶ھ، ملخصاً

[۶۰]۔ حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۳۰ھ-۱۳۱۷ھ) سے عرب و عجم کے

اکابر علماء و مشائخ کی کثیر تعداد نے فیض پایا، شیخ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ نقشبندیہ میں آپ سے بیعت کی، استنبول میں مدفون ترکی کے مشہور عالم مولوی محمد اسعد ددہ (م ۱۳۲۹ھ) حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ (نشر النور، ص ۱۳۴، الدلیل المشری، ص ۴۰، التحریر الوجیز، ص ۶۳)، آپ کی تصنیف ”فیصلہ مفت مسئلہ“ اسم باسمی اور اہل سنت کو انتشار سے بچانے کی ایک بھرپور کوشش ہے۔

حاجی امداد اللہ چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور جنت المعلیٰ

میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں تدفین عمل میں آئی۔ (علماء العرب فی شبہ

القارۃ الہندیہ، ص ۷۲۸-۷۲۹)

[۶۱]۔ مولوی سید ابوالحسن علی ندوی لکھنوی (پ ۱۳۳۲ھ) لکھتے ہیں کہ براہین قاطعہ

اصل میں مولوی رشید احمد گنگوہی کی تصنیف ہے جو مولوی خلیل احمد سہارنپوری کے نام سے

چھپی۔ (نزہۃ الخواطر، علامہ سید عبداللہ حسنی (م ۱۳۴۱ھ/۱۹۲۳ء)، حواشی سید ابوالحسن علی ندوی،

ناشر نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی، جلد ہشتم ۱۳۹۶ھ/۱۹۷۶ء، ص ۱۳۸-۱۵۲)

[۶۲]- براہین قاطعہ، مولوی خلیل احمد سہارنپوری ثم انبیٹھوی، ضمیمہ از قلم مولوی محمد منظور نعمانی لکھنوی (۱۳۱۸ھ/۱۹۹۷ء)، دارالاشاعت اردو بازار کراچی، ۱۹۸۷ء، ص ۱۵۱-۱۵۲

[۶۳]- انوار ساطعہ، ص ۳۰۴

[۶۴]- روئیداد تاریخی مناظرہ بہاولپور الحسینی بہ تقدیس الوکیل عن توہین الرشید و الخلیل، مولانا غلام دستگیر قصوری، حالات مصنف از قلم علامہ پیرزادہ اقبال احمد فاروقی، نوری بک ڈپولاہور

[۶۵]- تقدیس الوکیل میں درج عبارات کے مقرر ذمہ دہ پانچ علماء حرمین شریفین کے

اسماء گرامی یہ ہیں:

- مفتی احناف مکہ مکرمہ شیخ محمد صالح کمال رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۶۳ھ-۱۳۳۲ھ)

- مفتی شافعیہ مکہ مکرمہ شیخ محمد سعید باہصیل رحمۃ اللہ علیہ

- مفتی حنابلہ مکہ مکرمہ شیخ خلف بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ

- مفتی احناف مدینہ منورہ شیخ عثمان بن عبدالسلام داغستانی رحمۃ اللہ علیہ

(۱۲۶۹ھ-۱۳۳۵ھ)

- رئیس المدرسین مدینہ منورہ شیخ محمد بن علی بن ظاہر السید رحمۃ اللہ علیہ

[۶۶]- حسام الحرمین علی منخر الکفر والمین (۱۳۲۴ھ)، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، اردو ترجمہ بنام مبین احکام و تصدیقات اعلام (۱۳۲۵ھ)، مترجم مولانا حسنین رضا خاں بریلوی، مکتبہ نبویہ لاہور، سن طباعت ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء، ص ۶۳-۶۵

[۶۷]- پاک و ہند اور ترکی سے الدولتہ المکیہ کے متن اور اردو ترجمہ کے متعدد ایڈیشن

شائع ہوئے لیکن ان سب میں اہم وہ ایڈیشن ہے جو دارالعلوم امجدیہ کے تعاون سے ادارہ

تحقیقات امام احمد رضا کراچی کے موجودہ نائب صدر الحاج محمد شفیع محمد قادری

حامدی (پ ۱۳۲۶ھ) نے اپنے قائم کردہ اشاعتی ادارہ ”المکتبہ“ (۱۹۵۶ء-۱۹۵۸ء) کراچی کی طرف سے شائع کیا، الدولۃ المکیہ پر عالم اسلام کے اکابر علماء کی لکھی گئی تمام تقاریر کا حال (۱۹۹۸ء) شائع نہیں ہوئیں۔ (اب جامعہ نظامیہ لاہور سے مکمل تقاریر کے ساتھ اغلاط سے پاک ایڈیشن شائع ہو چکا ہے، خلیل رانا)

[۶۸]۔ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، نذیر سنز پبلشرز

لاہور، بنام علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ص ۲۰۳-۲۰۴

[۶۹]۔ الاجازات المکتبہ لعلماء بکۃ والمدینۃ، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، منظمہ

الدعوة الاسلامیہ نظامیہ رضویہ لاہور، ص ۲۳، ۲۹

[۷۰]۔ سیر و تراجم، ص ۲۶۱ نیز المسلك الحلی فی اسانید فضیلۃ الشیخ محمد علی، از قلم شیخ محمد

یاسین فادانی، طبع اول، مطبع دار الطباعة المصریہ الحدیثہ، ص ۵۸ پر آپ کا سن وصال ۱۳۴۰ھ جب

کہ سیر و تراجم، ص ۱۵۲-۱۵۳ نیز الدلیل المشری، ص ۲۷۵-۲۷۶، خیر الدین زرکلی کی الاعلام،

ج ۳، ص ۲۴۲ پر ۱۳۴۱ھ درج ہے۔

[۷۱]۔ نشر النور، ص ۱۸۱

[۷۲]۔ سیر و تراجم، ص ۲۶۰، الدلیل المشری، ص ۲۷۱، المسلك الحلی فی اسانید فضیلۃ

الشیخ محمد علی، کتاب کے نام سے ظاہر ہے

[۷۳]۔ الدلیل المشری، ص ۲۷۱، المسلك الحلی، ص ۵۵

[۷۴]۔ علامہ سید ابوبکر بن محمد زین العابدین شطا شافعی مکی (۱۲۶۶ھ-۱۳۱۰ھ) مکہ

مکرمہ کے علم و فضل میں معروف خاندان میں پیدا ہوئے، آپ اپنے جدا مجدد ولی کامل شیخ شطا رحمۃ

اللہ علیہ جن کا مزار دمیاط میں واقع ہے، ان کی نسبت سے شطا کہلاتے ہیں، آپ کا سلسلہ نسب

حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ سے ہوتا ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ملتا ہے، علامہ سید

ابوبکر شطا رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید احمد زینی دحلان مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اہم شاگردوں میں سے ہیں،

علامہ سید ابوبکر نے تصوف، سوانح اولیاء، فقہ، سیرت، تفسیر اور حدیث وغیرہ موضوعات پر متعدد کتب تصنیف کیں، آپ کی عمر کا زیادہ حصہ درس و تدریس، تصنیف و تالیف، اور اذکار پڑھنے، تہجد ادا کرنے اور تلاوت قرآن مجید میں بسر ہوا، آپ نے مناسک حج ادا کرنے کے بعد وبائی مرض کے باعث تیرہ ذوالحجہ کو حالت احرام میں وفات پائی، آپ کے حالات پر آپ کے شاگرد شیخ عبدالحمید قدس (م ۱۳۳۴ھ) کے کتب ”کنز العطانی ترجمۃ العلامة السید بکری شطا“ لکھی، آپ کی اولاد میں سے تین بیٹے علامہ سید احمد شطا (۱۳۰۰ھ-۱۳۳۲ھ)، علامہ سید صالح شطا (۱۳۰۲ھ-۱۳۶۹ھ) اور علامہ سید حسین شطا (۱۳۰۷ھ-۱۳۵۵ھ) اہم علماء مکہ سے ہوئے۔ (نشر النور، ص ۱۲۳-۱۲۵، الدلیل المشر، ص ۲۸۲، سیر و تراجم، ص ۸۰-۸۱)

[۷۵]۔ امام، محدث، مفسر، جامع بین العلم والعمل، زہد و تقویٰ میں معروف، شیخ عبدالحق الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۳ھ) ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ جا بے اور حرمین شریفین میں متعدد علماء کرام سے استفادہ کیا، بعد ازاں آپ دُرود شریف کی مشہور کتاب ”دلائل الخیرات“ کی اجازت دینے کے سبب شیخ الدلائل کے لقب سے مشہور ہوئے اور عرب و عجم کے بکثرت علماء آپ سے فیض یاب ہوئے، آپ نے تفسیر نسفی اور در مختار پر سیر حاصل حواشی لکھے اور تقریباً پچاس برس مکہ مکرمہ میں مقیم رہنے کے بعد وہیں پر وفات پائی۔ (نشر النور، ص ۲۳۳، الدلیل المشر، ص ۲۷۶، علماء العرب فی شبہ القارہ الہندیہ، ص ۷۷) فاضل بریلوی اور شیخ عبدالحق الہ آبادی رحمہم اللہ تعالیٰ کے درمیان متعدد ملاقاتیں ہوئیں اور آپ نے حسام الحرمین نیز الدولتہ المکیہ پر تقریفات لکھیں جو مطبوع ہیں۔

[۷۶]۔ سیر و تراجم، ص ۲۶۰-۲۶۱، المسلك الجلی، ص ۵۶

[۷۷]۔ علامہ عبدالباقی لکھنوی مہاجر مدنی (۱۲۸۶ھ-۱۳۶۳ھ)، علامہ ابوالحسنات

محمد عبدالحق لکھنوی (م ۱۳۰۳ھ) کے شاگرد اور مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی (م ۱۳۱۳ھ) کے

مرید تھے، ۱۳۲۱ھ میں علامہ محمد عبدالباقی بغداد حاضر ہوئے اور خانقاہ جیلانیہ کے سجادہ نشین و نقیب

الاشرف مولانا سید عبدالرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ، نیز مزار حضرت غوث اعظم کے کنجی بردار مرشد کامل مولانا سید مصطفیٰ قادری جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت پائی، بعد ازاں آپ مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے اور عالم عرب و حرمین شریفین کے اکابر علماء و مشائخ سے مختلف علوم اسلامیہ اخذ کئے، آپ کے دیگر شاگردوں میں علامہ سید محمد عبدالحی کتانی مراکشی، علامہ سید احمد صدیق غماری مراکشی (م ۱۳۸۰ھ)، شیخ عبداللہ غماری (م ۱۳۱۳ھ)، شیخ عبدالعزیز غماری (م ۱۳۱۸/۱۹۹۷ء)، علامہ سید علوی مالکی حسنی مکی، علامہ سید ابوبکر حبشی علوی مکی (م ۱۳۷۴ھ) اور شیخ محمد سعید دفتر دارحنفی مدنی وغیرہ مشہور علماء عرب کے نام اہم ہیں، علامہ محمد عبدالباقی لکھنوی نے مدینہ منورہ میں وفات پائی، آپ نے تمیں سے زائد کتب تصنیف کیں جن میں سے چند نام یہ ہیں: الاسعاد بالاسناد، المنہج السلسلہ فی الاحادیث المسلسلہ، نشر الغوالی فی الاحادیث العوالی، اظہار الحق فی بیعتہ مولانا انوار الحق، التحقیق فی العقیقہ، ازالۃ الخطاء عن حکم کتابۃ النساء، بدایۃ المیزان فی المنطق، موازین الاصراف، آخر الذکر دونوں کتب ہندوستان سے اور بعض مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور مصر سے شائع ہوئیں۔ (اعلام من ارض النبوة، سید انس یعقوب مدنی (پ ۱۳۹۳ھ)، مطبع دارالبلاد جدہ، جلد اول ۱۳۱۳ھ/۱۹۹۳ء، ص ۱۹۸-۲۰۳، الدلیل المشیر، ص ۱۱۸-۱۲۷، علماء العرب فی شبہ القارہ البندیہ، ص ۷۷۵)

[۷۸]۔ علامہ سید محمد عبدالحی کتانی مراکشی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۰۳ھ-۱۳۸۲ھ) اپنے دور کے عظیم محدث، سلسلہ کتانیہ کے مشہور پیر طریقت، مؤرخ کبیر اور صاحب تصانیف کثیرہ تھے، آپ نے عالم اسلام کے سینکڑوں علماء و مشائخ سے استفادہ کیا، ان میں فاضل بریلوی کے علاوہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی، مفتی دمشق شیخ محمد ابوالخیر عابدین (م ۱۳۴۴ھ)، مؤرخ مکہ شیخ احمد حضراوی شافعی (م ۱۳۲۷ھ)، شیخ الدائل بالمدینہ منورہ علامہ سید محمد امین بن احمد رضوان، علامہ محمد سعید زمان سندھی، شیخ شرف الدین احمد آبادی، علامہ شاہ محمد عبدالحق الہ آبادی مہاجر مکی، مولانا ہدایت اللہ ہندی وغیرہ اکابرین شامل ہیں (الدلیل المشیر، ص ۱۲۸-۱۷۵)، علامہ سید عبدالحی

کتابی کے شاگردوں میں امام جلیل شیخ محمد زاہد الکوثری، امام علامہ سید علوی مالکی حسنی مکی اور فقیہ العصر شیخ عبدالفتاح ابوعدہ حلبی (۱۳۱۷ھ / ۱۹۹۷ء) اہم نام ہیں۔ (التحریر الوجیز، ص ۷، مجموع فتاویٰ و رسائل، امام سید علوی مالکی حسنی، جمع و ترتیب، علامہ محمد بن علوی مالکی حسنی، طبع اول، ص ۷، محدث الشام العلامة السید بدرالدین الحسینی، جمع و ترتیب شیخ محمد بن عبداللہ آل الرشید، دارالحنان دمشق، طبع اول ۱۳۱۹ھ / ۱۹۹۸ء، حاشیہ ص ۹-۱۰)

[۷۹]۔ شیخ الاسلام سید حسین بن محمد بن حسین حبشی علوی شافعی (م ۱۳۳۰ھ) رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید احمد دحلان شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور سلسلہ عیدروسیہ کے مشہور پیر طریقت تھے، اپنے استاد علامہ دحلان کی وفات پر مکہ مکرمہ میں ان کی جگہ ”مفتی شافعیہ“ کے منصب پر تعینات ہوئے، علامہ سید حسین شافعی کے حالات اور اسناد و مرویات پر ان کے شاگرد شیخ عبداللہ غازی ہندی مہاجر کی (م ۱۳۶۵ھ) نے کتاب ”فتح القوی فی اسانید السید حسین الحبشی العلوی“ لکھی، علاوہ ازیں عرب علماء کرام کے حالات پر لکھی گئی متعدد کتب میں آپ کے حالات درج ہیں۔ (ادلیل المشیر، ص ۹۲-۹۷، سیر و تراجم، ص ۹۹، نشر النور، ص ۱۷۷-۱۷۹) الدلیل المشیر کے مصنف آپ کے پوتے اور شاگرد ہیں۔

[۸۰]۔ علامہ سید محمد سالم سری رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۶۳ھ-۱۳۳۶ھ) مدفون ترمیم شہر علاقہ حضرموت جنوبی یمن کے والد گرامی اپنے دور کے اکابر اولیاء کرام میں سے تھے، علامہ سید محمد سالم نے قرآن مجید حفظ کیا، تجوید سیکھی نیز اپنے والد ماجد کے علاوہ حضرموت، حجاز مقدس اور عالم اسلام کے دیگر علماء سے تعلیم حاصل کی، اور ولی کامل امام سید احمد بن حسن عطاس رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۴ھ) سے خلافت پائی، آپ کے دیگر اساتذہ میں علامہ سید ابوبکر شطا شافعی مکی، شیخ عبدالجلیل برادہ مدنی (۱۲۴۲ھ-۱۳۲۷ھ)، شاہ عبدالحق الہ آبادی مہاجر کی، علامہ سید محمد علی بن طاہر وتری مدنی (۱۲۶۱ھ-۱۳۲۲ھ)، مفتی حضرموت و صاحب الفتاویٰ شیخ عبدالرحمن بن محمد، صاحب عقد الیواقیت شیخ عیدروس بن عمر حبشی رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ اکابر علمائے عصر شامل

ہیں۔ (الدلیل المشیر، ص ۳۴۰-۳۴۲)

[۸۱]۔ علامہ سید عمر بن محمد شطا شافعی مکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۱ھ) عالم باعمل تھے، آپ علامہ سید احمد دحلان شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اہم تلامذہ میں سے ہیں، علامہ سید عمر شطانے طویل عرصہ مسجد حرم میں درس دیا، آپ کے حلقہ درس میں ہمیشہ طالبان علم کا جم غفیر حاضر رہتا، آپ حرم مکی میں جن کتب کا درس دیتے ان میں آپ کے استاد علامہ سید احمد دحلان کی تصنیفات شرح علی الاجرومیہ، شرح الکفر اوی اور منهل العطشان علی فتح الرحمن بطور خاص قابل ذکر ہیں، علامہ سید عمر شطانے آخر عمر میں تدریس کا سلسلہ ترک کر دیا اور خانہ نشین ہو گئے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے علاوہ گھر سے باہر نہ نکلتے، آپ نے اسی سال سے زائد عمر پائی اور جنت المعلىٰ میں آخری آرام گاہ بنی۔ (نشر النور، ص ۳۷۷-۳۷۸)

[۸۲]۔ علامہ سید ابوالحسن علی ظاہر وتری مدنی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۶۱ھ-۱۳۲۲ھ) مدینہ منورہ کے اکابر علماء میں سے تھے، آپ عرب دنیا میں راجح تصوف کے سلاسل خلوتیہ، ناصریہ، شاذلیہ، بقالیہ، مختاریہ وغیرہ میں اکابر مشائخ سے مجاز تھے، آپ کے اساتذہ میں علامہ سید احمد دحلان، شیخ عبدالغنی دہلوی، شیخ صدیق کنال حنفی مکی (م ۱۲۸۴ھ)، شیخ احمد دھان حنفی مکی (م ۱۲۹۴ھ)، شیخ حبیب الرحمن کاظمی ردولوی مہاجر مدنی (۱۲۵۰ھ-۱۳۲۲ھ)، علامہ سید جعفر بن اورلیس کتانی مراکشی (م ۱۳۲۳ھ) وغیرہ شامل ہیں، علامہ سید علی وتری کی تصنیفات میں ”تحفۃ المدنیۃ فی المسلسلات الوتریۃ“ اہم ہے (الدلیل المشیر، ص ۳۲۳-۳۲۵)

[۸۳]۔ علامہ سید احمد اسماعیل برزنجی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۵۹ھ-۱۳۳۵ھ) مسجد نبوی کے خطیب اور مدینہ منورہ میں شوافع کے مفتی تھے، نظم و نثر میں آپ کی دس سے زائد تصنیفات ہیں، ”فلسفۃ البراض بالترکزی المعترض علی القاضی عیاض“ ان میں سے ایک ہے، پہلی جنگ عظیم کے دوران جنگ کی تباہ کاریوں کے باعث اہل مدینہ کا متعدد حصہ ہجرت کر گیا، اس دوران علامہ سید احمد برزنجی نے دمشق کو نیا مستقر بنایا اور وہیں وفات پائی۔ (اعلام من ارض النبوة، ج ۱، ص ۱۰۹۔

۱۱۰، تاریخ علماء دمشق فی القرن الرابع عشر الهجری، محمد مطیع الحافظ و نزار باظہ، دار الفکر دمشق، جلد اول، طبع اول ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء، ص ۳۴۴)

فاضل بریلوی کی کتاب ”حسام الحرمین“ پر علامہ برزنجی کی وقیع تقریظ موجود ہے، ۱۳۲۹ھ میں علامہ برزنجی نے مولوی خلیل احمد انبیٹھوی کے بعض افکار کی تردید میں ایک کتاب ”کمال التثقیف والتقویم تعویج الافہام عما یجب لکلام اللہ القدیم“ لکھی۔

[۸۴]۔ شیخ سید صالح ظاہری مالکی مدنی (۱۲۵۸ھ-۱۳۲۸ھ) اپنے دور کے محدث جلیل اور شیخ العصر تھے، آپ نے مسجد نبوی میں تعلیم پائی، پھر جامعہ الازہر مصر کے علماء کے سامنے زانوائے تلمذ تہہ کیا، آپ کے اساتذہ میں شاہ عبدالغنی دہلوی، علامہ سید عبدالرحمن بن سلیمان الاهدال یمنی، مسند میاط شیخ شمس محمد شریف دمیاطی اہم ہیں، علاوہ ازیں امام الکبیر سید محمد بن علی سنوسی مراکشی نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا، ۱۳۰۹ھ عثمانی خلیفہ سلطان بدالحمید کے دور میں علامہ سید فالح ظاہری دارالخلافت استنبول تشریف لے گئے اور شاہی محل میں درس حدیث دینے پر مامور ہوئے، لیکن چند ہی سال میں آپ ملوک و امراء کے درمیان موجودگی سے گھٹن محسوس کرنے لگے، چنانچہ شیخ الاسلام کے توسط سے خلیفہ عثمانی نے آپ کو مسجد نبوی میں درس حدیث کے لئے مقرر کر دیا اور ۱۳۱۴ھ میں شیخ سید فالح ظاہری استنبول سے مدینہ منورہ حاضر ہوئے، آپ عالی اسناد کے مالک تھے اور مسند مدینہ کہلائے، مسجد نبوی میں آپ کے حلقہ درس میں ہر عمر کے طلباء کی کثیر تعداد موجود رہتی، آپ کی تصنیفات کی تعداد آٹھ سے زائد ہے، ان میں آپ کی اسناد و مرویات پر ”حسن الوفا لاخوان الصفا“ کے علاوہ تعلیقات علی منہل العذب فی تاریخ طرابلس الغرب، منظومہ مصطلح الحدیث اور آپ کے شعری مجموعہ وغیرہ شامل ہیں۔ (اعلام من ارض النبوة، سید انس یعقوب کتبی، جلد دوم، طبع اول، مطبع دارالبلاد جدہ، ۱۳۱۵ھ/۱۹۹۴ء، ص ۱۶۵-۱۷۰، الدلیل المشیر، ص ۴۲۵-۴۲۷)

[۸۵]۔ رجال من مکة المکترمة، سید زبیر محمد جمیل کتبی مکی (پ ۱۳۷۵ھ)، جلد سوم،

مطبع دارالفنون للطباعة والنشر والتغلیف جدہ، طبع اول ۱۴۱۲ھ/۱۹۹۲ء، ص ۲۸

[۸۶]- سیر و تراجم، ص ۲۶۱، المسلک الجلی، ص ۵۸

[۸۷]- سیر و تراجم، ص ۲۶۱، الدلیل المشیر، ص ۲۷۴، المسلک الجلی، ص ۵۸

[۸۸]- سیر و تراجم، ص ۲۶۲، الدلیل المشیر، ص ۲۷۴

[۸۹]- سیر و تراجم، ص ۲۶۱، المسلک الجلی، ص ۳۶، ۳۸، ۵۸

[۹۰]- من اعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر، ابراہیم بن عبد اللہ حازمی،

دار الشریف للنشر والتوزیع الرياض، طبع اول ۱۴۱۶ھ/۱۹۹۵ء، ج ۱، ص ۱۰، رجال من مکتہ

المکرمۃ، ج ۳، ص ۳۷

[۹۱]- سیر و تراجم، ص ۲۶۲، الدلیل المشیر، ص ۲۷۴، المسلک الجلی، ص ۵۶

[۹۲]- امام سید علوی بن عباس مالکی حنفی مکی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۲۸ھ-۱۳۹۱ھ) کی عمر

دس برس تھی کہ آپ نے قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد مسجد الحرام میں نماز تراویح پڑھانا شروع

کی، آپ مفتی اعظم ہند مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اہم عرب خلفاء میں

سے ہیں، آپ کے اساتذہ و مشائخ میں شیخ عمر حمدان محری، شیخ محمد حبیب اللہ شنقیطی، شیخ محمد خضر

شنقیطی، شیخ محمد امین سوید مشقی، شیخ محمود عطار دمشقی (م ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۴ء)، شیخ احمد ناصرین مکی، شیخ

عمر باجنید (م ۱۳۵۴ھ)، علامہ سید عیدروس بن سالم البار (م ۱۳۸۴ھ)، علامہ سید عبدالحی کتانی،

شیخ محمد زاہد موثری، علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی، علامہ سید محمد مکی کتانی اور شیخ عبدالقادر شلمی حنفی

مدنی (م ۱۳۶۹ھ) وغیرہ اکابرین شامل ہیں۔

علامہ سید علوی مالکی کے حالات محمد علی مغربی نے اعلام الحجاز، جلد دوم، ص ۲۷۴-۲۸۴ پر

درج کئے ہیں جن کا تلخیص اردو ترجمہ مولانا افتخار احمد قادری مصباحی نے کیا جو سالنامہ ”معارف

رضا“ کراچی میں شائع ہوا، علاوہ ازیں علامہ سید علوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ڈاکٹر سید محمد بن علوی

مالکی نے آپ کے جاری کردہ فتاویٰ اور چھ رسائل جمع کر کے انہیں ”مجموع فتاویٰ و رسائل“ کے

نام سے کتابی صورت دی اور اس کے آغاز میں آپ کے مختصر حالات قلمبند کر کے شائع کئے، نیز آپ نے اپنے والد گرامی کے حالات و خدمات پر ایک مستقل کتاب لکھی، اور مکہ مکرمہ کے ایک صحافی فاروق باسلامہ نے آپ پر ”شخصیات مکیہ۔ علوی الماکی“ کے عنوان سے ایک مضمون لکھا جو روزنامہ ”الندوة“ مکہ مکرمہ کے شمارہ ۱۳ نومبر ۱۹۹۷ء میں شائع ہوا، علامہ سید علوی مانگی مسجد الحرام میں درس دیا کرتے تھے، آپ کے شاگردوں میں آپ کے فرزند ڈاکٹر سید محمد مانگی، بیت اللہ کے موجودہ کنجی بردار شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ شیبی، شیخ عبدالفتاح ابوعدہ حلبی اور پروفیسر احمد محمد جمال مکی (م ۱۴۱۳ھ) کے نام اہم ہیں۔

[۹۳]۔ علامہ سید محمد صالح فرفور حسنی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۱۸ھ۔ ۱۴۰۷ھ) کا اسم

گرامی اردو دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں، مولانا محمد عبدالکلیم شرف قادری نے آپ کی ایک کتاب ”من نجات الخلود“ کا اردو ترجمہ کیا جس کی چند اقساط ماہنامہ ضیائے بحرم لاہور وغیرہ پاک و ہند کے بعض رسائل کے مختلف شماروں میں شائع ہوئیں اور بعد ازاں یہ ترجمہ ”زندہ جاوید خوشبوئیں“ کے نام سے لاہور اور مبارکپور انڈیا سے کتابی صورت میں شائع ہوا، مولانا شرف قادری ہی کے قلم سے علامہ فرفور کے حالات و خدمات پر ایک مضمون ضیائے حرم کے شمارہ فروری ۱۹۹۶ء کے صفحات ۶۷۔۷۳ پر شائع ہوا، علامہ سید محمد صالح فرفور نے تعلیم کے فروغ کے لئے ۱۳۷۶ھ/۱۹۵۶ء کو دمشق میں ایک تنظیم ”جمعیۃ الفتح الاسلامی“ قائم کی اور اس کا اپنا نصاب تیار کیا جس میں تصوف کو بطور مضمون شامل کیا اور اس میں رسالہ القشیر یہ، احیاء علوم الدین، الیوقیت والجو اھر پڑھائی جاتی تھیں (تاریخ علماء دمشق، ج ۳، ص ۵۰۷۔۵۲۰) دمشق کے محلہ باب نوما کے مشرق میں عارف باللہ شیخ ارسلان دمشقی رحمۃ اللہ علیہ (م ۵۵۰ھ) کا مزار واقع ہے جس پر عظیم الشان کلبہ اور مسجد تعمیر کی گئی ہے اسی مزار کے احاطہ میں شیخ محمد صالح فرفور کی آخری آرام گاہ بنی (مشیدات دمشق ذوات الاضرحة وعناصرها الجمالیہ، ڈاکٹر قتیبہ شہابی، طبع اول ۱۹۹۵ء، وزارت ثقافت دمشق شام، ص ۲۷۵۔۲۷۹)

آپ کے فرزند ان میں سے ڈاکٹر سید عبداللطیف فرفور شام کے اکابر علماء میں سے ہیں، آپ ان دنوں مجمع الفقہی العالمی جدۃ کے رکن ہیں، آپ نے ”ابن عابدین واثرہ فی الفقہ“ کے عنوان سے تین ضخیم جلدوں میں مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کی، آپ کی دوسری اہم کتاب ”اعلام دمشق فی القرن الرابع عشر لھجری“ ہے جو دار الملاح اور دار حسان کے اشتراک سے ۱۹۸۷ء میں دمشق سے شائع ہوئی، علاوہ ازیں مختلف اسلامی موضوعات پر ڈاکٹر عبداللطیف فرفور کے مضامین و مقالات عرب دنیا کے اہم اخبارات میں آئے دن شائع ہوتے رہتے ہیں مثلاً کثیر الاشاعت عربی روزنامہ ”الشرق الاوسط“ جس کا صدر دفتر لندن میں ہے اور یہ مشرق وسطیٰ، یورپ و امریکہ کے گیارہ بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہوتا ہے، اس اخبار کے شمارہ ۲۱ ستمبر ۱۹۹۸ء کے صفحہ ۱۶ پر آپ کا ایک مضمون بعنوان ”ابی اسلام زید؟ الاسلام لا یعرف الانغلاق۔ والعنف اکبر خصر علی الدعوة“ شائع ہوا جو راقم السطور کے پیش نظر ہے، شامی ٹیلی ویژن اپنے پروگراموں میں ڈاکٹر موصوف کی تقاریر نشر کرتا رہتا ہے، جولائی ۱۹۹۸ء کی ہر جمعرات کو نشر ہونے والی آپ کی تقاریر راقم نے پچھتم خود دیکھیں، علامہ سید محمد صالح فرفور رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند دوم علامہ سید حسام الدین فرفور بھی اہم علماء شام میں سے ہیں، آپ ان دنوں جمعیت الفتح الاسلامی کے قائم کردہ ایک ادارے کے مدیر اور ”دائرة الافقاء السوریہ دمشق“ میں مدرس ہیں، ۱۹۹۸ء کے اوائل میں علامہ سید حسام الدین فرفور نے دبئی کا دورہ کیا تو وہاں کے مشہور اہل سنت عالم، محکمہ اوقاف دبئی کے ڈائریکٹر جنرل و ماہنامہ ”الضیاء“ کے سرپرست اعلیٰ شیخ عیسیٰ بن عبداللہ بن مانع الحمیری نے اپنے دفتر میں آپ کا استقبال کیا اور اشاعت اسلام کے لئے باہم تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیالات کیا (ماہنامہ الضیاء، وزارت اوقاف دبئی، شمارہ ربیع الاول ۱۴۱۹ھ / جولائی ۱۹۹۸ء، ص ۶)

[۹۴]۔ علامہ سید محمد مکی بن محمد بن جعفر کتانی حسنی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۱۲ھ - ۱۳۹۳ھ)

مراکش کے شہر فاس میں پیدا ہوئے، قرطبہ یونیورسٹی فاس میں تعلیم پائی، مراکش ان دنوں فرانس کے زیر تسلط تھا، علامہ سید محمد مکی کے والد ماجد فرانسیسی حکمرانوں سے کراہت و نفرت کے باعث

اپنے بیٹوں شیخ محمد کتانی و شیخ محمد زمزی کے ساتھ ہجرت کر کے ۱۳۲۵ھ میں مدینہ منورہ چلے گئے، شیخ محمد علی کتانی نے حرمین شریفین میں شیخ محمد علی مالکی، خاتمۃ الحمدین بالدیار الحجازیہ مولانا عمر حمدان محری، شیخ عبدالباقی لکھنوی اور شیخ عبدالقادر طرابلسی مدنی سے علوم اسلامیہ حاصل کئے، جنگ عظیم کے دوران یہ خانوادہ دمشق ہجرت کر گیا جہاں شیخ محمد علی کتانی نے شیخ امین سوید دمشقی رحمۃ اللہ علیہ سے تصوف کی مختلف کتب بالخصوص شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات مکیہ وغیرہ پڑھیں، نیز محدث شام علامہ سید محمد بدرالدین حسنی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۴ھ) کی شاگردی اختیار کی، بعد ازاں شام کے مفتی مالکیہ کے منصب پر تعینات ہوئے، علامہ سید محمد علی کتانی کے دیگر اساتذہ میں علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، علامہ کتانی نے رابطہ عالم اسلامی نیز شام و مراکش میں متعدد اسلامی تنظیموں کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، مراکش کی آزادی کے بعد ۱۳۸۲ھ میں شاہ حسن ثانی کی دعوت پر آپ وطن تشریف لے گئے جہاں آپ کا سرکاری سطح پر استقبال کیا گیا، علامہ سید محمد کتانی تصوف کے سلاسل شاذلیہ و قادریہ وغیرہ میں اپنے والد ماجد اور دیگر مشائخ کے خلیفہ تھے، آپ ہندستان بھی تشریف لائے تھے، آپ کا مزار دمشق میں واقع ہے، (تاریخ علماء دمشق، ج ۲، ص ۹۰۹-۹۱۳، الدلیل المشریح، ص ۳۹۴-۳۹۷)

[۹۵]- شیخ ابراہیم بن داؤد فطانی مکی (۱۳۲۰ھ-۱۴۱۴ھ) فقیہ مکہ، مفسر اور ادیب کہلائے، آپ نے زیادہ تر تعلیم شیخ محمد علی مالکی کے گھر میں قائم مدرسہ میں پائی اور کتب صحاح ستہ تمام و کمال آپ سے پڑھیں، علاوہ ازیں مدرسہ ہاشمیہ میں تعلیم پائی، آپ کے دیگر اساتذہ میں شیخ احمد بن عبداللہ قاری (م ۱۳۵۹ھ)، شیخ یحییٰ امان (م ۱۳۸۷ھ)، شیخ عمر حمدان، شیخ سعید یمانی (م ۱۳۵۲ھ) اور علامہ سید محمد عبدالحی کتانی کے نام اہم ہیں، شیخ ابراہیم فطانی مکہ مکرمہ میں شیخ محمد علی مالکی کے مدرسہ سمیت مختلف مدارس میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے، بعد ازاں محکمہ عدل سے منسلک ہو گئے اور اعلیٰ عدالتوں کے جج بن کر ریٹائرڈ ہوئے، نظن و نثر میں آپ کی متعدد تصنیفات ہیں، قرآن مجید کے آخری دس پاروں کی تفسیر نیز ریاض الصالحین کی شرح لکھی جو نامکمل

رہی، آپ کے نعتیہ مجموعے ”نہج البردہ“، ”الہمزیہ“ اور ”طیبة الطیبة“ نام کے ہیں، ڈاکٹر حلمی قاعود نے جدید عربی نعت کے مطالعہ پر لکھی گئی اپنی ضخیم کتاب میں شیخ ابراہیم فطانی کے نعتیہ مجموعہ طیبة الطیبة کا تعارف کرایا ہے، میلاد مصطفیٰ ﷺ کی مناسبت سے لکھی گئی آپ کی ایک نعت کے چند اشعار سید زہیر کتبی نے اپنی کتاب میں نقل کئے ہیں، شیخ ابراہیم فطانی نے ملائیشیا اور ہندوستان کے علمی دورے کئے تھے۔ (رجال من مکة المکرمہ، ج ۳، ص ۳۳-۵۰، من اعلام القرن الرابع عشر والخیمس عشر، ج ۱، ص ۷-۱۲، محمد ﷺ فی الشعر الحدیث، ڈاکٹر حلمی قاعود، دارالوفاء للطباعة والنشر والتوزیع مصر، طبع اول ۱۴۰۸ھ / ۱۹۸۷ء، ص ۱۸۱-۱۸۲)

[۹۶]۔ شیخ محمد ابراہیم ختبی مدنی حنفی ۱۳۱۴ھ میں مشرقی ترکستان کے شہر خٹن میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم اپنے خاندان کے علماء سے حاصل کی بعد ازاں لکھنؤ، عراق، شام، ترکی وغیرہ ممالک کے سفر کر کے وہاں کے علماء سے استفادہ کیا اور ۱۳۲۸ھ میں حرمین شریفین پہنچ کر مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی، حجاز مقدس میں آپ نے شیخ محمد علی مالکی کے علاوہ شیخ عبدالقادر شلمسی طرابلسی مدنی، محدث حرمین شریفین شیخ عمر حمدان محرمی مدنی، شیخ عمر باجنید کی اور علامہ سید عیدروس بن سالم البار وغیرہ علماء سے علوم اخذ کئے، شیخ محمد ابراہیم ختبی مدینہ منورہ کے مختلف مدارس اور مسجد نبوی میں مدرس رہے، آپ کے شاگردوں میں شیخ محمد سعید دفتر دار، شیخ محمد یاسین فادانی، شیخ حامد مرزا خان (م ۱۳۹۳ھ) اور شیخ عمر محمد فلاتہ اہم ہیں، شیخ محمد ابراہیم کی متعدد تصنیفات ہیں، آپ نے ۱۳۸۹ھ میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ (اعلام من ارض النبوة، ج ۱، ص ۱۹-۲۷)

[۹۷]۔ شیخ محمد بن علی الترمذی ۱۲۹۹ھ میں موجودہ سعودی عرب کے صوبہ القصیم کے صدر مقام عنیزہ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم اپنے شہر کے علماء سے پائی بعد ازاں ۱۳۳۵ھ میں مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ میں داخلہ لیا نیز حرم مکی کے دیگر علماء سے استفادہ کیا، ان میں شیخ عبدالرحمن دھان (م ۱۳۳۷ھ)، مفتی شافعیہ شیخ عبداللہ زواوی، شیخ صالح ابا الفضل اور شیخ محمد علی مالکی اہم ہیں، پھر شیخ محمد الترمذی نے ہندوستان آ کر دہلی، بمبئی اور حیدرآباد کے اہل حدیث علماء سے پڑھا اور

واپس جا کر مدینہ منورہ میں مدرسہ دارالعلوم الشرعیہ (سن تاسیس ۱۳۴۰ھ) اور مسجد نبوی میں مدرس مقرر ہوئے اور عقائد اہل سنت کے خلاف متعدد کتب لکھیں، موصوف کے مزاج میں شدت کی انتہا تھی، مشہور تلامذہ میں شیخ محمد منصور خطاب، شیخ عبید اللہ کردی، شیخ سلیمان الصنیع، شیخ محمد بن سیف، شیخ عبدالعزیز بسام، شیخ عبدالعزیز الفہید اور شیخ عبدالعزیز الفریح کے نام شامل ہیں، شیخ محمد بن علی الترکی نے ۱۳۸۰ھ کو مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ (اعلام من ارض النبوة، جلد دوم، مطبع دارالبلاد جدہ، طبع اول ۱۳۱۵ھ/۱۹۹۴ء، ص ۱۷۹-۱۸۵)

[۹۸]- شیخ حسین عبدالغنی (۱۳۰۸ھ-۱۳۶۶ھ) نے مدرسہ صولتیہ اور مسجد الحرام میں مکہ مکرمہ کے اکابر علماء سے تعلیم پائی، آپ کے دیگر اساتذہ میں شیخ محمد مزدوقی ابو حسین (م ۱۳۶۵ھ)، علامہ سید عبداللہ زواوی، شیخ محمد علی ابوالخیر (م ۱۳۳۸ھ) اور شیخ خلیفہ نبھان اہم ہیں، جب حجاز مقدس میں سعودی عہد کا آغاز ہوا تو شیخ حسین عبدالغنی نے شیخ محمد بن عبدالوہاب وغیرہ کی تصانیف کا مطالعہ کرنے کے بعد انہی کا عقیدہ اختیار کر لیا، بعد ازاں تعلیم اور عدل کے محکموں میں متعدد اعلیٰ عہدوں پر تعینات رہے، اکیس برس تک مکہ مکرمہ کے حج اور پھر اعلیٰ عدالتوں کی کمیٹی کے رکن رہے نیز حرم مکی میں مدرس رہے، شیخ حسین عبدالغنی کی ”ارشاد الساری الی مناسک ملا علی القاری“ وغیرہ چھ تصانیف ہیں۔ (سیر و تراجم، ص ۹۶-۹۸)

[۹۹]- شیخ محمد امین بن ابراہیم احمد فودہ (۱۳۰۷ھ-۱۳۶۵ھ) کے اساتذہ میں ان کے علاوہ شیخ محمد علی مالکی اور شیخ عمر باجنید اہم ہیں، شیخ محمد امین فودہ کو ترکی زبان پر عبور حاصل تھا، آپ عثمانی عہد میں مدرسہ الفلاح (سن تاسیس ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۱ء) اور مدرسہ الرشیدیہ (نویں صدی ہجری میں عثمانی سلاطین نے قائم کیا) مکہ مکرمہ میں مدرس رہے، اور سعودی عہد میں مکہ مکرمہ شعبہ تعلیم کے ڈائریکٹر، محکمہ عدل کے چیف حج وغیرہ متعدد اہم انتظامی عہدوں پر تعینات رہے، شیخ محمد امین فودہ کے شاگردوں میں ان کے بیٹے شیخ ابراہیم امین فودہ (م ۱۳۱۵ھ) کے علاوہ علامہ سید اسحاق عزوز مکی (۱۳۳۰ھ-؟)، خطہ حجاز کے مشہور شاعر و ادیب محمد حسن نقی (۱۳۳۱ھ-؟)

اور شیخ محمد نور سیف اہم ہیں۔ (سیر و تراجم، ص ۲۷۸-۲۸۱، من اعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر، ج ۱، ص ۱۳-۱۸)

[۱۰۰]۔ علامہ سید محسن بن علی مساوی ۱۳۲۳ھ میں فلمبان نامی شہر میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے پائی پھر مدرسہ نور الاسلام و مدرسہ سعادت الدارین میں پڑھا، ۱۳۴۰ھ میں آپ حجاز ہجرت کر گئے اور ۱۳۴۱ھ میں مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ میں داخلہ لیا نیز مسجد الحرام میں تعلیم حاصل کی، ۱۳۴۸ھ میں حضور موت کا سفر کیا اور وہاں سیوون و ترمیم میں علوی علماء سے علوم اخذ کئے، پھر واپس مکہ مکرمہ پہنچے اور مدرسہ صولتیہ میں مدرس مقرر ہوئے، آپ کے اساتذہ میں شیخ محمد علی مالکی، شیخ عمر باجنید، شیخ محمد سعید یمانی، شیخ عبداللہ غازی (م ۱۳۶۵ھ)، شیخ عبدالقادر شلمی، شیخ محمد عبدالباقی لکھنوی، علامہ سید زکی بن احمد برزنجی مدنی (۱۲۹۴ھ-۱۳۶۵ھ)، علامہ سید محمد عبدالحی کتانی وغیرہ اکابر علماء حرمین شریفین شامل ہیں، علامی سید محسن بن علی مساوی کی بعض تصنیفات حجاز مقدس اور ملائیشیا کے مدارس میں بطور نصاب شامل ہیں، ۱۳۵۳ھ میں آپ نے مکہ مکرمہ میں انڈونیشیا کے مہاجر طلباء کے لئے مدرسہ دارالعلوم الدینیہ قائم کیا، آپ کے تلامذہ میں شیخ محمد یاسین فادانی مشہور ہیں، علامہ سید محسن مساوی نے ۱۳۵۴ھ میں وفات پائی۔ (سیر و تراجم، ص ۲۹۳-۲۹۴)

[۱۰۱]۔ شیخ احمد بن عبداللہ ناضرین مکی شافعی (۱۲۹۹ھ-۱۳۷۰ھ) فاضل بریلوی کے خلفاء میں سے ہیں، حالات کے لئے ملاحظہ ہوں: الدلیل المشر، ص ۴۷-۵۱، سیر و تراجم، ص ۴۷-۵۰، اہل الحجاز بعقبہم التاريخی، ص ۲۵۵-۲۵۷

[۱۰۲]۔ علامہ سید محمد طاہر دباغ مکی (۱۳۰۸ھ-۱۳۷۸ھ) نے مکہ مکرمہ کے علاوہ اسکندریہ میں تعلیم پائی، دیگر اساتذہ میں شیخ عمر حمدان، مدرسہ صولتیہ کے مدرس مولانا مشتاق احمد ہندی (انبیٹھوی)، محدث شام علامہ سید بدرالدین حسنی دمشقی اہم ہیں، علامہ سید محمد طاہر دباغ حجاز مقدس کے ہاشمی عہد میں ۱۳۴۳ھ سے ۱۳۴۴ھ تک شریف علی بن حسن کے وزیر خزانہ رہے اور

اسی دوران آپ ایک وفد لے کر ہندوستان آئے، جب حجاز پر آل سعود خاندان کی حکمرانی قائم ہوئی تو بہت سے حجازی باشندوں کی طرح آپ بھی ترک وطن کر گئے اور یمن، مصر، عراق، انڈونیشیا وغیرہ ممالک میں مقیم رہے، ۱۳۵۳ھ میں ابن سعود حجازی رعایا کے لئے عام معافی کا اعلان کیا تو آپ واپس مکہ مکرمہ آ گئے، بعد ازاں آپ مختلف اہم عہدوں پر فائز رہے، آپ کی تصنیفات میں ”السیرۃ النبویہ“ اہم ہے۔ (الدلیل المشیر، ص ۱۱۲-۱۱۴، سیر و تراجم، ص ۲۸۲-۲۸۵، اعلام الحجاز، محمد علی مغربی، جلد اول، مطبع دارالعلم جدہ، طبع دوم ۱۴۰۵ھ/۱۹۸۵ء، ص ۲۸۸-۲۹۴)

[۱۰۳]۔ علامہ سید ابوبکر بن احمد حبشی علوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۲۰ھ-۱۳۷۴ھ) کا نسبی تعلق مکہ مکرمہ کے ایک علمی گھرانہ سے ہے، آپ کے دادا علامہ سید حسین حبشی (م ۱۳۵۲ھ) بھی عالم جلیل اور صوفی کامل تھے، علامہ سید ابوبکر حبشی نے علماء و مشائخ کی کثیر تعداد سے ظاہری و باطنی علوم حاصل کئے، اور ہاشمی عہد میں مجلس شوریٰ کے رکن رہے، ۱۳۳۱ھ میں آپ مدرسہ الفلاح مکہ مکرمہ میں مدرس مقرر ہوئے اور ۱۳۵۳ھ سے ۱۳۶۱ھ تک اس کے مہتمم رہے، اسی دوران تقریباً چھ ماہ تک مدرسہ الفلاح جدہ میں مدرس رہے، ۱۳۶۲ھ میں محکمہ عدل سے وابستہ ہوئے اور اپنی وفات تک شہر مکہ مکرمہ کے جج رہے، علامہ سید ابوبکر علوی رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء کے متعدد سلاسل میں مختلف مشائخ سے مجاز تھے، آپ نے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ علامہ سید ابوبکر بن سالم البار رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۰۱ھ-۱۳۸۴ھ) سے سلسلہ علویہ عیدروسیہ میں خلافت پائی، علامہ سید ابوبکر علوی ۱۳۴۸ھ میں بسلسلہ علاج بمبئی تشریف لائے اور وہاں تین ماہ مقیم رہے، آپ کی تصنیفات کی تعداد پانچ ہے، آپ کا زندہ جاوید کارنامہ آپ کی تصنیف ”الدلیل المشیر“ ہے جس میں آپ نے اپنے ایک سو پانچ اساتذہ و مشائخ کے حالات اور اسناد و مرویات درج کئے ہیں، بڑی تقطیع کے ۶۳۱ صفحات پر مشتمل کمپیوٹر کمپوزنگ سے آراستہ اس اہم کتاب کا پہلا ایڈیشن ۱۹۹۷ء میں مکہ مکرمہ سے شائع ہوا، اس کتاب کے متعدد صفحات پر فاضل بریلوی کا ذکر ضمنی طور پر کیا گیا ہے مثلاً ایک مقام پر آپ کا اسم گرامی ان القاب کے ساتھ درج ہے:

”مولانا بركة الوجود وزينة الدنيا، تاج العلماء الاعلام، صاحب التأليف
الكثيرة، والفصائل الشهيرة المولوى الحاج احمد رضا خان البريلوى رحمه الله رحمة
واسعة“ (ص ۳۸۸)

نیز اس کتاب میں فاضل بریلوی کی تصنیفات کے مقررین میں سے شیخ محمد امین سوید
دمشقی، شیخ محمد سعید یمانی، شیخ عمر ابی بکر باجنید مکی، شیخ عبدالقادر طرابلسی شلمی مدنی، علامہ یوسف بن
اسماعیل نبھانی اور آپ کے عرب خلفاء میں سے علامہ سید ابوبکر بن سالم البار، شیخ احمد بن عبداللہ
ناصرین، علامہ سید محمد مرزوقی ابو حسین مکی، شیخ محمد علی مالکی، شیخ عمر حمدان محری اور علامہ سید محمد عبدالحی
کتانی رحمہم اللہ تعالیٰ کے حالات درج ہیں۔ (الدلیل المشر)۔

[۱۰۴]۔ شیخ زکریا عبداللہ بیلا مکی (۱۳۲۹ھ-۱۴۱۳ھ) نے مکہ مکرمہ کے محلہ المعلاۃ
میں واقع مدرسہ ہاشمیہ (ہاشمی عہد میں قائم ہوا) نیز مدرسہ صولتیہ اور مسجد الحرام میں تعلیم پائی،
آپ کے دیگر اساتذہ میں شیخ حسن بن مشاط، شیخ عبداللہ نمقانی بخاری (م ۱۳۶۳ھ)، شیخ عمر
حمدان محری، شیخ مختار بن عثمان مخدوم سمرقندی بخاری (م ۱۳۶۷ھ)، علامہ سید ہاشم بن عبداللہ
شرطت (م ۱۳۸۰ھ)، شیخ عمر بن ابی بکر باجنید مکی، علامہ سید ابوبکر بن سالم البار، شیخ محمد عبداللہ
بافیل حضرمی مکی (م ۱۳۵۱ھ)، مولوی زکریا کاندھلوی اور علامہ سید عبدالحی کتانی وغیرہ علماء شامل
ہیں۔

شیخ زکریا بیلا مدرسہ صولتیہ اور مسجد الحرام میں مدرس رہے نیز بارہ سے زائد کتب تصنیف
کیں جن میں چند کے نام یہ ہیں: الجواهر الحسان فی تراجم الفضلاء والاعیان،
اعلام ذوی الاحتشام باختصار افادۃ الانام بجواز القیام لاهل الفضل
والاحترام، التعليق الزین علی کتاب المسح علی الجوربین، تعليق علی رسالة
فی سنة الجمعة القبلیہ۔ (من اعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر، ج ۱، ص ۴۹-۵۳)

[۱۰۵]۔ شیخ ابوالفیض محمد یاسین عیسیٰ فادانی شافعی انڈونیشی مکی (۱۳۳۵ھ-۱۴۱۱ھ)

نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد کے علاوہ چچا شیخ محمود فادانی سے پائی، بعد ازاں مدرسہ صولتیہ میں داخلہ لیا نیز مسجد الحرام اور مکہ مکرمہ میں علماء کے گھروں میں قائم مدارس میں تعلیم پائی، آپ کے اساتذہ کی تعداد چار سو سے زائد ہے، ان میں شیخ محمد سعید یمانی مکی شافعی، شیخ عیسیٰ رواں مکی (م ۱۳۶۵ھ)، مفتی حلب شیخ محمد اسعد عجمی، مفتی سعید احمد لکھنوی، علامہ جمیل صدیقی زھاوی عراقی اور شیخ طاہر بن عاشور تیونس (۱۲۹۶ھ-۱۳۹۵ھ) کے نام شامل ہیں۔

شیخ محمد یاسین فادانی مسجد الحرام میں حلقہ درس قائم کرتے نیز مدرسہ دارالعلوم الدینیہ میں علم حدیث اور اسناد کے استاد رہے، پاک و ہند اور بنگلہ دیش سمیت متعدد ممالک میں آپ کے لاتعداد شاگرد موجود ہیں، آپ کی متعدد تصنیفات میں سے چند کے نام یہ ہیں: **مطمح الوجدان فی اسانید الشیخ عمر حمدان، المسلك الجلی فی اسانید الشیخ محمد علی، بغیة المرید من علوم الاسانید (چار ضخیم جلدوں میں)، الوصل الراجی فی اسانید وترجمة الشہاب احمد المخلاتی، العجالة المکیہ فی اسانید سعید سنبل، النفعة المسکیہ فی الاسانید المتصلہ بالاولئ السنبلیہ۔ (من اعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر، ج ۱، ص ۱۶۹-۱۷۲، المسلك الجلی، ص ۱، اول)**

[۱۰۶]- شیخ محمد حسن بن محمد مشاط (۱۳۱۷ھ-۱۳۹۹ھ) مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے،

ابتدائی تعلیم کے بعد ۱۳۲۹ھ میں مدرسہ صولتیہ میں داخلہ لیا اور وہاں سے ۱۳۳۶ھ میں سند تکمیل پائی، علاوہ ازیں حرمین شریفین کے دیگر علماء نیز وہاں پر حاضر ہونے والے عالم اسلام کے اکابر علماء کرام سے استفادہ کیا، آپ کے اہم اساتذہ و مشائخ کے نام یہ ہیں، شیخ عبدالرحمن دھان مکی (م ۱۳۳۷ھ)، علامہ محقق محدث شیخ حمدان بن محمد الجزیری الوینسی المدنی (م ۱۳۳۸ھ)، علامہ شیخ محمد ہاشم فوتی مدنی (م ۱۳۳۹ھ)، شیخ عبدالستار صدیقی کتبی مکی (م ۱۳۵۳ھ)، فقیہ شافعی علامہ شیخ ابو حفص عمر بن ابی بکر باجنید مکی، علامہ محدث شیخ علی بن طیب مصری مہاجر مدنی (م ۱۳۵۹ھ)، علامہ محمد عبدالباقی لکھنوی مہاجر مدنی، علامہ شیخ محمد حبیب اللہ شنیطی جکنی،

علامہ شیخ عیسیٰ بن علامہ محمد رواس (م ۱۳۶۵ھ)، شیخ عبداللہ غازی مکی، شیخ محمد علی مالکی، علامہ سید عیدروس بن علامہ سید سالم البار، نعمان وقتہ و محدث عصرہ شیخ عبدالقادر شلمی مدنی، علامہ محدث شیخ ابو حفص عمر حمدان محری مدنی، علامہ مصطفیٰ بن علامہ احمد محھا ر حضرمی قویری، علامہ سید ابوالحسن علی بن سید عبدالرحمن حبشی اور علامہ سید محمد عبدالحی کتانی مراکشی، شیخ حسن مشاط بطن مادر میں تھے کہ آپ کے والد ماجد نے نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے فرزند عطا تو میں اسے حرم شریف کی خدمت کے لئے وقف کروں گا، آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور آپ کے ہاں شیخ حسن مشاط پیدا ہوئے، دینی علوم میں کمال حاصل کیا اور مدرسہ صولتیہ و مسجد الحرام میں تدریس کی نیز تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا اور تمام عمر خدمت علم میں گزار دی، آپ سرکاری مناصب کے حصول سے گریزاں رہے لیکن سعودی حکومت نے بہ اصرار ۱۳۶۴ھ میں مکہ مکرمہ کی اعلیٰ عدالت کے جج علامہ سید زکی بن احمد برزنجی مدنی کی وفات پر اس منصب پر آپ کو تعینات کیا اور ۱۳۷۲ھ میں آپ مجلس شوریٰ کے رکن بنائے گئے، لیکن ان تمام تر مناصب کے باوجود آپ نے مدرسہ صولتیہ میں تدریس کو برابر اہمیت دی اور مسلسل تیس برس تک بلا ناغہ پڑھاتے رہے، علاوہ ازیں مسجد الحرام میں بھی آپ باقاعدگی سے حلقہ درس قائم کرتے، حج کے ایام کا ازدھام یا آپ کی دیگر مصروفیات آپ کے اس معمول میں کبھی آڑے نہ آسکیں، آپ نے علم کی یہ خدمت بلا معاوضہ انجام دی، حرمین شریفین اور انڈونیشیا و ملائیشیا میں آپ کے شاگردوں نے مدارس اور اسلامی تنظیمیں قائم کیں، شیخ حسن مشاط کے مشہور تلامذہ کے نام یہ ہیں: علامہ سید محسن بن علی مساوی، شیخ زکریا بن عبداللہ بیلا، مسجد الحرام کے مدرس اور ام القریٰ یونیورسٹی مکہ مکرمہ کے استاد شیخ علی بن بکر سلیمان کنوی، شیخ محمد یاسین بن عیسیٰ فادانی، حرمین شریفین کے بڑے علماء میں سے ایک شیخ عبداللہ احمد در دوم، مدرسہ صولتیہ کے مدرس شیخ عثمان بن محمد سعید تنکل، قاری مکہ مکرمہ شیخ زین عبداللہ باویان، پروفیسر ڈاکٹر سید محمد بن علوی مالکی حسنی مکی، مسجد الحرام کے مدرس الدعوة کالج ریاض کے استاد اور دارالافتاء الریاض کے رکن شیخ اسمعیل بن محمد انصاری تنکی (م ۱۴۱۷ھ)، حجاز کے مشہور محقق پروفیسر ڈاکٹر عبدالوہاب ابوسلیمان

مکی، شیخ علامہ سید طاہر بن محمد مراکشی ادریسی، انڈونیشیا میں جمعیت نہضتہ الوطن کے بانی اور متعدد کتب کے منصف شیخ محمد زین الدین انمفتانی (انڈونیشیا بھر میں مذکورہ تنظیم کے تحت چار سو سے زائد مدارس قائم ہو چکے ہیں اور ان میں شیخ حسن مشاط کے متعدد شاگرد خدمات انجام دے رہے ہیں)، جمعیت نہضتہ العلماء انڈونیشیا کے دو اہم رہنما شیخ زین العابدین اور شیخ عبدالرحمن۔

شیخ حسن مشاط کے متعدد تصنیفات میں سے چودہ کے نام یہ ہیں: الجواهر الثمینہ فی ادلہ اهل المدينة، انارة الدجی فی مغازی خیر الوری علیہ السلام، رفع الاستار علی طلعة الانوار، التقریرات السنیة فی شرح المنظومة البیقونیه، التحفة السنیة فی احوال الورثة الاربعینیہ، اسعاف اهل الايمان بوظائف شهر رمضان، اسعاف اهل الاسلام بوظائف الحج الی بیت الله الحرام، اربعون حدیثاً فی الترغیب والترہیب، نصائح دینیہ ووصایا ہامہ، بغیة المسترشدين بترجمة الائمة المجتہدین، حکم الشریعة المحمدیة فی تعلیم المسلمین اولادہم بالمدارس الاجنبیة، الحدود البہیہ فی القواعد المنطقیہ، تعلیقات شریفہ علی لب الاصول، الارشاد بذکر بعض مالی الاجازة والاسناد، ڈاکٹر عبدالوہاب ابوسلیمان نے آپ کی تصنیف ”الجواهر الثمینہ“ پر تحقیق کی اور اس کے آغاز میں شیخ محمد حسن مشاط نیز آپ کے اہم شاگردوں کے حالات قلمبند کئے اور آپ کے فرزند شیخ احمد مشاط کی مساعی سے یہ کتاب ۱۴۰۶ھ میں شائع ہوئی۔ (الارشاد بذکر بعض مالی من الاجازة والاسناد، شیخ محمد حسن مشاط، مطبع وناشر کا نام اور سن اشاعت درج نہیں، اعلام الحجاز، محمد علی مغربی، جلد سوم، طبع اول، مطبع مدنی شارع عباسیہ قاہرہ، ۱۴۱۰ھ/۱۹۹۰ء، ص ۳۰۸-۳۳۵)

[۱۰۷]- شیخ محمود زہدی بن عبدالرحمن (۱۳۰۲ھ - ۱۳۷۶ھ) مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، تعلیم مکمل کرنے کے بعد مسجد الحرام اور مدرسہ صولتیہ میں مدرس مقرر ہوئے، ۱۳۲۴ھ یا اس کے بعد آپ ملائیشیا چلے گئے اور وہاں سلا نقور نامی علاقہ کے ”شیخ الاسلام“ قرار پائے، ۱۳۷۳ھ

میں آپ واپس مکہ مکرمہ آگئے اور وفات تک مدرسہ صولتیہ میں تدریس سے وابستہ رہے، آپ کی تصنیفات کے نام یہ ہیں: تدرج الصیان فی البیان، جنیۃ الثمرات فی النحو۔ (سیر و تراجم حاشیہ، ص ۱۲۲، الارشاد، ص ۵۷)

[۱۰۸]۔ مفتی قطننا علامہ سید ابراہیم غلامی گیلانی نقشبندی مجددی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۰۰ھ/۱۸۸۲ء - ۱۳۷۷ھ/۱۹۵۸ء) دمشق کے مقام قطننا میں پیدا ہوئے اور جن مقامی علماء و مشائخ سے تعلیم مکمل کی ان میں ”الاقوال المرضیۃ فی الرد علی الوہابیہ“ نامی کتاب کے مصنف و مفتی شام شیخ محمد عطاء اللہ کسم حنفی (۱۲۶۰ھ/۱۸۴۳ء - ۱۳۵۷ھ/۱۹۳۸ء)، قول گنگوہی کی تردید میں ”استحباب القیام عند ذکر ولاتہ علیہ الصلوٰۃ والسلام“ نامی مقالہ کے مصنف شیخ محمود عطار دمشقی، محدث کبیر علامہ سید محمد بدرالدین حسنی، قطب شام شیخ سلیم بن خلیل مسوتی حنفی خلوتی دمشقی ارناؤطی (۱۲۴۸ھ/۱۸۳۲ء - ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۶ء) اور ”النفحة الزکیہ فی الرد علی الوہابیہ“ نامی کتاب کے مصنف و ماہنامہ ”الحقائق“ دمشق (سنہ ۱۳۲۸ھ) کے بانی شیخ عبدالقادر اسکندرانی گیلانی رحمہم اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، علامہ سید ابراہیم غلامی نے سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں فقیہ شافعیہ شیخ کردی دمشقی (۱۲۴۷ھ/۱۸۳۱ء - ۱۳۳۱ھ/۱۹۱۲ء) کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کی نگرانی میں چالیس یوم خلوت نشین رہنے کے بعد خلافت پائی، اور قطننا میں امامت و خطابت نیز تدریس کا سلسلہ شروع کیا پھر ۱۳۳۰ھ میں آپ مفتی قطننا قرار پایا اور پچاس برس تک اسی مقام پر یہ خدمات انجام دیں، آپ سے بکثرت کرامات کا ظہور ہوا جن میں سے چند تاریخ علماء دمشق ”میں درج ہیں، زندگی کے آخری ایام میں آپ مرض میں مبتلا ہوئے تو شام کے صدر شکر قوتلی نے آپ کے علاج کے لئے خصوصی احکامات جاری کئے، آپ کی وفات پر شعراء نے مرثیے لکھے اور ”تمدن اسلامی“ وغیرہ دمشق کے رسائل نے آپ کی خدمات کو سراہا، دمشق کی جامع مسجد اموی میں ”رابطہ العلماء“ نامی اہم تنظیم کی طرف سے آپ کی یاد میں ایک تعزیتی تقریب منعقد ہوئی، آپ کی قبر دمشق میں علامہ سید بدرالدین حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پہلو میں واقع

ہے۔ (تاریخ علماء دمشق، ج ۲، ص ۶۸۷-۶۹۲، المسلك الجلی، ص ۵۷)

[۱۰۹]۔ فقیہ شافعیہ علامہ سید محمد بدرالدین بن علامہ سید ابراہیم غلامی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۳۰ھ/۱۹۱۰ء-۱۳۱۱ھ/۱۹۹۱ء) دمشق میں پیدا ہوئے، اپنے والد ماجد کے علاوہ رابطۃ العلماء کے صدر شیخ محمد ابو الخیر میدانی حنفی نقشبندی مجددی دمشقی (۱۲۹۳ھ/۱۸۷۵ء-۱۳۸۰ھ/۱۹۶۱ء) اور شیخ توفیق ایوبی (م ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء) سے تعلیم پائی، بعد ازاں محدث شام علامہ سید بدرالدین حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اردن کے مقام زرقا میں سات برس تک امامت و خطابت کے فرائض انجام دیئے، پھر اپنے والد ماجد کی جگہ جامع مسجد قطننا میں ذمہ داریاں سنبھالیں نیز دمشق اور اس کے گرد و نواح کی مساجد میں درس دینا شروع کیا، آپ نے جدہ میں وفات پائی اور المعلى قبرستان مکہ مکرمہ میں تدفین عمل میں آئی۔ (تاریخ علماء دمشق، ج ۳، ص ۵۶۱-۵۶۲، المسلك الجلی، ص ۵۷)

[۱۱۰]۔ شیخ احمد بن یوسف قستی (۱۲۹۶ھ - ۱۳۶۷ھ) کے اجداد انڈونیشیا کی ریاست بنجر کے سلاطین تھے، آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور مسجد الحرام میں تعلیم پائی، آپ کے دیگر اساتذہ میں شیخ عمر سبواہ، شیخ علی بلنجیور، شیخ صالح بافضل، شیخ عمر باجنید اور شیخ عبدالستار دہلوی اہم ہیں، شیخ احمد قستی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ۱۳۲۵ھ میں انڈونیشیا چلے گئے اور وہاں ۱۳۲۷ھ میں مدرسہ سقاف اور ۱۳۳۱ھ میں مدرسہ عطاس قائم کئے، ۱۳۳۸ھ میں وہاں پر حج بنائے گئے، بعد ازاں اس منصب سے مستعفی ہو کر ۱۳۴۹ھ میں واپس مکہ مکرمہ آگئے جہاں مسجد الحرام اور دارالعلوم الدینیہ میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا، ۱۳۵۴ھ میں شیخ طنطاوی جوہری مصری (۱۲۸۷ھ/۱۸۷۰ء-۱۳۵۸ھ/۱۹۴۰ء) کی "تفسیر الجواہر" کا ملاوی زبان میں ترجمہ شروع کیا لیکن اس کی تکمیل سے قبل وفات پائی۔ (سیر و تراجم، ص ۵۲-۵۶، اہل الحجاز بعقبہم التاريخی، ص ۳۰۳-۳۰۴، المسلك الجلی، ص ۵۷)

[۱۱۱]۔ المسلك الجلی، ص ۵۶-۵۷

- [۱۱۲]۔ ایضاً، ص ۵۸-۵۹ وغیرہ
- [۱۱۳]۔ ایضاً، ص ۴۴-۴۸
- [۱۱۴]۔ ایضاً، ص ۵۹
- [۱۱۵]۔ الدلیل المشیر، ص ۲۷۴
- [۱۱۶]۔ سیر و تراجم، ص ۲۶۴
- [۱۱۷]۔ فہرس مخطوطات مکتبہ مکہ المکرمۃ، ص ۶۰
- [۱۱۸]۔ ایضاً، ص ۸۶
- [۱۱۹]۔ ایضاً، ص ۸۷
- [۱۲۰]۔ ایضاً، ص ۱۰۷
- [۱۲۱]۔ ایضاً، ص ۱۲۳
- [۱۲۲]۔ ایضاً، ص ۱۲۶
- [۱۲۳]۔ الدلیل المشیر، ص ۲۷۲
- [۱۲۴]۔ فہرس مخطوطات مکتبہ مکہ المکرمۃ، ص ۱۲۸
- [۱۲۵]۔ ایضاً، ص ۱۳۰
- [۱۲۶]۔ ایضاً، ص ۱۴۱
- [۱۲۷]۔ ایضاً، ص ۱۵۹
- [۱۲۸]۔ ایضاً، ص ۱۵۸-۱۵۹
- [۱۲۹]۔ سیر و تراجم، ص ۲۶۳، المسلك الجلی، ص ۵۹
- [۱۳۰]۔ المسلك الجلی، ص ۵۹
- [۱۳۱]۔ فہرس مخطوطات مکتبہ مکہ المکرمۃ، ص ۱۹۳
- [۱۳۲]۔ ایضاً، ص ۱۹۴

- [۱۳۳] - سیر و تراجم، ص ۵۲، اهل الحجاز بعقبہم التاريخی، ص ۳۰۴
- [۱۳۴] - فہرس مخطوطات مکتبہ مکہ المکرمہ، ص ۲۰۹
- [۱۳۵] - ایضاً، ص ۲۲۷-۲۲۸
- [۱۳۶] - ایضاً، ص ۳۲۹-۳۳۰
- [۱۳۷] - ایضاً، ص ۲۴۱
- [۱۳۸] - ایضاً، ص ۲۴۶-۲۴۷
- [۱۳۹] - ایضاً، ص ۲۹۳، الدلیل المشیر، ص ۲۷۲
- [۱۴۰] - فہرس مخطوطات مکتبہ مکہ المکرمہ، ص ۲۵۴
- [۱۴۱] - ایضاً، ص ۲۹۵
- [۱۴۲] - ایضاً، ص ۳۰۶
- [۱۴۳] - ایضاً، ص ۳۰۷
- [۱۴۴] - ایضاً، ص ۳۰۷
- [۱۴۵] - ایضاً، ص ۳۰۹
- [۱۴۶] - ایضاً، ص ۳۱۲
- [۱۴۷] - ایضاً، ص ۳۲۳
- [۱۴۸] - ایضاً، ص ۳۳۱-۳۳۲
- [۱۴۹] - ایضاً، ص ۳۵۳
- [۱۵۰] - الدلیل المشیر، ص ۲۷۲
- [۱۵۱] - المسلك الجلی، ص ۵۹
- [۱۵۲] - فہرس مخطوطات مکتبہ مکہ المکرمہ، ص ۳۵۴
- [۱۵۳] - المسلك الجلی، ص ۵۸

[۱۵۴]- فہرس مخطوطات مکتبہ مکتہ المکرمہ، ص ۳۹۷

[۱۵۵]- ایضاً، ص ۴۱۴

[۱۵۶]- ایضاً، ص ۴۳۶

[۱۵۷]- الدلیل المشیر، ص ۲۷۲-۲۷۳، المسلك الجلی، ص ۵۸-۵۹

[۱۵۸]- الفیض الرحمانی باجازة فضیلة الشیخ محمد تقی العثماني، شیخ ابی الفیض محمد یاسین

بن محمد عیسیٰ فادانی مکی، دار البشائر الاسلامیہ بیروت لبنان، طبع اول ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء، ص ۳

[۱۵۹]- المسلك الجلی، ص ۳

[۱۶۰]- ایضاً، ص ۵۵

[۱۶۱]- الاجازات المتیئنه، ص ۴۹

[۱۶۲]- سیر و تراجم، ص ۲۶۲

[۱۶۳]- الدلیل المشیر، ص ۲۷۱، ۲۷۲، رجال من مکتبہ المکرمہ، ج ۳، ص ۳۷، ۴۸،

جب کہ المسلك الجلی، ص ۶۱، سیر و تراجم، ص ۲۶۰، ۲۶۵ پر آپ کا سن وصال ۱۳۶۸ھ لکھا ہے جو

درست معلوم نہیں ہوتا۔

[۱۶۴]- الدلیل المشیر، ص ۲۷۲

[۱۶۵]- نشر النور، ص ۱۶۳، سیر و تراجم، ص ۹۰

[۱۶۶]- علامہ شیخ عبدالوہاب شافعی بصری ثم مکی (م ۱۳۲۲ھ) اپنے دور کے مشہور

فقہاء میں سے ایک تھے، آپ نے ۱۲۹۱ھ میں ترک وطن کر کے مکہ مکرمہ میں سکونت اختیار کی اور شیخ

عبدالحمید داغستانی شافعی (م ۱۳۰۱ھ)، علامہ سید محمد صالح زواوی شافعی نقشبندی مجددی مکی (

م ۱۳۰۸ھ) وغیرہ فضلاء مکہ مکرمہ سے مزید تعلیم پائی بعد ازاں مسجد الحرام میں مدرس تعینات

ہوئے اور طالبان علم کی کثیر تعداد آپ سے فیض یاب ہوئی، شیخ عبدالوہاب بصری نے تقریباً اسی

سال کی عمر میں وفات پائی اور قبرستان المعلیٰ میں تدفین عمل میں آئی۔ (نشر النور، ص ۳۳۴)

[۱۶۷]۔ علامہ سید عبدالکریم داغستانی شافعی (م ۱۳۳۸ھ) در بند شہر میں پیدا ہوئے، اپنے علاقہ کے علماء کے علاوہ مصر، تونس، بمبئی اور استنبول میں تعلیم پانے کے بعد ۱۲۹۷ھ میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے حجاز مقدس کا قصد کیا اور مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہو کر علامہ باجوری کے شاگرد شیخ عبدالحمید داغستانی شافعی سے مزید تعلیم حاصل کی پھر مسجد الحرام میں مدرس تعینات ہوئے، نیز مدرسہ داؤدیہ میں واقع اپنے رہائشی کمرہ میں بھی حلقہ درس قائم کیا، آپ کے شاگردوں میں شیخ جمال مکی کے علاوہ شیخ عمر باجنید، شیخ سعید یمانی، شیخ مختار عطار (م ۱۳۳۹ھ) اور شیخ محمد باقر جاوی نے علم و فضل میں نام پایا، علامہ سید عبدالکریم داغستانی نے ایک سو بیس برس سے زائد عمر پائی (نثر النور، ص ۲۷۹، سیر و تراجم، ص ۲۱۲)، فاضل بریلوی کی کتاب حسام الحرمین میں علامہ سید عبدالکریم داغستانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریظ موجود ہے۔

[۱۶۸]۔ نثر النور، ص ۱۶۳

[۱۶۹]۔ سیر و تراجم، ص ۹۰-۹۱

[۱۷۰]۔ الدلیل المشیر، ص ۱۱۳

[۱۷۱]۔ مجموع فتاویٰ و رسائل، ص ۷

[۱۷۲]۔ الاجازات المتینہ، ص ۴۹

[۱۷۳]۔ سیر و تراجم، ص ۹۰-۹۲

[۱۷۴]۔ مجموع فتاویٰ و رسائل، ص ۱۱

فہرست ماخذ

عربی

- [۱]۔ الاجازات المتینہ لعلماء بکة والمدینة، مولانا احمد رضا خان بریلوی، تمہید از قلم مولانا حامد رضا خان بریلوی، منظمة الدعوة الاسلامیة جامعہ نظامیہ رضویہ لوہاری دروازہ لاہور
- [۲]۔ الارشاد بذکر بعض مالی من الاجازة والاسناد، شیخ محمد حسن محمد مشاط، سن اشاعت و مطبع کا نام درج نہیں، سن تصنیف ۱۳۷۰ھ
- [۳]۔ اعلام الحجاز فی القرن الرابع عشر للهجرة، محمد علی مغربی، جلد اول، طبع دوم، ۱۴۰۵ھ/ ۱۹۸۵ء، مطبع دارالعلم للطباعة والنشر جدہ
- [۴]۔ اعلام الحجاز فی القرن الرابع عشر للهجرة، محمد علی مغربی، جلد دوم، طبع دوم، ۱۴۱۵ھ/ ۱۹۹۴ء، مطبع دارالبلاد جدہ
- [۵]۔ اعلام الحجاز فی القرن الرابع عشر للهجرة وبعض القرون الماضية، محمد علی مغربی، جلد سوم، طبع اول، ۱۴۱۰ھ/ ۱۹۹۰ء، مطبع المدنی شارع العباسیہ القاہرہ
- [۶]۔ اعلام من ارض النبوة، انس یعقوب کتبی، جلد اول، طبع اول، ۱۴۱۴ھ/ ۱۹۹۳ء، ناشر انس یعقوب کتبی پوسٹ بکس نمبر ۳۷۵، فون نمبر ۳۹۰۳۹۰۳۸۴۰ مدینہ منورہ، مطبع دارالبلاد جدہ
- [۷]۔ اعلام من ارض النبوة، انس یعقوب کتبی، جلد دوم، طبع اول، ۱۴۱۵ھ/ ۱۹۹۴ء، مطبع دارالبلاد جدہ
- [۸]۔ اهل الحجاز بعقبهم التاريخی، حسن عبدالحی قزاز، طبع اول ۱۴۱۵ھ/ ۱۹۹۴ء، مطبع دارالعلم جدہ
- [۹]۔ محدث الشام العلامة السيد بدرالدین الحسنی، آپ کے تلامذہ اور احباب کے لکھے گئے مضامین کا مجموعہ، جمع و ترتیب محمد بن عبداللہ آل الرشید، طبع اول ۱۴۱۹ھ/ ۱۹۹۸ء،

دارالحنان شارع الحمراء بناء هلال فون نمبر ۲۲۳۲۳۶۶ دمشق

[۱۰]۔ تاریخ علماء دمشق فی القرن الرابع عشر الهجری، محمد مطیع حافظ و نزار اباظه، جلد اول، دوم، طبع اول ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء، والفکر للطباعة والتوزيع والنشر شارع سعد الله الجابری پوسٹ بکس، ۹۶۲، دمشق

[۱۱]۔ تاریخ علماء دمشق فی القرن الرابع عشر الهجری، محمد مطیع حافظ و نزار اباظه، جلد سوم، طبع اول ۱۴۱۲ھ/۱۹۹۱ء، والفکر دمشق

[۱۲]۔ التحریر الوجیز فیما یتغیہ المستجیز، محمد زاہد بن حسن الکوثری، تحقیق شیخ عبدالفتاح ابو غده، طبع اول ۱۴۱۳ھ/۱۹۹۳ء، مکتب المطبوعات الاسلامیہ حلب

[۱۳]۔ حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، سن طباعت ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵ء، مکتبہ نبویہ لاہور

[۱۴]۔ الدلیل المشری الی فلک اسانید الاتصال بالجیب صلی اللہ وسلم علی آلہ ذوی الفضل الشہیر وصحبہ ذوی القدر الکبیر، علامہ سید ابی بکر بن احمد حبشی علوی، طبع اول ۱۴۱۸ھ/۱۹۹۷ء، المکتبہ المکیہ حی الحجرة، فون و فیکس نمبر ۵۳۴۰۸۲۲ مکة المکرمة

[۱۵]۔ الدولتہ المکیہ بالمادۃ الغیبیۃ، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، نذیر سنز اردو بازار

لاہور

[۱۶]۔ رجال من مکة المکرمة، زہیر محمد جمیل کتبی، جلد سوم، طبع اول ۱۴۱۲ھ/۱۹۹۲ء، ناشر زہیر محمد جمیل کتبی پوسٹ بکس نمبر ۹۰۶۸ فون نمبر ۵۳۶۶۶۱۱ مکہ مکرمہ

[۱۷]۔ سیر و تراجم بعض علماءنا فی القرن الرابع عشر للهجرة، عمر عبدالجبار، طبع سوم، ۱۴۰۳ھ/۱۹۸۲ء، مکتبہ تہامتہ، پوسٹ بکس نمبر ۵۴۵۵ جدہ

[۱۸]۔ علماء العرب فی شبہ القارة الهندیة، شیخ یونس ابراہیم السامرائی، طبع اول

۱۹۸۶ء، وزارت اوقاف و مذہبی امور عراق بغداد

[۱۹]- فہرس مخطوطات مکتبہ مکہ المکرمۃ، لائبریری ہذا کے مدیر شیخ عبدالمالک طرابلسی کی نگرانی میں دس اہل علم نے مل کر مرتب کی جن کے نام یہ ہیں: ڈاکٹر عبدالوہاب ابراہیم ابوسلیمان، ڈاکٹر محمود حسن زینی، ڈاکٹر محمد حبیب ہیلہ، ڈاکٹر صالح جمال بدوی، ڈاکٹر عبداللہ نذیر احمد، ڈاکٹر حمدی عبدالمنعم شلیسی، ڈاکٹر فواد عبدالمنعم احمد، ڈاکٹر عبداللہ صالح شاوش، عبدالرحمن بن سعد سلطان، فراح عطا سالم، طبع اول ۱۴۱۸ھ/۱۹۹۷ء، مکتبہ الملک فہد الوطنیہ الرياض

[۲۰]- الفیض الرحمانی باجازۃ فضیلتہ الشیخ محمد تقی العثماني، شیخ ابی الفیض محمد یاسین بن محمد عیسیٰ فادانی مکی، طبع اول ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء، دارالبشائر الاسلامیہ للطباعة والنشر والتوزیع، پوسٹ بکس نمبر ۵۹۵۵-۱۳ بیروت

[۲۱]- مجموع فتاویٰ ورسائل، امام سید علوی مالکی حسی، جمع و ترتیب علامہ سید محمد بن علوی مالکی حسی، طبع اول ۱۴۱۳ھ

[۲۲]- محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الشعر الحدیث، ڈاکٹر حلمی قاعود، طبع اول ۱۴۰۸ھ/۱۹۸۷ء، دارالوفاء للطباعة والنشر والتوزیع المنصورة مصر

[۲۳]- المختصر من کتاب، نشر النور والزهر فی تراجم افاضل مکہ - من القرن العاشر الی القرن الرابع عشر، شیخ عبداللہ مرداد مکی، اختصار و ترتیب و تحقیق محمد سعید عامودی و احمد علی کاظمی بھوپالی مکی، طبع دوم ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء، عالم المعرفۃ پوسٹ بکس نمبر ۶۷۷۵ فون نمبر ۲۹۰۷۷۷۷۷۷۷ جده

[۲۴]- المسلك الجلی فی اسانید فضیلتہ الشیخ محمد علی، شیخ محمد یاسین فادانی، طبع اول، سن اشاعت درج نہیں، دارالطباعۃ المصریۃ الحدیثہ

[۲۵]- مشیدات دمشق ذوات الاضرحة وعناصرها الجمالیة، ڈاکٹر قتیبہ شہابی، طبع اول ۱۹۹۵ء، وزارت ثقافت شام دمشق

[۲۶]- من اعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر، ابراہیم عبداللہ حازمی، جلد اول ۱۴۱۶ھ/۱۹۹۵ء، دار الشریف للنشر والتوزیع پوسٹ بکس نمبر ۵۲۴۷۹ ریاض

- [۲۷]۔ نزہتہ الخواطر، علامہ سید عبدالحی ندوی لکھنوی، ترتیب و حواشی سید ابوالحسن علی ندوی، جلد ہشتم ۱۳۹۶ھ/۱۹۷۶ء، نور محمد کارخانہ تجارت کتب کراچی
- [۲۸]۔ روزنامہ الندوۃ، مکہ مکرمہ، شمارہ ۱۳، رجب ۱۴۱۸ھ/۱۳ نومبر ۱۹۹۷ء
- [۲۹]۔ مفت روزہ، الیمامۃ، ریاض، شمارہ ۲۶، رمضان ۱۴۱۸ھ/۲۳ جنوری ۱۹۹۸ء، خانہ کعبہ کے موجودہ کنجی بردار شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ شیبی کا انٹرویو
- [۳۰]۔ ماہنامہ الضیاء، دہلی، شمارہ ربیع الاول ۱۴۱۹ھ/جولائی ۱۹۹۸ء

اُردو

- [۱]۔ انوار ساطعہ در بیان مولود و فاتحہ، مولانا عبدالسمیع میرنھی (رام پور منہاراں)، مطبع مجتہائی دہلی، ۱۳۴۶ھ
- [۲]۔ براہین قاطعہ، مولوی خلیل احمد نیٹھوی، ضمیرہ مولوی محمد منظور نعمانی لکھنوی، دارالاشاعت اردو بازار کراچی
- [۳]۔ روئیداد تاریخ مناظرہ بہاولپور اسمی تقدیس الوکیل عن توحین الرشید و الخلیل، مولانا غلام دستگیر قصوری، حالات مصنف از قلم علامہ پیرزادہ اقبال احمد فاروقی، نوری بک ڈپولاہور
- [۴]۔ فصول من تاریخ المدینۃ المنورۃ، علی حافظ مدنی، اردو ترجمہ بنام ابواب تاریخ المدینۃ المنورہ، آل حسن صدیقی، طبع اول ۱۴۱۷ھ/۱۹۹۶ء، یہ اردو ترجمہ اصل عربی کتاب کی تلخیص ہے، مطبع شرکت المدینۃ المنورۃ للطباعة والنشر جدۃ
- [۵]۔ ماہنامہ اعلیٰ حضرت، بریلی، شمارہ اکتوبر، نومبر ۱۹۹۰ء، مفتی اعظم ہند نمبر
- [۶]۔ ماہنامہ ضیائے حرم، لاہور، شمارہ فروری ۱۹۹۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فاضل بریلوی اور امام ابراہیم

دھان مکی کا خاندان

نویں صدی ہجری کے آخری عشروں میں دھان خاندان فتن شہر سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ جا بسا، دھان کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی زبان میں تاجر کو ”دھنی“ کہتے تھے جو کہ اس خاندان کے جد اعلیٰ کا لقب تھا، جب یہ خاندان مکہ مکرمہ پہنچا تو دھنی کا لفظ معرب ہو کر دھان بن گیا [۱] پھر مکہ مکرمہ بلکہ پوری عرب دنیا میں خاندان ”الدھان“ کے نام سے معروف ہوا اور صدیوں تک مکہ مکرمہ کے علمی و روحانی خاندانوں میں شمار ہوا، مختلف ادوار میں اس میں متعدد علماء کرام و اولیاء عظام ہو گزرے جن میں سے امام ابراہیم دھان، شیخ تاج الدین دھان، شیخ احمد دھان، شیخ اسعد دھان اور شیخ عبدالرحمن دھان رحمہم اللہ تعالیٰ کے علمی مقام و خدمات کا مورخین نے بطور خاص ذکر کیا ہے، آئندہ سطور میں ان علماء کے حالات نیز فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے تعلق کی تفصیلات پیش کی جا رہی ہیں۔

(۱) امام ابراہیم دھان حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰۵۳ھ)

امام ابراہیم بن عثمان بن عبدالنبی بن عثمان بن عبدالنبی دھان رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، شیخ عبدالنبی بلخی رحمۃ اللہ علیہ [۲] سے عربی علوم و فقہ پڑھی اور عارف باللہ شیخ طریقت فخر مکہ صفی الدین شیخ احمد بن ابراہیم علان صدیقی نقشبندی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ [۳] سے بیعت کر کے خلافت پائی اور کئی برس تک آپ سے فیض یاب ہوئے، نیز علامہ سید صبغت اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اکابر علماء سے استفادہ کیا، تعلیم مکمل کرنے کے بعد شیخ ابراہیم دھان صفا و مروہ کے درمیان بہرام آغا کے قائم کردہ مدرسہ میں استاد ہوئے، جہاں لاتعداد طلباء نے آپ سے تعلیم پائی

اور مشہور علماء میں شمار ہوئے، آپ کے شاگردوں میں صاحب تصانیف جلیلہ الامام الکبیر فقیہ العصر شیخ ابراہیم ابوسلمہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ [۴] اور شیخ محمد علی بخاری قرظی حنفی رحمۃ اللہ علیہ [۵] جیسے اکابر علماء مکہ شامل ہیں۔

شیخ ابراہیم دھان رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی کے حد درجہ مطیع و فرمانبردار تھے، آپ پڑھانے میں مگن ہوتے اور ایسے میں والد ماجد کی طرف سے طلبی کا پیغام موصول ہوتا تو آپ تدریس کا سلسلہ روک کر فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی ضرورت پوری کرتے اور پھر واپس آ کر تدریس جاری رکھتے، شیخ ابراہیم دھان عمر بھر فروغ علم اور رشد و ہدایت میں مصروف رہے نیز آپ نے شیخ تاج الدین مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے ”رسالۃ فی نقض القسمة“ کا رد لکھا۔ [۶]

مکہ مکرمہ میں طبقہ اول کے عالم، ادیب و شاعر شیخ بدر الدین خوج حنفی رحمۃ اللہ علیہ [۷] نے شیخ ابراہیم دھان کا تعارف ان الفاظ میں ذکر کیا ہے:

”الشیخ الامام العلامة الفقیہ المفتی فی العلوم الدینیۃ،

المجمع علی جلالۃ فیہا، وتبحرہ واحاطتہ بالعلوم العقلیۃ“

شیخ ابراہیم دھان نے ۱۰۵۳ھ/۱۶۶۳ء میں وفات پائی۔ [۸]

(۲) امام تاج الدین دھان رحمۃ اللہ علیہ

امام الفقہاء فی عصرہ، مدرس مسجد احرام شیخ تاج الدین بن احمد بن امام ابراہیم دھان بن عثمان بن عبدالنبی بن عثمان بن عبدالنبی دھان حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر علماء مکہ سے تعلیم پائی، فقیہ حنفی، سو سے زائد کتب کے مصنف، مفتی مکہ مکرمہ شیخ ابراہیم بیری رحمۃ اللہ علیہ [۹] جیسے اکابرین سے استفادہ کیا نیز الامام الکبیر شیخ الشیوخ محدث حجاز مسند العصر قدوة الصالحین صاحب تصانیف کثیر شیخ حسن عجمی رحمۃ اللہ علیہ [۱۰] کی خدمت میں طویل عرصہ حاضر رہے اور فقہ تفسیر

حدیث اصول نحو وغیرہ متعدد علوم میں تعلیم مکمل کی، شیخ تاج الدین دھان مسجد حرام میں مدرس رہے، اپنے دور کے عظیم فقیہ و ولی کامل ہوئے اور خلق کثیر آپ سے فیض یاب ہوئی، آپ عمر بھر درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور عبادت میں مشغول رہے، آپ کی تصانیف یہ ہیں:

۱۔ اجادة النجدة بمنع القصر فی طریق جدۃ، علماء مکہ مکرمہ کے درمیان مسئلہ زیر بحث آیا کہ مکہ مکرمہ سے جدہ تک سفر میں قصر نماز جائز ہے یا نہیں، شیخ قطب الدین نھر والی مکی قادری رحمۃ اللہ علیہ [۱۱] وغیرہ بعض علماء مکہ نے اس کے جواز پر فتویٰ دیا، بعد ازاں شیخ ابراہیم بیری مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلہ پر ”رسالة فی حکم قصر الصلاة فی طریق جدۃ“ لکھی، اور شیخ تاج الدین دھان نے مذکورہ مسافت کے دوران قصر نماز کے عدم جواز پر یہ کتاب لکھی جو آپ نے ۲۸/ رمضان ۱۱۲۲ھ کو مکمل کی، اجادة النجدة کے کل چار مخطوطات ہیں ان میں سے دو مکتبہ مکہ مکرمہ میں ۶/ مجامع ۱۳۰۶ھ اور ۳۸/ فقہ حنفی ۱۳۱۱ھ موجود ہیں، تیسرا نسخہ ام القرئی یونیورسٹی مکہ مکرمہ کے مرکزی کتب خانہ میں ۴۰۳/۴ اور چوتھا مکتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم طائف میں ۱۴۸/ ۴ محفوظ ہے، یہ کتاب ۱۳۳۱ھ میں مطبع ماجدہ مکہ مکرمہ میں طبع ہوئی۔ [۱۲]

۲۔ کفایۃ المتطلع لما ظهر و خفی، من مرویات الشیخ حسن بن علی عجیمی، دو ضخیم جلدوں اور چار ابواب پر مشتمل یہ کتاب آپ نے اپنے استاد شیخ حسن بن علی عجیمی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور اسانید و مرویات پر تصنیف کی، مؤرخین نے اس کے مختلف نام ذکر کئے جو یہ ہیں، کفایۃ المطالع [۱۳] کفایۃ المطلع [۱۴] کفایۃ المستطلع او کفایۃ المستطلع ونہایۃ المتطلع [۱۵] کفایۃ الالمطلع [۱۶] اور محققین نے آخر الذکر نام درست قرار دیا، اس کا ایک مخطوطہ مکہ مکرمہ میں شیخ ہشام عجیمی کے ذخیرہ کتب میں موجود ہے جو ۲۱۴ صفحات پر مشتمل ہے اور اسے شیخ محمد یاسین فادانی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ [۱۷] نے نقل کیا، دوسرا مخطوطہ پبلک ایبیری رباط مراکش میں ۱۰۹۸/ ذخیرہ کتابی ۱۵۲ صفحات محفوظ ہے، علاوہ ازیں مکتبہ حرم مکی میں کفایۃ المتطلع نام کے دو مخطوطات ۷۹۶، ۷۹۷ ہیں، شیخ عبداللہ بن عبدالرحمن معلی

یعنی (پ ۱۳۴۷ھ) جو تیس برس سے زائد عرصہ تک مکتبہ حرم مکی سے وابستہ رہے اور آخر میں اس کے محافظ بنے پھر ۱۴۰۸ھ میں ملازمت پوری کر کے سبکدوش ہوئے بعد ازاں اس مکتبہ میں موجود تمام مخطوطات کی فہرست مرتب کی جو ۷۳۸ صفحات پر شائع ہوئی، شیخ عبداللہ نے نہ جانے کیوں کفایۃ المتطلع کے مذکورہ دونوں مخطوطات کو شیخ حسن عجمی کی تصنیف قرار دے دیا [۱۸]، اب سے تقریباً ایک صدی قبل فہرس الفہارس کے مصنف نے مکہ مکرمہ میں اس کتاب کی ایک جلد دیکھی اور اس سے استفادہ کیا [۱۹] بعد ازاں شیخ محمد یاسین فادانی مکی نے نہ صرف یہ کہ اس کتاب سے استفادہ کیا بلکہ اس کا ایک نسخہ نقل کیا، علم روایت پر گہری نظر رکھنے والے ان دونوں علماء کے علاوہ دیگر تذکرہ نگار اس پر متفق ہیں کہ یہ کتاب شیخ تاج الدین دھان رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے جو ۱۹۹۴ھ تک شائع نہیں ہوئی [۲۰]، خود شیخ حسن عجمی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف موضوعات پر متعدد رسائل و کتب تصنیف کئے لیکن اس نام کی ان کی کوئی تصنیف نہیں، ہاں شیخ حسن عجمی نے جن علماء و مشائخ سے استفادہ کیا یا جن اکابرین سے آپ کی ملاقاتیں رہیں ان کے حالات پر آپ نے کتاب ضرور لکھی لیکن اس کا نام ”خبایا الزوایا“ ہے جس کا مخطوط، اس کی فونو کاپی اور مائیکروفلم حرم مکی میں ہی موجود ہے، نیز آپ نے اپنے حالات زندگی پر کتاب ”اسبال الستر الجمیل علی ترجمة العبد الذلیل“ لکھی جس کا مخطوط مکتبہ مکہ مکرمہ میں محفوظ ہے۔ [۲۱]

۳۔ تشقیف و عی الالباب بتلخیص الآیة و احادیث بدء الوہی للباب،

مخطوط مکتبہ حرم مکی ۶۶/۳۷۱- [۲۲]

۴۔ رسالۃ فی القنوت فی الفجر و غیرہا من باقی الاوقات، عند

حدوث النازلات

۵۔ رسالۃ فی الاستخارۃ بجمیع ما یتعلق بہا۔ [۲۳]

امام تاج الدین دھان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے جو اکابر علماء میں شمار

ہوئے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں:

- ۱۔ عارف باللہ فقیہ حنفی صاحب تصانیف علامہ سید امین میر غنی مکی رحمۃ اللہ علیہ [۲۴]
 ۲۔ مدرس مسجد حرام استاذ العلماء شیخ عبدالرحمن فتنی مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ [۲۵]
 ۳۔ عارف کامل محدث فقیہ نوے سے زائد کتب کے مصنف شیخ محمد عقیلہ مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ [۲۶]

حضرت شیخ تاج الدین دھان رحمۃ اللہ علیہ کے سنین ولادت و وفات کہیں درج نہیں
 تاہم آپ نے طویل عمر پا کر ۱۱۶۰ھ / ۱۷۷۷ء کے بعد وفات پائی [۲۷]
 امام الآئمہ محدث اعظم مراکش پیر طریقت علامہ سید محمد عبدالحی کتانی رحمۃ اللہ علیہ
 [۲۸] نے فہرس الفہارس میں پانچ مقامات پر امام تاج الدین دھان کا ذکر کیا، مؤرخ حجاز و استاد
 العلماء شیخ احمد حضراوی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ [۲۹] نے ”تاج توارخ البشر“ میں [۳۰] اور شیخ
 الخطباء والائمة مسجد الحرام وقاضی مکہ مکرمہ شیخ عبداللہ ابوالخیر مرداد شہید مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ [۳۱]
 نے ”نشر النور“ میں آپ کے مفصل حالات درج کئے، اور یہی اس موضوع پر بنیادی ماخذ ہیں
 [۳۲]، امام تاج الدین دھان رحمۃ اللہ علیہ کے یہ تینوں سوانح نگار، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ
 کے خلفاء میں سے ہیں۔

(۳) عارف باللہ شیخ احمد دھان رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۹۴ھ)

ولی کامل استاذ العلماء شیخ احمد بن اسعد بن احمد بن امام تاج الدین بن احمد بن امام
 ابراہیم بن عثمان بن عبدالنبی بن عثمان بن عبدالنبی رحمۃ اللہ علیہ ذی الحجہ ۱۲۲۲ھ / ۱۸۰۸ء میں مکہ
 مکرمہ میں پیدا ہوئے، صاحب نزہۃ الخواطر نے آپ کا اسم گرامی یوں لکھا ”السید احمد بن عقیف
 بن اسعد الدھان الحضرمی“ [۳۳]، موصوف کی اس عبارت میں چار اغلاط ہیں، پہلی یہ کہ شیخ احمد
 دھان ”سید“ خاندان کے فرد نہیں تھے، دوسری ”عقیف“ آپ کا لقب ہے نہ کہ والد ماجد کا نام،
 آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی اسعد ہے، تیسری آپ کے دادا کا نام بھی احمد ہے اسعد نہیں اور

چوتھی یہ کہ جنوبی یمن کے علاقہ حضرموت سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، لہذا مذکورہ عبارت یوں ہونی چاہیے تھی: ”الشیخ العفیف، احمد بن اسعد بن احمد بن تاج الدین الدھان المکی“۔ [۳۴]

شیخ احمد دھان نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اکابر علماء کرام شیخ محمد فیلہ رحمۃ اللہ علیہ [۳۵]، مفتی شافعیہ شیخ احمد میاطی مصری مکی مدنی رحمۃ اللہ علیہ [۳۶]، مدرس مسجد حرام عالم جلیل شیخ ابراہیم کسکلی مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ [۳۷]، عارف باللہ صاحب تصانیف مفتی مالکیہ علامہ سید احمد مرزوقی حنفی مصری مکی رحمۃ اللہ علیہ [۳۸]، مفتی بنگال محدث مفسر مدرس مسجد حرام شیخ محمد مراد بنگالی مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ [۳۹]، صاحب ادل الخیرات علامہ اسماعیل آفندی اذحتکلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہری و باطنی علوم حاصل کئے اور فقہ و حدیث میں کمال پایا، آپ کے سب سے اہم استاد و مربی علامہ سید احمد مرزوقی رحمۃ اللہ علیہ تھے جو گھر میں درس دیا کرتے جہاں شیخ احمد دھان طویل عرصہ آپ کی خدمت میں حاضر رہے اور بھرپور استفادہ کیا۔

حضرت شیخ احمد دھان رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد گھر پر حلقہ درس قائم کیا جہاں لاتعداد طالبان علم آپ سے فیض یاب ہوئے، آپ تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ کی تعلیم دیا کرتے تھے، آپ تصوف کے موضوع پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ (م ۵۰۵ھ) کی تصنیف ”احیاء علوم الدین“ کا درس دینے میں شہرت رکھتے تھے چنانچہ دور دراز کے طلباء آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا درس سماعت کرتے [۴۰]، شیخ احمد دھان مکہ مکرمہ کے اہم عالم دین، ولی کامل، زاہد و عابد اور تواضع و انکسار وغیرہ اوصاف حمیدہ سے متصف تھے، درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور نقلی عبادات میں مشغول رہنے کے ساتھ ساتھ آپ کا معمول تھا کہ پانچوں نمازیں مسجد حرام میں ادا کیا کرتے، آپ کی دو تصنیفات کے نام معلوم ہو سکے جو یہ ہیں:

۱۔ المواہب المکیۃ بنفیض العطیۃ، علم تجوید پر ایک جامع کتاب [۴۱] سن تالیف ۱۲۶۰ھ، مکتبہ حرم مکی میں اس کے دو مخطوطات ۳۸۰۵، ۳۹۸۹ بنام ”المواہب المکیۃ فی تعریف تجوید الابدائیۃ“ و دارالکتب مصریہ قاہرہ میں ایک مخطوط ۶۷ موجود ہے۔ [۴۲]

۲۔ مبسوط الکافی فی العروض والقوافی [۴۳]

شیخ احمد دھان رحمۃ اللہ علیہ سے عرب و عجم کے لاتعداد اہل علم نے استفادہ کیا آپ کے شاگردوں میں سے چند اہم نام یہ ہیں:

۱۔ امام مسجد حرام، مرشد السالکین و مربی المریدین، علامہ سید صالح الحسینی اور یسعی زواوی

مکی شافعی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ [۴۴]

۲۔ مسند شام خاتمة الحمد شین محقق، جامع مسجد بنو امیہ دمشق کے خطیب علامہ سید محمد ابو

النصر خطیب دمشقی شافعی جیلانی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ [۴۵]

۳۔ مسند العصر علامہ سید محمد علی بن طاہر و تری حسنی نجفی مدنی حنفی رحمۃ اللہ علیہ [۴۶]

۴۔ عالم دین و مصلح شیخ سلیم بخاری دمشقی [۴۷]

۵۔ عارف باللہ علامہ سید ابوبکر بن عبدالرحمن بن شہاب الدین حضرمی رحمۃ اللہ علیہ

نزہیل حیدر آباد دکن [۴۸]

۶۔ علامہ شیخ صالح بن سلیمان بن عبدالستار مہاجر مکی [۴۹]

۷۔ عارف باللہ و عالم جلیل شاہ ابوالخیر عبداللہ مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ [۵۰]

۸۔ آ رہ ہندوستان کے غیر مقلد عالم، کتاب فقہ محمدی کے مصنف مولوی ابراہیم

آروی (م ۱۳۱۹ھ) مدفون مکہ مکرمہ [۵۱]

۹۔ مولوی عبداللہ بایزید پوری (م ۱۳۲۸ھ) گیا (صوبہ بہار، ہندوستان) کے غیر

مقلد عالم [۵۲]

حضرت شیخ احمد دھان حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۲۹۴ھ / ۱۸۷۷ء میں مکہ مکرمہ میں وفات

پائی اور جنت المعالی قبرستان میں آسودۂ خاک ہوئے [۵۳]، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ

احمد دھان رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی، آپ کی وفات کے تقریباً ایک سال بعد یعنی

۱۲۹۵ھ میں فاضل بریلوی نے پہلا سفر حج اختیار کیا۔

(۴) جسٹس مکہ مکرمہ شیخ اسعد دھان رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۴۱ھ)

شیخ اسعد بن علامہ احمد بن اسعد بن احمد بن فہامہ تاج الدین بن احمد بن فقیہ امام ابراہیم بن عثمان بن عبدالنبی بن عثمان بن عبدالنبی دھان مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ۱۲۸۰ھ/۱۸۶۴ء کے بعد مکہ شرفہ میں پیدا ہوئے، آپ شیخ دھان کے بڑے فرزند ہیں، آپ نے قرآن مجید حفظ کیا اور فن تجوید سیکھ کر اس میں کمال حاصل کیا پھر مسجد حرام میں بارہا نماز تراویح کی امامت فرمائی، آپ طلب علم میں مشہور تھے، شیخ اسعد دھان نے مدرسہ صولتیہ [۵۴] و مسجد حرام نیز بلد حران کے جملہ علماء و مشائخ عظام سے تعلیم پائی، علامہ جلیل مولانا رحمت اللہ کیرانوی مہاجر کی رحمت اللہ علیہ [۵۵] کے حلقہ درس میں پہنچے اور آپ سے نحو، صرف، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، توحید، منطق، حساب، معانی، بیان، ہندسہ وغیرہ علوم پڑھے، نیز مولانا کیرانوی کے شاگرد مولانا حضرت نور افغانی پشاوری مہاجر کی رحمت اللہ علیہ [۵۶] کی خدمت میں باقاعدگی سے حاضر رہے اور آپ سے متعدد علوم اخذ کئے، مولانا اسماعیل نواب رحمۃ اللہ علیہ [۵۷] سے منطق اور تصوف کے علوم پڑھے، علامہ عبدالحمید داغستانی شروانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ [۵۸] سے حدیث کی کتاب ترمذی شریف اور مفتی احناف شیخ عبدالرحمن سراج مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ [۵۹] سے تفسیر پڑھی، علاوہ ازیں حافظ عبداللہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ [۶۰] اور مفتی شافعیہ شیخ الاسلام علامہ سید احمد بن زینی دحلان شافعی رحمۃ اللہ علیہ [۶۱] کی شاگردی اختیار کی نیز شیخ حسین جسر طرابلسی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۲۷ھ) اور علامہ سید محمد ابوالنصر خطیب دمشقی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حرین شریفین وارد ہونے والے علماء و مشائخ سے استفادہ کیا [۶۲]، شیخ اسعد دھان رحمۃ اللہ علیہ نے کثیر علوم میں مہارت تامہ حاصل کی پھر مسجد حرام میں مدرس تعینات ہوئے جہاں خلق کثیر آپ سے فیض یاب ہوئی اور جم غفیر نے نفع پایا۔ [۶۳]

شیخ اسعد دھان مشہور علما مکہ میں سے تھے، کوتاہ قد، نحیف جسم اور داڑھی گھنی تھی، علماء کا

وقار اور ہیبت آپ کی شخصیت عیاں تھے، زہد و ورع اور اخلاص میں اپنے بھائی حضرت شیخ عبدالرحمن دھان رحمۃ اللہ علیہ سے کمتر نہ تھے لیکن حصول علم کی غرض و غایت، اس کی اشاعت اور عبادت کے لئے گوشہ نشینی تک محدود خیال نہ فرماتے، بلکہ آپ علم دین کے لئے عملی زندگی کے معرکوں میں شرکت اور امت کی فلاح و بہبود کے لئے رو بہ عمل ہونے کو ضروری سمجھتے تھے، لہذا آپ علم کی خدمت کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے مختلف اہم عہدوں کی سوچی گئی عظیم ذمہ داریوں کو بھی پورا فرماتے، جو آپ کی صلاحیت و اہلیت کے پیش نظر آپ کے سپرد کی جاتیں [۶۳]، چنانچہ گورنر مکہ مشرف سید حسین بن علی [۶۵] نے آپ کو شرعی مقدمات نبٹانے والے نائب کا معاون اور مجلس تعزیرات شرعیہ کا رکن مقرر کیا، نیز گورنر نے آپ کو شرعی عدالت میں نیابت کی ذمہ داری سنبھالنے کو کہا لیکن شیخ اسعد دھان نے معذرت کر دی اور یہ منصب قبول نہیں کیا، علاوہ ازیں آپ معلمین سے معاملات کی چھان بین کرنے والے ادارے ہئیۃ مجلس مدقیقات امور المطوفین [۶۶] کے صدر رہے، قبل ازیں آپ کے چچا شیخ محمد دھان رحمۃ اللہ علیہ اس ادارے سے وابستہ رہ چکے تھے [۶۷]، شیخ اسعد دھان رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۳۷ھ [۶۸] میں مکہ مکرمہ شہر کے حج بنائے گئے، لیکن ان تمام تر مصروفیات کے ساتھ آپ مسجد حرام میں واقع مدرسہ سلیمانیہ میں درس دیتے، گورنر مذکور نے تدریس کے لئے آپ کا وظیفہ مقرر کر رکھا تھا، آپ صبح و شام باب سلیمانیہ کے برآمدہ میں حلقہ درس کرتے جس میں بالعموم علماء اور ممتاز طلباء شرکت کیا کرتے، آپ نے ہمہ جہت مشاغل کے باوجود تدریس کا یہ سلسلہ کبھی منقطع نہیں کیا [۶۹]، عمر عبدالجبار کی [۷۰] نے آپ کے حلقہ درس میں شرکت کی پھر آپ کے خطاب کا نمونہ اپنی کتاب میں درج کیا، شیخ اسعد دھان نے تمام ذمہ داریاں پوری تندہی، اخلاص اور زیرگی سے نبھائیں اور مشکلات کے حل کرنے میں پوری لیاقت، دانائی اور دشمنوں کو ساتھ لے کر چلنے کے سلیقہ سے کام لیا۔ [۷۱]

حضرت مولانا شیخ اسعد دھان رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے چند نام یہ ہیں:

۱۔ عارف باللہ مدرس مسجد حرام علامہ شیخ عمید روس بن سالم البار رحمۃ اللہ علیہ [۷۲]

۲۔ مدرس مسجد حرام شیخ السادة العلوية علامہ شیخ صالح بن سید علوی بن عقیل شافعی رحمۃ

اللہ علیہ [۷۳]

۳۔ مدرس مسجد حرام قاضی شیخ بکر بن محمد سعید با بصیل شافعی رحمۃ اللہ علیہ [۷۴]

۴۔ مدرس مسجد حرام، مجلس شوریٰ کے نائب صدر، محکمہ تعلیم کے ڈائریکٹر علامہ شیخ سید

صالح بن ابوبکر شطا شافعی [۷۵]

۵۔ مدرس مسجد حرام، قاضی، محکمہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے صدر شیخ عبدالعزیز

عکاس نجدی [۷۶]

۶۔ مدرس مسجد حرام شیخ محمد علی بلخیور [۷۷]

۷۔ مدرس مسجد حرام و مدرسہ صولتیہ و مدرسہ فلاح مکہ مکرمہ، قاضی، فاضل بریلوی کے

خلیفہ شیخ احمد ناضرین مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ [۷۸]

۸۔ مدرس مسجد حرام علامہ فقیہ محدث معقولی شیخ حسن یمانی مکی شافعی رحمۃ اللہ

علیہ [۷۹]

۹۔ مدرس مسجد حرام قاضی شیخ سالم شفی [۸۰]

شیخ اسعد دھان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم کام یہ انجام دیا کہ دھان خاندان کے اکابر

علماء حرام کے حالات شیخ عبداللہ ابوالخیر مرداد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فراہم کئے جو انہوں نے اپنی

تصنیف ”نشر النور“ میں شامل کئے اور یہی کتاب دھان علماء کے حالات پر سب سے اہم ماخذ ہے،

شیخ عبداللہ مرداد لکھتے ہیں کہ شیخ اسعد دھان جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں آپ حظ لطیف

کے مالک، تلاوت قرآن مجید اور اذکار کے پابند ہیں، آپ کے رات اور دن مختلف ذمہ داریوں

میں منقسم ہیں۔ [۸۱]

مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۷۲ھ - ۱۳۳۰ھ / ۱۸۵۶ء - ۱۹۲۱ء)

دوسری بار حج و زیارت کے لئے ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۶ء میں مکہ مکرمہ پہنچے تو دیگر اکابر علماء مکہ کی طرح شیخ

اسعد دھان رحمۃ اللہ علیہ نے فاضل بریلوی سے متعدد بار ملاقات کی، مختلف اہم علمی موضوعات پر باہم تبادلہ خیالات کیا پھر فاضل بریلوی کی دو عربی تصنیفات، وسعت علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہابیہ کے شکوک و شبہات اور اعتراضات کے ازالہ کے لئے لکھی گئی کتاب ”الدولتہ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ“ (۱۳۲۳ھ) اور علماء دیوبند، غیر مقلد وہابیہ، قادیانیہ کے بعض عقائد و افکار کے بارے میں شرعی حکم جاننے کے لئے مرتب کی گئی ”حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین“ (۱۳۲۳ھ) پر شیخ اسعد دھان نے تقریظات قلمبند کیں نیز مختلف اسلامی علوم میں فاضل بریلوی سے اجازت و خلافت پائی۔

شیخ اسعد دھان نے حسام الحرمین پر تقریظ لکھتے ہوئے فاضل بریلوی کے علم و فضل کا اعتراف ان الفاظ میں کیا:

”نادرة الزمان ونتيجة الاوان العلامة الذي افتخرت به

الواخر على الاوائل والفهامه الذي ترك بيتيانه سبحان باقل

سیدی وسندی الشیخ احمد رضا خان البریلوی“۔ [۸۲]

اور فاضل بریلوی نے آپ کے نام سند اجازت جاری کرتے ہوئے ان القاب سے

نوازا:

”حسنة الزمان مولنا اشیخ اسعد الدهان“ [۸۳]

”الشیخ الاسعد الامجد الاوحد الارشد المتضلع من الفنون الحائز

بین الاصول والغصون مولنا اشیخ اسعد الدهان ابن العالم العامل الفاضل

الکامل الولی العارف باللہ الرحمن حضرۃ الشیخ المرحوم بکرم اللہ تعالیٰ احمد

الدهان“۔ [۸۴]

شیخ اسعد دھان رحمۃ اللہ علیہ کے سنین ولادت و وفات دونوں میں اختلاف ہے،

نثر النور سے اتنا واضح ہے کہ آپ ۱۲۸۰ھ کے بعد اور ۱۲۸۳ھ سے قبل پیدا ہوئے [۸۵] جبکہ

عمر عبد الجبار اور ان کی اتباع میں دیگر تذکرہ نگاروں نے آپ کا سن وفات ۱۳۳۸ھ لکھا [۸۶] اور شیخ عبد اللہ غازی ہندی مہاجر کی [۸۷] کے بقول آپ کی وفات ۱۳۳۱ھ میں ہوئی [۸۸]، راقم السطور نے ان مصادر سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شیخ اسعد دھان کی حنفی ۱۲۸۰ھ سے ۱۲۸۲ھ کے درمیانی عرصہ میں اس جہان فانی میں آئے اور ۱۳۳۱ھ میں رحلت فرمائی۔ رحمۃ اللہ علیہ

(۵) استاذ العلماء شیخ عبدالرحمن دھان رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۷ھ)

مسجد حرام و مدرسہ صولتیہ کے مدرس، ماہر فلکیات شیخ عبدالرحمن بن علامہ احمد بن اسعد بن امام تاج الدین بن احمد بن امام ابراہیم بن عثمان بن عبدالنبی بن عثمان بن عبدالنبی دھان کی حنفی رحمۃ اللہ علیہ ۱۲۸۳ھ/۱۸۶۶ء میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، تعلیم کی ابتداء اپنے والد ماجد شیخ احمد دھان رحمۃ اللہ سے کی، قرآن مجید حفظ کیا نیز تجوید سیکھی پھر مسجد حرام میں نماز تراویح کی امامت پر مامور ہوئے، شیخ عبدالرحمن دھان نے مزید حصول علم کے لئے مدرسہ صولتیہ میں داخلہ لیا اور فخر العلماء پایہ حریم شریفین مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی رحمۃ اللہ علیہ سے نحو، منطق، توحید، فقہ، ہندسہ وغیرہ علوم و فنون کی متعدد کتب پڑھیں، مولانا اسماعیل نواب کابل کی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں طویل عرصہ حاضر رہے اور آپ سے منطق، تصوف وغیرہ علوم اخذ کئے [۸۹]، نیز شیخ الاسلام علامہ سید احمد بن زینی دحلان شافعی رحمۃ اللہ علیہ [۹۰]، مفتی احناف شیخ عبدالرحمن سراج حنفی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبداللہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ملا یوسف بنگالی رحمۃ اللہ علیہ [۹۱] کی شائردی اختیار کی، علامہ جلیل شیخ عبدالحمید داعستانی شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ترمذی شریف پڑھی اور شیخ عبدالحمید بخش ہندی رحمۃ اللہ علیہ [۹۲] سے علم فلک سیکھ کر اپنے دور کے اہم ماہرین فلکیات میں شمار ہوئے۔

شیخ عبدالرحمن دھان رحمۃ اللہ علیہ مسجد حرام نیز مدرسہ صولتیہ میں مدرس مقرر ہوئے جہاں طالبان علم نے آپ سے بھرپور استفادہ کیا اور آنے والے دور میں آپ کے شاگردوں میں

سے بہت بڑی تعداد اکابر علماء مکہ میں شمار ہوئی، آپ مسجد حرام میں باب سلیمانہ کے سامنے برآمدہ میں حلقہ درس منعقد کرتے جس میں تفسیر، حدیث اور فقہ وغیرہ علوم میں تعلیم دیا کرتے، عمر عبدالجبار مکی نے علم تفسیر پر آپ کے چند دروس سماعت کئے پھر ان کا خلاصہ اپنی کتاب میں درج کیا اور لکھا کہ شیخ عبدالرحمن دھان رحمۃ اللہ علیہ اکابر علماء مکہ میں سے تھے، آپ زہد و ورع، تواضع اور علم و فضل میں مشہور تھے، آپ ہمیشہ سفید لباس زیب تن کیا کرتے، آپ حلقہ درس میں تدریس میں مشغول ہوتے یا گھر پر آرام کر رہے ہوتے، کہیں جا رہے ہوتے یا کسی مقام پر استراحت فرما ہوتے، ہر حال میں غرباء و فقراء نیز اپنے سے چھوٹی عمر والوں کی تواضع آپ کے معمولات میں سے تھی، آپ امیر و غریب، عالم و جاہل غرضیکہ ہر طبقہ کے افراد سے ملاقات پر خندہ پیشانی سے پیش آتے، آپ اچھے دل اور صاف نیت، تدریس میں مخلص، طلباء کو دینی علوم میں ترقی پیدا کرنے میں بے تاب، صابر و شاکر، وسیع القلب، سخی، کشادہ اخلاق اور نرم مزاج کے مالک تھے، اہل مکہ میں آپ اعلیٰ مقام اور اہمیت رکھتے تھے، آپ کی بات اور رائے کو قابل احترام سمجھا جاتا، آپ کی وفات کے بعد عرصہ دراز تک علماء مکہ کی مجالس میں آپ کا ذکر جمیل جاری رہا۔ [۹۳]

شیخ الخطباء والائمة مسجد الحرام، جسٹس مکہ مکرمہ شیخ عبداللہ مرداد ابو الخیر شہید رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں کہ شیخ عبدالرحمن دھان طویل عرصہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ مدرسہ میں استاد رہے جہاں آپ نے یہ ذمہ داری احسن طریقہ سے نبھائی اور آپ کے لائق تعداد تلامذہ مسجد حرام میں مدرس تعینات رہے، گورنر مکہ حسین بن علی آپ کے قدردان تھے، انہوں نے آپ کو شرعی عدالت میں جج کی نیابت اور اس نوعیت کے دیگر اہم سرکاری مناصب پیش کئے لیکن شیخ عبدالرحمن دھان نے معذرت کر دی، آپ ولی کامل تھے، عمومی مجالس سے دور رہتے اور عوام میں زیادہ وقت گزارنا پسند نہ کرتے، آپ نے اپنی تمام توجہ تدریس پر مرکوز رکھی یہی وجہ ہے کہ خلق کثیر آپ سے فیض یاب ہوئی۔ [۹۴]

شیخ عبدالرحمن دھان رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اہم شاگرد عالم جلیل صاحب تصانیف

مدرس مدرسہ فلاح مکہ مکرمہ شیخ محمد یحییٰ امان کتبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کا ذکر ان الفاظ میں کیا:

” فضيلة الاستاذ الكبير والعلامة النحرير المتفنن الوحيد

قدوة العلماء العاملين ذوالقدم الراسخ في العلوم العقلية

والنقلية المرحوم الشيخ عبدالرحمن دهان“ [۹۵]

استاذ العلماء شیخ عبدالرحمن دهان رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے جنہوں نے مختلف

علمی شعبوں میں اہم خدمات انجام دیں اور اپنے نام تاریخ کے صفحات پر یادگار چھوڑے، ان میں

سے کچھ نام یہ ہیں:

۱۔ مدرس مسجد حرام علامہ سید حسین بن ابوبکر شطاطی شافعی [۹۶]

۲۔ مدرس مسجد حرام ماہر فلکیات، سیاح، صاحب تصانیف، شاعر شیخ خلیفہ نبھانی بحرینی

مکی مالکی [۹۷]

۳۔ مدرس مسجد حرام رکن مجلس شوریٰ شیخ صالح بن شیخ محمد سعید یمانی مکی شافعی [۹۸]

۴۔ مدرس مسجد حرام شاعر و ادیب صاحب تصانیف شیخ عبدالحمید قدس مکی شافعی [۹۹]

۵۔ مدرس مسجد حرام شیخ عیسیٰ رواں [۱۰۰]

۶۔ مدرس مسجد حرام نگران و خادم حرم شیخ محمد کامل سندھی [۱۰۱]

۷۔ مدرس مسجد حرام شیخ محمد علی رھبانی [۱۰۲]

۸۔ مدرس مسجد حرام شاعر و مؤرخ صاحب تصانیف شیخ محمد بن خلیفہ نبھانی [۱۰۳]

۹۔ مدرس مسجد حرام و مدرسہ صولتیہ شیخ حامد قاری حنفی [۱۰۴]

۱۰۔ مدرس مسجد حرام و مدرسہ صولتیہ، قاضی رکن مجلس شوریٰ صاحب تصانیف استاذ

العلماء شیخ حسن محمد مشاط مالکی [۱۰۵]

۱۱۔ مدرس و امام مسجد حرام، قاضی، صاحب تصانیف محکمہ امر بالمعروف مکہ مکرمہ کے صدر

علامہ سید محمد نور کتبی حنفی [۱۰۶]

۱۲۔ مدرس حرمین شریفین و مدرسہ علوم شرعیہ مدینہ منورہ صاحب تصانیف قاضی شیخ محمد علی ترکی نجدی [۱۰۷]

۱۳۔ امام مسجد حرام رکن مجلس شوری ناظم مدرسہ فلاح مکہ مکرمہ قاری شیخ عبداللہ حمدوہ قرشی عمری سوڈانی مکی ماکی [۱۰۸]

۱۴۔ مدرس مسجد حرام و مدرسہ فلاح صاحب تصانیف مؤرخ ماہر انساب شیخ محمد عربی تباتی الجزائر مکی ماکی [۱۰۹]

۱۵۔ مدرس مدرسہ صولتیہ و دارالعلوم دینیہ شیخ صالح بن محمد کلنتنی مکی شافعی [۱۱۰]

۱۶۔ مدرس مدرسہ فلاح صاحب تصانیف قاضی شیخ محمد یحییٰ امان کتبی حنفی [۱۱۱]

۱۷۔ علامہ فقیہ محدث شیخ عبداللہ ازہری فلمبانی مکی اندونیشی [۱۱۲]

۱۸۔ علامہ مدرس ادیب صاحب تصانیف شیخ محمد علی بن عبدالحمید قدس شافعی [۱۱۳]

۱۹۔ فقیہ حنفی شیخ ابوبکر بن عبداللہ ملا احسانی حنفی [۱۱۴]

۲۰۔ ناظم مدرسہ صولتیہ شیخ محمد سلیم بن مولانا محمد سعید کیرانوی مکی [۱۱۵]

۲۱۔ مرشد السالکین فقیہ ابوالاحرار شیخ فضل بن سعید نقشبندی خالدی اندونیشی

شافعی [۱۱۶]

۲۲۔ مدرس مسجد حرام شیخ حسن بن محمد سعید یمانی مکی شافعی

۲۳۔ مدرس مسجد حرام قاضی شیخ بکر بن محمد سعید باہصیل مکی شافعی

۲۴۔ مدرس مسجد حرام نائب صدر مجلس شوری علامہ سید صالح بن ابوبکر شطاک مکی شافعی

۲۵۔ مدرس مسجد حرام شیخ السادة العلویہ علامہ سید صالح بن عدوی بن عقیل

۲۶۔ مدرس مسجد حرام قاضی شیخ عبدالعزیز عکاس نجدی

۲۷۔ عارف باللہ مدرس مسجد حرام علامہ سید عمید روس بن سالم البار

۲۸۔ مدرس مسجد حرام قاضی شیخ سالم شفی

۲۹۔ مسجد حرام مدرسہ صولتہ و فلاح کے مدرس، قاضی، فاضل بریلوی کے خلیفہ شیخ احمد

ناصرین کی شافعی

حضرت مولانا شیخ عبدالرحمن دھان رحمۃ اللہ علیہ کی کسی تصنیف کا علم نہ ہو سکا البتہ مکتبہ مکہ مکرمہ میں شیخ عثمان ابوالعلا طرابلسی کی ایک تصنیف ”الفواکہ البدریۃ“ سن تصنیف ۱۲۲۲ھ کا مخطوط ۲/ علوم عربیہ بخط شیخ عبدالرحمن دھان سن کتابت ۱۳۱۸ھ موجود ہے جس پر بعض شروح و تعلیقات درج ہیں [۱۱۷]، اس مخطوط کے مطالعہ کے بغیر یہ طے کرنا مشکل ہے کہ یہ تعلیقات شیخ عبدالرحمن دھان کی اپنی تخلیق ہیں یا کتاب کے متن کی طرح یہ بھی آپ نے محض نقل کیں۔

فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۲۳ھ میں مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو شیخ عبدالرحمن دھان رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے، آپ کی عمر چالیس برس تھی اور آپ علم و فضل میں علماء مکہ میں نمایاں تھے، شیخ عبدالرحمن دھان نے فاضل بریلوی سے متعدد بار ملاقات کی اور امت مسلمہ کے درپیش مسائل و مشکلات پر باہم تبادلہ خیالات کیا پھر آپ کی دو تصنیفات الدولۃ المکیہ و حسام الحرمین پر تقریظات قلمبند کیں، آخر الذکر کتاب پر تقریظ لکھتے ہوئے شیخ عبدالرحمن دھان نے فاضل بریلوی کا ذکر ان الفاظ میں کیا:

”عملة العلماء العاملين، زبدة الفضلاء الراسکین، علامة

الزمان، واحد الدهر والوان، الذی شهد له علماء البلد الحرام

بانه السيد الفرد الامام، سيدی وملادى الشيخ احمد رضا خان

البریلوی معنا الله بحياته والمسلمين ومنحنى هدى فان هدى

هدى سيد المرسلين وحفظه من جميع جهاته على رغم انوف

الحاسدین“ - [۱۱۸]

۷/ صفر ۱۳۲۴ھ کو فاضل بریلوی نے آپ کو جمیع علوم اسلامیہ میں اجازت و خلافت

عطا کی اور سند جاری کرتے ہوئے آپ کا اسم گرامی یوں ذکر کیا:

”مولانا الفاضل اخوالفضائل وابن الافاضل وابو الفواضل
المتفنن في الفهوم مولانا الشيخ عبدالرحمن الدهان ابن العالم
العلامة والفاضل الفهامة الولي العارف بالله الرحمن حضرت
الشيخ المرحوم بكرم الحنان احمد الدهان“۔ [۱۱۹]

تمام تذکرہ نگار اس پر متفق ہیں کہ شیخ عبدالرحمن دھان علم فلکیات میں یکتا تھے [۱۲۰]،
آپ نے یہ فن شیخ عبدالحمید بخش ہندی مکی سے سیکھا، شیخ عبدالحمید بخش نے اسے مولانا رحمت اللہ
کیرانوی مکی، شیخ عبدالرحمن محتشم مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ [۱۲۱] نیز جدہ شہر مشہور عالم شیخ علی باصبرین
شافعی رحمۃ اللہ علیہ [۱۲۲] سے حاصل کیا [۱۲۳]، اور پھر شیخ عبدالرحمن دھان سے جن علماء نے
فلکیات میں بطور خاص استفادہ کیا ان میں مسجد حرام کے مدرس شیخ خلیفہ نبھانی مالکی ایک اہم نام
ہے [۱۲۴] شیخ نبھانی نے فلکیات پر متعدد کتب تصنیف کیں جو مدرسہ صولتیہ کے علاوہ دارالعلوم
دینیہ کے نصاب میں شامل کی گئیں، شیخ خلیفہ نبھانی سے جن علماء نے یہ فن سیکھا ان میں علامہ سید
احمد بن عبداللہ دحلان مکی شافعی [۱۲۵] اور شیخ محمد یاسین قادانی انڈونیشی مکی شافعی اہم ہیں، علامہ سید
احمد بن عبداللہ دحلان مدرسہ صولتیہ میں اور شیخ محمد یاسین قادانی دارالعلوم دینیہ میں فلکیات کے
استاد تعینات رہے۔ [۱۲۶]

ادھر ہندوستان میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فلکی علوم جفر، نجوم، توقيت وغیرہ میں
مہارت تامہ رکھتے تھے، فاضل بریلوی نے خود فرمایا کہ علم جفر میں نے کسی سے نہ سیکھا بلکہ جداول
کثیرہ اس فن کی تکمیل جلیل کے لئے اپنی طبع زاوا ایجاد کیں۔ [۱۲۷]

مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران فاضل بریلوی کو خیال آیا کہ یہ شہر کریم تمام جہاں کا
طباواری ہے، اہل مغرب بھی یہاں آتے ہیں ممکن ہے کوئی صاحب جفر داں مل جائیں کہ ان سے
اس فن کی تکمیل کی جائے [۱۲۸]، فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ ایک صاحب معلوم ہوئے کہ جفر
میں مشہور ہیں، نام پوچھا، معلوم ہوا، مولانا عبدالرحمن دھان، حضرت مولانا احمد دھان کے چھوٹے

صاحبزادے ہیں، میں نام سن کر اس لئے خوش ہوا کہ یہ اور ان کے بڑے بھائی صاحب مولانا اسعد دھان کہ اب قاضی مکہ معظمہ ہیں مجھ سے سند حدیث لے چکے ہیں، میں نے مولانا عبدالرحمن کو بلایا، وہ تشریف لائے، کئی گھنٹے خلوت رہی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قاعدہ جو ان کے پاس ناقص تھا قدرے اس کی تکمیل ہو گئی۔ [۱۲۹]

حضرت مولانا عبدالرحمن دھان رحمۃ اللہ علیہ مرض فالج کا شکار ہوئے جس میں چار سال بتلارہ کر آپ نے شفا پائی، کچھ عرصہ بعد اس مرض نے آپ پر دوبارہ حملہ کیا جس کے دوروز بعد ہفتہ کی رات ۱۲/۱۲/۱۳۳۷ھ / اگست ۱۹۱۹ء کو آپ نے وفات پائی، باب کعبہ کے سایہ میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور قبرستان المعلیٰ میں دھان خاندان کے مخصوص احاطہ میں آپ کی تدفین عمل میں آئی، آپ کے تین فرزند ان تھے جو علم سے وابستہ رہے۔ [۱۳۰]

دھان خاندان میں مزید علماء کرام بھی ہو گزرے ہیں لیکن ان کے سوانح حیات ابھی تک شائع نہیں ہوئے، جیسا کہ مدرسہ صولتبیہ کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد سلیم کیرانوی اور دارالعلوم دینیہ کے بانی علامہ سید محسن بن علی مساوی فلمبانی مکی کے استاد مدرس مدرسہ صولتبیہ شیخ داؤد عبداللہ دھان رحمۃ اللہ علیہ [۱۳۱] اور علامہ فقیہ معمر ابوالحسن نورالدین علی سلاوی مراکشی مالکی (م ۱۳۵۳ھ) کے استاد شیخ یوسف دھان حنفی رحمۃ اللہ علیہ [۱۳۲] نیز مدرسہ صولتبیہ میں شیخ محمود قاری (م ۱۳۹۷ھ) کے ہم سبق شیخ عیسیٰ دھان اور شیخ محمد دھان ثانی رحمہم اللہ تعالیٰ۔ [۱۳۳]

حوالہ جات و حواشی

- [۱]۔ المختصر من کتاب نشر النور والزهري تراجم افاضل مکتہ من القرن العاشر الى القرن الرابع عشر، تالیف شیخ عبداللہ مرداد ابوالخیر شہید مکی حنفی (م ۱۳۳۳ھ)، اختصار و ترتیب محمد سعید عامودی مکی (م ۱۳۱۱ھ) وسید احمد علی کاظمی بھوپالی ثم مکی (م ۱۳۱۳ھ)، طبع دوم ۱۴۰۶ھ / ۱۹۸۶ء عالم المعرفة جدہ، ص ۸۹، نظم الدرر فی اختصار نشر النور والزهري تراجم افاضل مکتہ، اختصار و ترتیب شیخ عبداللہ غازی ہندی ثم مکی (م ۱۳۶۵ھ)، مخطوط ص ۱۱۳
- [۲]۔ شیخ عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر شاگردوں میں امام مسجد حرام شیخ عبدالرحمن طبری حسینی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰۶۳ھ) اہم نام ہے۔ (مختصر نشر النور، ص ۲۳۶-۲۳۷، نظم الدرر، ص ۳۹)
- [۳]۔ شیخ احمد بن ابراہیم بن علان صدیقی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ (م ۹۷۵ھ / ۱۶۲۳ء) مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائی، آپ ملا علی قاری حنفی مکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰۱۴ھ) کے ہم عصر تھے، دونوں نے عوارف المعارف کے محشی مولانا عبداللہ سندھی مدنی ثم مکی (م ۹۸۴ھ) سے تعلیم پائی، شیخ احمد صدیقی کے دیگر اساتذہ میں مولانا سید عمر بن عبدالرحیم بھری اور امام سید عبدالقادر طبری حسینی مکی شافعی (م ۱۰۳۳ھ) اہم ہیں، حضرت مولانا تاج الدین بن زکریا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ (۹۷۰ھ-۱۰۵۰ھ) ہندوستان سے پہلی بار مکہ مکرمہ حاضر ہوئے تو شیخ احمد صدیقی نے آپ سے خلافت پائی، شیخ احمد صدیقی کے تلامذہ میں آپ کے بھتیجے سیوطی زماں شیخ محمد علی علان (م ۱۰۵۸ھ)، شیخ الاسلام مفتی سید محمد صادق میر بادشاہ حسینی حنفی مکی (م ۱۰۹۷ھ)، امام سید زین العابدین طبری مکی شافعی (م ۱۰۷۸ھ)، امام مسجد حرام علامہ سید عبدالرحمن طبری، شیخ عبداللہ باقشیر حضرمی مکی شافعی (م ۱۰۷۶ھ) صاحب تصانیف کثیرہ شیخ علی جمال مصری مکی (م ۱۰۷۲ھ)، علامہ سید علی یمنی (م ۱۰۶۹ھ)، علامہ سید محمد غزالی حبشی تری مکی (م ۱۰۵۲ھ) اور شیخ محمد ابو عبداللہ

عبدالعظیم موروی حنفی مکی اہم نام ہیں، شیخ احمد صدیقی نے چند کتب تصنیف کیں جن میں سے ”شرح حکم ابی مدین“ کا مخطوط مکتبہ مکہ مکرمہ میں محفوظ ہے۔ (الاعلام، خیرالدین زرکلی (م ۱۳۹۶ھ)، درالعلم للملایین بیروت، طبع ۱۰، سن طباعت ۱۹۹۲ء، ج ۱، ص ۸۸، فہرس مخطوطات مکتبہ مکہ المکرمہ، دس اہل علم نے مل کر مرتب کی، طبع اول ۱۴۱۸ھ / ۱۹۹۷ء، مکتبہ ملک فہد ریاض، ص ۲۸۸، مختصر نشر النور، ص ۱۰۵-۱۰۶، نظم الدرر، ص ۲۴)

[۴]۔ شیخ ابراہیم بن عیسیٰ مکی حنفی المعروف بہ ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰۷۶ھ / ۱۶۶۶ء) فقیہ حنفی اور مسجد حرام میں احناف کے امام تھے، آپ نے چند کتب تصنیف کیں جن میں حاشیہ علی شرح العین علی الکنز اور حاشیہ علی الاشباہ والنظائر وغیرہ کتب ہیں، حرم مکی میں آپ کی ایک تصنیف ”رسالة فی التقدم علی الامام عند ارکان الکعبۃ“ کا مخطوط موجود ہے۔ (معجم مؤلفی مخطوطات مکتبہ الحرم المکی الشریف ۱۴۱۶ھ / ۱۹۹۶ء، شیخ عبداللہ بن عبدالرحمن معلیٰ یمنی، طبع اول ۱۴۱۶ھ / ۱۹۹۶ء، مکتبہ ملک فہد ریاض، ص ۱۴۲، مختصر نشر النور، ص ۳۷، نظم الدرر، ص ۶۴-۶۵)

[۵]۔ شیخ محمد علی بخاری حنفی المعروف بہ القربی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰۷۰ھ / ۱۶۵۹ء) مسجد حرام میں شیخ القراء تھے جہاں خلق کثیر نے آپ سے استفادہ کیا، آپ صاحب کرامات تھے، شیخ ابراہیم ابوسلمہ سے آپ کی گہری دوستی تھی دونوں نے اکٹھے شیخ ابراہیم دھان و دیگر علماء مکہ سے تعلیم پائی اور پھر عمر بھر ایک دوسرے سے دور نہیں ہوئے، شیخ محمد علی بخاری نے اپنے اکلوتے فرزند کا نام بھی ابراہیم رکھا۔ (مختصر نشر النور، ص ۴۰۹-۴۱۰، نظم الدرر، ص ۶۴-۶۵)

[۶]۔ شیخ تاج الدین مالکی نام کے دو جلیل القدر علماء مکہ مکرمہ کے ایک ہی خاندان میں ہو گزرے، پہلے شیخ تاج الدین مالکی (م ۹۶۰ھ) امام محدث مفسر قاضی و مفتی مکہ مکرمہ تھے (مختصر نشر النور، ص ۱۴۹)، پھر انہی کی نسل میں سے دوسرے شیخ تاج الدین مالکی انصاری (م ۱۰۶۶ھ / ۱۶۵۵ء) ہوئے جنہوں نے ادب، فقہ، عقائد کے موضوعات پر متعدد کتب

تصنیف کیس جن میں ”الفواح القدسیۃ والفواح العطریۃ“ کے علاوہ ایک مجموعہ فتاویٰ وغیرہ کتب شامل ہیں (مختصر نشر النور، ص ۱۳۶-۱۳۷، نظم الدرر، ص ۲۸)۔ آخر الذکر شیخ تاج الدین مالکی، شیخ ابراہیم دھان کے ہم عصر تھے، شیخ دھان نے فقہی مسئلہ کے اختلاف پر غالباً انہی کے تعاقب میں یہ رسالہ قلمبند کیا۔

اس دور کے ایک اور حنفی عالم، مفتی مکہ شیخ ابراہیم بیری رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰۹۹ھ) نے بھی اس موضوع پر ”نقض القسمۃ“ کے نام سے ایک رسالہ تصنیف کیا (مختصر نشر النور، ص ۳۹-۴۳، نظم الدرر، ص ۲۰)، جس سے عیاں ہوتا ہے کہ یہ موضوع گیارہویں صدی ہجری کے علماء مکہ کے درمیان زیر بحث رہا۔

[۷]۔ شیخ بدرالدین خوج مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۱۷۵ھ/۱۸۶۲ء تقریباً) نے خاتمۃ المحدثین شیخ عبداللہ بصری شافعی (م ۱۱۳۴ھ)، شیخ احمد نخلی نقشبندی شافعی (م ۱۱۳۰ھ) اور امام جلیل فقیہ محدث مفتی وقاضی مکہ مکرمہ امام وخطیب مسجد حرام شیخ تاج الدین قلعی مکی حنفی (م ۱۱۴۹ھ) سے تعلیم پائی، معلوم رہے یہی شیخ تاج الدین قلعی عالی سند کے اعتبار سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۱۷۶ھ) کے سب سے اہم استاد ہیں۔ (فہرس الفہارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشیختات والمسلسلات، علامہ سید عبداللہ کتانی مراکشی (م ۱۳۸۲ھ)، تحقیق ڈاکٹر احسان عباس، طبع دوم ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء، دار الغرب الاسلامی بیروت، ج ۱، ص ۱۷۸، مختصر نشر النور، ص ۱۴۰-۱۴۱، ۱۳۸-۱۳۹، نظم الدرر، ص ۷۸)

[۸]۔ مختصر نشر النور، ص ۳۴-۳۵، نظم الدرر، ص ۲۱

[۹]۔ فقیہ حنفی و مفتی مکہ مکرمہ شیخ ابراہیم بن حسین بیری رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰۹۹ھ/۱۶۸۸ء) کے والد ماجد اہل و عیال سمیت زیارت کے لئے مدینہ منورہ حاضر تھے کہ وہیں پر شیخ ابراہیم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ نے اپنے چچا شیخ بیری کے علاوہ اکابر علماء مکہ مکرمہ شیخ الاسلام عبدالرحمن مرشدی، سیوطی زماں شیخ محمد علی علان (م ۱۰۵۸ھ) وغیرہ سے تعلیم پائی پھر اپنے

دور کے فقہاء کے سر تاج ہوئے، آپ کی چند تصنیفات کے نام یہ ہیں: شرح قصیح قدوری، السیف المسلمول فی دفع الصدقة لآل الرسول، رسالۃ فی حکم الاشارة فی التشهد، اللمة فی حکم الصلاة الاربع بعد الجمعة، رسالۃ فی حکم اسقاط الصلاة، رسالۃ فی ایصال الثواب للاموات، رسالۃ من یطلق علیہ السيد الشریف، بلوغ الارب فی ارض الحجاز وجزیرۃ العرب، رسالۃ فی حکم الحیلۃ لمجاوزۃ المہیقات الشرعی بلا احرام مخطوط مکتبہ مکہ مکرمہ، رسالۃ مشروعیۃ العمرة للمکئی فی اشهر الحج مخطوط مکتبہ حرم مکی، شیخ ابراہیم بیری نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور اہل المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مزار کے قریب دفن ہوئے۔ (مختصر نشر النور، ص ۳۹-۴۲، نظم الدرر، ص ۲۰، فہرس مخطوطات مکتبہ مکہ المکرمۃ، ص ۱۶۹، معجم مؤلفی مخطوطات مکتبہ الحرم المکی الشریف، ص ۲۰۹)

[۱۰]۔ شیخ حسن بن علی عجمی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۱۱۳ھ / ۱۷۰۲ء) پوری اسلامی تاریخ

کے اہم علماء میں سے ایک ہیں، آپ نے مختلف علوم و فنون میں متعدد علماء کرام سے استفادہ کیا، عارف باللہ و صاحب تصانیف علامہ سید صفی الدین احمد بن محمد قشاشی مدنی حسینی ماکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰۷۱ھ) نیز عارف باللہ علامہ سید عبدالرحمن محبوب مکناسی مراکشی ثم مکی ادرسی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم تصوف حاصل کر کے دونوں سے صوفیاء کے اہم سلاسل میں خلافت پائی، شیخ حسن عجمی کو شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صدر الدین قونوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات پر خاص عبور حاصل تھا، آپ نے مختلف موضوعات پر متعدد کتب تصنیف کیں جن میں سے چند کے نام یہ ہیں: اهداء اللطائف بخبار الطائف، طبع دوم طائف ۱۹۸۰ء، حاشیہ علی الاشباہ والنظائر، بغیۃ الرائض فی شرح بیت ابن الفارض، تحقیق النصرة للقول بایمان اهل الفترة، مظهر الروح بسر الروح، مخطوط مکتبہ مکہ مکرمہ، نشر الرواح النندیۃ فی سلاسل السادة الاحمدیۃ، اتحاد النفوس الزکیۃ فی سلاسل السادة القادریۃ، آپ نے طائف میں وفات پائی اور وہیں پر سیدنا عبداللہ بن سیدنا عباس رضی اللہ عنہم کے احاطہ مزار میں دفن ہوئے۔ (الاعلام، ج ۲، ص ۲۰۵، فہرس الفہارس، ج ۲، ص ۸۱۰-۸۱۳، مختصر نشر النور، ص ۱۶۷-۱۷۳، نظم الدرر، ص ۸۰-۸۳، فہرس مخطوطات مکتبہ

مکہ المکرمہ، ص ۳۰۶)

انہی شیخ حسن عجمی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل میں سے ان کے ہم نام شیخ حسن بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن علی بن محمد بن حسن بن علی عجمی رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۸۹ھ-۱۳۶۱ھ) نے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت پائی۔ (الاجازات المکتبۃ لعلمائکۃ والمدینۃ، مولانا احمد رضا خاں فاضل بریلوی، منظمۃ الدعوة الاسلامیۃ لوہاری دروازہ لاہور، سن اشاعت درج نہیں، ص ۳۳، ۵۰، نثر الدرر فی تذیل نظم الدرر فی تراجم علماء مکہ من القرن الثالث عشر الی الرابع عشر، شیخ عبداللہ غازی مکی، مخطوط ص ۲۶-۲۷)

[۱۱]- شیخ قطب الدین خان نھروالی قادری رحمۃ اللہ علیہ (م ۹۹۰ھ / ۱۵۸۲ء) کا خاندان ہندوستان کے صوبہ گجرات میں آباد تھا لیکن آپ ۹۱۷ھ میں لاہور پیدا ہوئے اور تقریباً ۹۳۲ھ میں والد کے ساتھ مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے اور وہاں کے اکابر علماء کرام سے تعلیم پائی، ۹۳۳ھ میں مزید حصول علم کے لئے مصر گئے نیز شام اور ترکی کا سفر کیا، پھر مکہ مکرمہ میں مدرس اور مفت احناف تعینات ہوئے، ترک سلاطین کے ہاں آپ کو قدر و منزلت حاصل تھی، آپ نے فقہ تاریخ اور ادب کے موضوعات پر بھی عربی میں متعدد کتب تصنیف کیں جن میں سے دو مقبول عام ہوئیں ان میں سے ایک مکہ مکرمہ کی تاریخ پر "اعلام باعلام بلد اللہ الحرام" ہے جو ۱۳۰۳ھ میں مصر سے شائع ہوئی، دوسری "البرق الیمانی فی الفتح العثماني" ہے جو حمد الجاسر (م ۱۳۲۱ھ) کی تحقیق سے ۱۹۶۷ء و ۱۹۸۰ء میں ریاض سے شائع ہوئی، شیخ قطب الدین نے مکہ مکرمہ وفات پائی آپ کے حالات عربی کی متعدد کتب میں درج ہیں لیکن مفصل حالات البرق الیمانی کے آغاز میں دیئے گئے ہیں، (التاریخ والمؤرخون بمکہ - من القرن الثالث الهجری الی القرن الثالث عشر، پروفیسر ڈاکٹر محمد حبیب ہیلہ، طبع اول ۱۹۹۲ء، مؤسسۃ الفرقان للتراث الاسلامی لندن، ص ۲۴۲-۲۵۳، الاعلام، ج ۶، ص ۶-۷، فہرس الفہارس، ج ۲، ص ۹۳۲-۹۶۱، مختصر نثر النور، ص ۳۹۵-۳۹۸، نظم الدرر، ص ۱۳) الاعلام باعلام بلد الحرام کا ایک ایڈیشن مکتبہ علمیہ مکہ مکرمہ سے شائع کیا جس پر مفت

اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۱ء) کے خلیفہ، مسجد حرام و مدرسہ فلاح مکہ مکرمہ کے مدرس علامہ سید محمد امین کتبی حسنی مکی حسنی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۴۰۲ھ) نے مقدمہ قلمبند کیا۔

[۱۲]۔ التاریخ والمؤرخون بمکة، ص ۳۹۷ - ۳۹۸، فہرس مخطوطات مکتبہ مکة

المکترمة، ص ۱۱۷، مختصر نشر النور، ص ۱۴۷

[۱۳]۔ مختصر نشر النور، ص ۱۴۷

[۱۴]۔ نظم الدرر، ص ۷۹

[۱۵]۔ فہرس الفہارس، ج ۱، ص ۵۰۴

[۱۶]۔ اتحاد الاخوان باختصار مطمع الوجدان فی اسانید الشیخ عمر حمدان، شیخ محمد یاسین

فادانی مکی، دار البصائر دمشق، طبع دوم ۱۴۰۶ھ / ۱۹۸۵ء، ص ۱۱۷، امداد الفتاح باسانید و مرویات الشیخ عبدالفتاح، شیخ محمد بن عبداللہ الرشید حسنی، مکتبہ امام شافعی ریاض، طبع اول ۱۴۱۹ھ / ۱۹۹۹ء، ص ۵۰۵، التاریخ والمؤرخون بمکة، ص ۳۹۸، معجم مؤلفی مخطوطات مکتبہ الحرم المکی الشریف، ص ۳۷۴

[۱۷]۔ شیخ محمد یاسین فادانی مکی شافعی (م ۱۴۱۱ھ / ۱۹۹۱ء) نے مدرسہ صولتیہ، دارالعلوم

دینیہ، مسجد حرام اور علماء مکہ کے گھروں میں قائم مدارس میں تعلیم پائی، آپ نے حرمین شریفین حاضر ہونے والے عالم اسلام کے چار سو سے زائد علماء و مشائخ سے استفادہ کیا، آپ کو علم روایت پر کمال حاصل تھا اور اس پر بیسیوں کتب تصنیف کیں، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ امام الخوین خاتمہ المحققین مفتی مالکیہ دارالعلوم دینیہ کے صدر مدرس شیخ محمد علی مالکی مکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۷ھ) شیخ محمد یاسین کے اہم اساتذہ میں سے ہیں۔ (تشیف الاسماع بشیوخ الاجازة والسماع، شیخ محمود سعید شافعی، دارالشباب للطباعة قاہرہ، طبع اول، سن تصنیف ۱۴۰۳ھ، ص ۸-۱۲، بلوغ الامانی فی التعریف بشیوخ واسانید مسند العصر الشیخ محمد یاسین بن محمد عیسیٰ الفادانی

المکی، شیخ محمد مختار الدین فلمبانی مکی (م ۱۴۱۱ھ)، دارقٹیہ دمشق، طبع اول ۱۴۰۸ھ/۱۹۸۸ء، ص ۲۸-۳۰، من اعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر، ابراہیم حازمی، طبع اول ۱۴۱۶ھ/۱۹۹۵ء، دار الشریف للنشر والتوزیع الرياض، ج ۱، ص ۱۶۹-۱۷۴)

[۱۸]۔ معجم مؤلفی مخطوطات مکتبہ الحرم المکی الشریف، ص ۳۷۴، صفحہ آخر

[۱۹]۔ فہرس الفہارس، ج ۱، ص ۵۰۴-۶۰۵، ج ۲، ص ۸۱۰-۸۱۳

[۲۰]۔ التاريخ والمؤرخون بمكة، ص ۳۹۷-۳۹۸، اعلام، ج ۲، ص ۲۰۵

[۲۱]۔ مختصر نشر النور، ص ۱۶۷-۱۷۳، معجم مؤلفی مخطوطات مکتبہ الحرم المکی الشریف،

ص ۳۷۴، فہرس مخطوطات مکتبہ مکہ المکرمۃ، ص ۴۵۶

[۲۲]۔ معجم مؤلفی مخطوطات مکتبہ الحرم المکی الشریف، ص ۲۷۴

[۲۳]۔ مختصر نشر النور، ص ۱۴۷

[۲۴]۔ علامہ سید امین میر غنی مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۱۶۱ھ/۱۷۷۸ء) نے امام تاج

الدین دھان کے علاوہ شیخ عبداللہ بصری اور شیخ تاج الدین قلعی کی شاگردی اختیار کی، آپ کی

تصنیفات میں حاشیہ علی شرح الزیلعی علی الکنز، حاشیہ علی الدر المختار وغیرہ کتب ہیں، آپ نے

طلاق معلق کے مسئلہ پر مفتی شیخ عبدالرحمن مرشدی مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰۳۷ھ) کے ایک فتویٰ

کے تعاقب میں ”القول الاخری فی وقوع الطلاق المعلق علی نفقة العدة بالابراء“ لکھی، مخطوط مکتبہ حرم

مکی، جسے علماء مکہ نے سراہا، علامہ سید امین میر غنی کے شاگردوں میں درمختار کے محشی ابوعلی جمال

الدین محمد قاضی انصاری مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے علم و فضل میں نام پایا۔ (مختصر نشر النور،

ص ۱۳۵-۱۳۶، ۴۰۵، نظم الدرر، ص ۷۷-۷۸، معجم مؤلفی مخطوطات مکتبہ الحرم المکی الشریف،

ص ۴۸۳)

صوفیاء کا سلسلہ ”میرغنیہ“ انہی علامہ سید امین میر غنی کے بھتیجے عارف باللہ علامہ سید

عبداللہ محبوب مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۱۹۳ھ) سے جاری ہوا۔

[۲۵]۔ ولی کامل شیخ عبدالرحمن بن حسن فتنی مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۱۶۲ھ / ۱۷۴۹ء) کے دیگر اساتذہ میں شیخ تاج الدین قلعی، محدث کبیر علامہ شیخ عید بن علی مصری نمری مکی مدنی شافعی (م ۱۱۴۰ھ) اہم ہیں، شیخ عبدالرحمن فتنی مسجد حرام میں مدرس تھے اور آپ کے لاتعداد شاگرد اکابر علماء مکہ میں شمار ہوئے جن میں سے چند کے اسماء گرامی یہ ہیں: فقیہ حنفی شیخ طاہر سنبل (م ۱۲۱۸ھ)، شیخ محمد عباس سنبل حنفی (م ۱۲۲۸ھ)، شیخ محمد سنبل حنفی (م ۱۲۱۶ھ)، شیخ الاسلام عبدالملک قلعی حنفی (م ۱۲۰۵ھ)، مسجد حرام کے امام و خطیب شیخ محمد مراد حنفی (م ۱۲۰۵ھ)، مدرس مسجد حرام شیخ عبدالرحمن جستیہ فتنی حنفی (م ۱۲۱۰ھ)، شیخ عبدالرحمن دیار بکری حنفی (م ۱۲۱۹ھ)، علامہ سید محمد بن علو تیوسی مکی حنفی (م تقریباً ۱۲۱۰ھ) رحمہم اللہ تعالیٰ۔ (مختصر نشر النور، ص ۲۲۹ و دیگر صفحات)

[۲۶]۔ عارف باللہ و محدث جلیل شیخ محمد عقیلہ مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۱۵۰ھ / ۱۷۳۷ء) کی تصنیفات میں سے چند کے نام یہ ہیں: المنطق الفھوانی و المشھد الروحانی فی المعاد الانسانی، طبع مصر ۱۳۲۸ھ، عقد الجواہر فی سلاسل الاکابر مخطوط دارالکتب المصریہ قاہرہ، رفع الذکر فی فضل الذکر مخطوط مکتبہ حرم مکی، عروس الافراح فی شرح معنی حدیث الارواح مخطوط مکتبہ حرم مکی، نسخۃ الوجود فی الاخبار عن حال الوجود مخطوط مکتبہ مکہ مکرمہ، ہدایۃ الخلاق الی الصوفیۃ فی سائر الآفاق، مولد شریف نبوی، قاہرہ کے مذکورہ کتب خانہ میں آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی سند اجازت کا مخطوط محفوظ ہے، شیخ ابن عقیلہ نے شام، ترکی، عراق کے سفر کئی جہاں خلق کثیر آپ سے فیض یاب ہوئی، آپ نے مکہ مکرمہ کے محلہ معابدہ میں واقع اپنی خانقاہ میں وفات پائی اور اسی میں آخری آرام گاہ بنی۔ (فہرست المخطوطات دارالکتب المصریہ، فواد سید وغیرہ، مطبع دارالکتب المصریہ قاہرہ، طبع ۱۳۷۵ھ / ۱۹۵۶ء حدیث ج ۱، ص ۹۴، ۲۵۹، الاعلام، ج ۶، ص ۱۳، فہرس مخطوطات مکتبہ مکہ المکرمہ، ص ۴۸۰، معجم مؤلفی مخطوطات مکتبہ الحرم المکی الشریف، ص ۹۵-۹۶، مختصر نشر النور، ص ۲۶۲-۲۶۳، نظم الدرر، ص ۱۰۰-۱۰۱)

[۲۷]۔ التاریخ والمؤرخون بمکة، ص ۳۹۷، فہرس مخطوطات مکتبہ مکة المکرمہ،

ص ۱۱۷

[۲۸]۔ علامہ سید عبدالحی کتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ان کے فرزند جلیل علامہ سید

عبدالاحد کتانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۷۵ھ) نے قلمبند کئے جو فہرس الفہارس کے ابتدائی ۴۴ صفحات

پر مطبوع ہیں، نیز دیکھیں: الدلیل المشری الی فلک اسانید اتصال بالحبیب البشیر صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم، جسٹس مکہ علامہ سید ابوبکر حبشی شافعی (م ۱۳۷۴ھ)، طبع اول ۱۳۱۸ھ/۱۹۹۷ء مکتبہ مکہ

مکرمہ، ص ۱۳۸-۱۵۷، معجم المطبوعات العربیۃ، علامہ سید اوریس حسینی فاسی (م ۱۳۹۱ھ) مطابع

سلامراکش، طبع ۱۹۸۸ء، ص ۳۰۱-۳۰۳، المملفوظ، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، مدینہ پبلشنگ کمپنی

کراچی، ج ۲، ص ۱۲۹، الاجازات الممتینہ، ص ۱۹، اعلام، ج ۶، ص ۱۸۷، امداد الفتاح، ص ۳۴۴،

تشذیف الاسماع، ص ۲۷۸-۲۸۴

[۲۹]۔ علامہ شیخ احمد حضراوی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۲۷ھ) کے حالات سالنامہ

معارف رضا کراچی، شمارہ ۱۹۹۹ء، ص ۲۰۳-۲۱۵ پر درج ہیں۔

[۳۰]۔ تاج التواریخ البشر، تین جلدوں پر مشتمل ہے اور ابھی تک شائع نہیں ہوئی،

مکتبہ مکہ مکرمہ میں اس کے بعض اجزاء بخط مصنف ۱۲۲/تاریخ، ۱۲۳/تاریخ موجود ہیں۔ (فہرس

مخطوطات مکتبہ مکہ مکرمہ، ص ۴۶۰)

[۳۱] شیخ عبداللہ ابوالخیر مرداد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ڈیڑھ صدی تک مسجد حرام

میں ”شیخ الخطباء والائمة“ کے اعلیٰ منصب پر فائز رہا، شیخ عبداللہ ابوالخیر مرداد اس منصب پر خدمات

انجام دینے والے اس خاندان کے آخری فرد تھے، آپ نے ۱۳۴۳ھ میں سعودی انقلاب کے

دوران جنگ طائف میں شہادت پائی، صاحب نثر الدرر نے آپ کے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

سے استفادہ کا ذکر کیا ہے۔ (نثر الدرر، ص ۴۳)

[۳۲]۔ التاریخ والمؤرخون بمکة، ص ۳۹۷

مکتبہ مکہ مکرمہ میں اس کے بعض اجزاء بخط مصنف ۱۲۲/ تاریخ، ۱۲۳/ تاریخ موجود ہیں۔ (فہرس مخطوطات مکتبہ مکہ مکرمہ، ص ۴۶۰)

[۳۱] شیخ عبداللہ ابوالخیر مرداد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ڈیڑھ صدی تک مسجد حرام میں ”شیخ الخطباء والائمة“ کے اعلیٰ منصب پر فائز رہا، شیخ عبداللہ ابوالخیر مرداد اس منصب پر خدمات انجام دینے والے اس خاندان کے آخری فرد تھے، آپ نے ۱۳۲۳ھ میں سعودی انقلاب کے دوران جنگ طائف میں شہادت پائی، صاحب نثر الدرر نے آپ کے فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کا ذکر کیا ہے۔ (نثر الدرر، ص ۴۳)

[۳۲]۔ التاریخ والمؤرخون بمکة، ص ۳۹۷

[۳۳]۔ نزہۃ الخواطر وھجۃ المسامح والنواظر، حکیم عبداللہ الحلی ملکنوی (م ۱۳۴۱ھ)، طبع

اول ۱۳۲۰ھ/ ۱۹۹۹ء دار ابن حزم بیروت لبنان، ج ۸، ص ۲۹۶ء، ۱۲۹۸

[۳۴]۔ معجم مؤلفی مخطوطات مکتبہ الحرم المکی الشریف، ص ۲۷۴، مختصر نثر النور،

ص ۱۲۹، ۲۴۱، نظم الدرر، ص ۱۱۳، ۱۶۷، ۱۸۴

[۳۵]۔ سیر و تراجم بعض علمائنا فی القرن الرابع عشر للهجرة، عمر عبدالجبار مکی

(م ۱۳۹۱ھ)، طبع سوم ۱۴۰۳ھ/ ۱۹۸۲ء مکتبہ تہامہ جدہ، ص ۱۶۰، پر شیخ احمد دھان رحمۃ اللہ علیہ کے

اساتذہ میں شیخ محمد فیلیہ کا نام درج ہے جو شاید کاتب کی غلطی ہے، درست نام کچھ اور ہوگا، پیش نظر کتب میں اس نام کے کسی عالم کا ذکر نہیں ملتا۔

[۳۶]۔ شیخ احمد دمیاطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۷۰ھ/ ۱۸۵۳ء) مصر میں پیدا

ہوئے، آپ شیخ الکبیر علامہ عثمان دمیاطی شافعی خلوتی مصری ثم مکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۶۵ھ) کے

بھانجا و شاگرد ہیں، شیخ احمد نے مصر میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ ہجرت کی جہاں مسجد

حرام میں مدرس ہوئے، شیخ احمد دھان اور مفتی شافعیہ علامہ سید احمد بن زینی دحلان مکی رحمۃ اللہ

علیہ (۱۳۰۳ھ) آپ کے اہم شاگردوں میں سے ہیں، ۱۲۶۰ھ کے لگ بھگ مفتی شافعیہ شیخ محمد

سعید قدسی مکی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی تو ان کی جگہ شیخ احمد میاٹی نے مفتی شافعیہ کا منصب سنبھالا تا آنکہ ۱۲۷۰ھ میں آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے اور مسجد نبوی میں حلقہ درس قائم کیا پھر اسی برس وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے، مکتبہ مکہ مکرمہ میں آپ کی ”تقریرات علی شرح الورقات“ کا مخطوط موجود ہے۔ (مختصر نشر النور، ص ۸۸-۸۹، نظم الدرر، ص ۱۱۵، فہرس مخطوطات مکتبہ مکتہ المکرمہ، ص ۱۴۰)

[۳۷]۔ شیخ ابراہیم کسکلی مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۸۲ھ / ۱۸۶۵ء) مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، کسکلی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ آپ کے اجداد ترکی کے علاقہ انسخہ سے ہجرت کر کے آئے تھے یہ لفظ معرب ہو کر کسکلہ ہو گیا اور اس نسبت سے آپ کسکلی کہلائے، آپ کے اساتذہ میں مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و کرامات اولیاء وغیرہ کے مصنف محدث و مفسر شیخ محمد صالح ریس زبیری مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۴۰ھ) اور عالم جلیل خاتمہ المحققین قاضی مکہ و مدرس مسجد حرام شیخ عمر بن عبدالرسول مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۴۷ھ) اہم نام ہیں، شیخ ابراہیم کسکلی کے فرزند شیخ عبداللہ انسخوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۱ھ) بھی عالم جلیل اور ۱۳۰۳ھ کو مسجد حرام میں مدرس درجہ اول تھے۔ (مختصر نشر النور، ص ۵۳، نشر الدرر ضمیمہ ص ۲)

[۳۸]۔ امام جلیل مفتی مالکیہ مدرس مسجد حرام علامہ سید احمد مرزوقی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۶۲ھ / ۱۸۴۶ء) مصر کے شہر سنباط میں پیدا ہوئے پھر مکہ مکرمہ ہجرت کر آئے جہاں ۱۲۶۱ھ میں مفتی مالکیہ بنائے گئے، آپ کے شاگردوں میں شیخ احمد دھان، علامہ سید احمد دحلان شافعی جیسے اکابر علماء مکہ کے نام شامل ہیں، علامہ مرزوقی نے متعدد کتب تصنیف کیں جن میں سے چند یہ ہیں: عقیدۃ العوام منظوم طبع مکہ مکرمہ ۱۳۱۷ھ، عصمتہ الانبیاء منظوم طبع مکہ مکرمہ ۱۳۰۷ھ، فیض الملک العلام شرح علی مولد شرف الانام مخطوط مکتبہ حرم مکی، رسالۃ فی الذکر مخطوط مکتبہ حرم مکی، شرح الاجرومیۃ بنام الفوائد المرزوقیۃ، آپ مسجد حرام میں مختلف علوم پر درس دیا کرتے جسے آخر عمر میں تفسیر بیضاوی کے درس تک محدود کر دیا۔ (دارالکتب المصریہ قاہرہ، ج ۱، ص ۱۹۶-۱۹۷،

الدرر، ص ۱۵۱، ۱۶۳-۱۶۴)

[۴۰]- تاریخ علماء دمشق فی القرن الرابع عشر الهجری، محمد مطیع حافظ و نزار اباطہ، طبع

اول ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء، دار الفکر دمشق، ج ۱، ص ۴۳۱-۴۳۲

[۴۱]- مختصر نشر النور، ص ۸۹، نظم الدرر، ص ۱۱۳

[۴۲]- فہرس دارالکتب المصریہ، طبع ۱۹۲۴ء، ج ۱، ص ۲۹، معجم مؤلفی مخطوطات مکتبہ

الحرم المکی الشریف، ص ۲۷۴

[۴۳]- مختصر نشر النور، ص ۸۹، نظم الدرر، ص ۱۱۳

[۴۴]- علامہ جلیل متفہن المتجر فی المعقول والمنقول سید صالح زواوی شافعی نقشبندی

رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۰۸ھ/۱۸۹۱ء) مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور بلد الحرام کے اجلہ مشائخ سے تعلیم

پائی بالخصوص عارف باللہ الامام الجلیل الکبیر علامہ المحدث الشہیر شیخ محمد سنوسی مراکشی ثم مکی مالکی

رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۷۶ھ)، شیخ احمد دھان اور عالم ادیب محدث فقیہ شیخ محمد بن خضر بصری مکی شافعی

رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۶۰ھ تقریباً) سے استفادہ کیا، علاوہ ازیں یمن گئے اور وہاں کے علماء نیز حرمین

شریفین وارد ہونے والے متعدد علماء سے اخذ کیا، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ میں شیخ محمد مظہر دہلوی مہاجر

مدنی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۰۱ھ) سے بیعت کر کے خلافت پائی، علامہ سید صالح زواوی مسجد حرام

میں مدرس اور شوافع کے امام رہے، آپ عمر بھر تعلیم و تعلم اور مریدین کی تربیت میں منہمک رہے،

مکہ مکرمہ میں وبائی مرض پھیلا جس کے باعث آپ نے وفات پائی۔ (مختصر نشر النور، ص ۲۱۷، نظم

الدرر، ص ۱۸۰-۱۸۱) آپ کے فرزند علامہ سید عبداللہ زواوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۲۳ھ) بھی عالم

دین، مرشد طریقت، مصنف، سیاسی رہنما، مدرس مسجد حرام اور مفتی شافعیہ تھے جو سعودی انقلاب

کے دوران جنگ طائف میں شہید ہوئے۔

[۴۵]- علامہ سید محمد ابوالنصر نصر اللہ ناصر الدین خطیب دمشقی شافعی رحمۃ اللہ

علیہ (م ۱۳۲۳ھ/۱۹۰۶ء) دمشق میں پیدا ہوئے اور شام، مصر، حجاز کے متعدد علماء و مشائخ سے

استفادہ کیا، آپ کو مختلف علوم و فنون پر پندرہ ہزار سے زائد اشعار حفظ تھے، نیز تقریباً دس ہزار احادیث کے متون مع اسانید از بر تھے، علامہ سید عبدالحی کتانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب اقصیٰ تک کے ممالک میں لاتعداد محدثین دیکھے جن میں علامہ سید ابوالنصر دمشقی ایسی شخصیت تھے کہ جنہیں لاتعداد احادیث کے متون نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود تک کی اسناد روایت حفظ تھیں، علامہ سید ابوالنصر خطیب نے سلسلہ شاذلیہ میں عکاشہ کے شیخ علی یشرطی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت پائی، آپ سے لاتعداد اہل علم نے روایت حدیث میں اجازت حاصل کی، ۱۳۲۰ھ میں آپ دسویں بار حج و زیارت کے لئے حرمین شریفین حاضر ہوئے تو صرف مکہ مکرمہ میں موجود مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے اسی سے زائد علماء نے آپ سے سند اجازت حاصل کی، آپ بیس برس تک شام کے مختلف علاقوں میں شرعی عدالت کے قاضی رہے اور جہاں بھی مقیم رہے وہاں کی جامع مسجد میں درس و خطبہ جمعہ دیا کرتے، آپ دمشق آئے تو شہر کی قدیم و مرکزی مسجد بنو امیہ میں خطیب مقرر ہوئے، وہیں پر وفات پائی، آپ کی لوح مزار پر قطعات تاریخ وصال درج ہیں جنہیں شیخ محمد مطیع حافظ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، سید ابوالنصر خطیب نے اپنے مشائخ و مرویات پر کتاب ”الکنز الفرید فی علو الاسانید“ تصنیف کی پھر خود ہی اس کا اختصار ”الجوہر الفرید فی علو الاسانید“ کے نام سے کیا۔ (الاعلام، ج ۶، ص ۶۱۳، تاریخ علماء دمشق، ج ۱، ص ۲۲۲-۲۲۵، الدلیل المشری، ص ۴۱۳-۴۱۶، فہرس الفقہارس، ج ۱، ص ۱۶۲-۱۶۳، ج ۲، ص ۵۸۵)

[۴۶]۔ محدث مدینہ منورہ علامہ سید محمد علی بن ظاہر وتری حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۳ء) مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے اور وہیں وفات پائی، آپ نے اسلامی دنیا کے اکابر علماء و مشائخ سے استفادہ کیا جن میں شیخ عبدالغنی مجددی دہلوی مدنی (م ۱۲۹۶ھ)، امام محدث مفسر شیخ صدیق کمال کی حنفی (م ۱۲۸۴ھ)، مفتی شافعیہ علامہ سید احمد بن زینی دحلان کی مدنی (م ۱۳۰۴ھ)، شیخ عبدالجلیل برادہ مدنی حنفی (م ۱۳۲۷ھ)، شیخ ابراہیم سقا الازہری

مصری (م ۱۲۹۸ھ)، مفتی مالکیہ مصری شیخ محمد عیش (م ۱۲۹۹ھ)، شیخ داؤد بن سلیمان جرجیس بغدادی نقشبندی (۱۲۹۹ھ) رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ اکابرین شامل ہیں، علامہ سید محمد علی وتری مدینہ منورہ میں صدر مدرس تھے، آپ امام الحدیث کہلائے، آپ کی چند تصنیفات ہیں ۱۳۱۳ھ میں دو کتب ”رسالة فی تحقیق الکلام الرحمن الرحیم“ اور ”رسالة فی ہمزة الوصل والقطع“ یکجا مصر سے شائع ہوئیں، ایک اور تصنیف ”تہفۃ المدنیۃ فی المسلسلات الوتریۃ“ مخطوط مکتب حرم مکی ہے، عالم اسلام کے لاتعداد علماء نے آپ سے اخذ کیا جیسا کہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی لکھنوی (م ۱۳۴۴ھ)، مولوی عبدالکلیم ویلوری مدراسی (م ۱۳۳۶ھ) اور مولانا عنایت اللہ مٹاروی سندھی نے سفر حرمین شریفین کے دوران آپ سے روایت حدیث کی اسناد حاصل کیں، محدث مدینہ منورہ علامہ سید محمد علی وتری نے بعض علماء دیوبند کے افکار کے تعاقب میں لکھی گئی مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تقدیس الوکیل پر تقریظ قلمبند کی۔ (تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل، نوری بک ڈپو لاہور، الاعلام، ج ۶، ص ۳۰۱، الدلیل المشیر، ص ۲۲۳-۲۲۵، فہرس دارالکتب المصریۃ، ج ۱، ص ۱۸۳، فہرس الفہارس، ج ۱، ص ۱۰۶-۱۱۰، معجم مؤلفی مخطوطات مکتبۃ الحرم المکی الشریف، ص ۵۰۶، نزہۃ الخواطر، ج ۸، ص ۱۲۵۹، ۱۲۶۵، ۱۳۱۵)

[۴۷]- شیخ سلیم بخاری رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۴۷ھ / ۱۹۲۸ء) دمشق میں پیدا ہوئے اور وہاں کے اکابر علماء کرام فقیہ حنفی شیخ سعید برہانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۰۲ھ)، مفتی شام محدث فقیہ حنفی صاحب تصانیف عدیدہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ایک مقبول کتاب کے مصنف نابغہ شام علامہ سید محمود جزاوی حسین رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۰۵ھ)، فصوص الحکم وغیرہ کتب شیخ ابن عربی کے شارح شیخ عمر عطار حمصی دمشقی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۰۸ھ) اور محدث کبیر شیخ ابوبکر عطار شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۲۰ھ) کی شاگردی اختیار کی، شیخ سلیم بخاری حج کے لئے مکہ مکرمہ پہنچے تو وہاں چھ ماہ مقیم رہ کر اکابر علماء سے تحصیل علم کی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ

اور علامہ سید احمد بن زینی دحلان شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مختلف کتب پڑھیں اور شیخ احمد دھان رحمۃ اللہ علیہ سے احیاء علوم الدین پڑھی، شیخ سلیم بخاری عثمانی فوج میں مفتی رہے نیز عثمانی عہد اور اس کے بعد کی شامی حکومتوں میں دینی و سیاسی امور سے متعلق متعدد اہم عہدوں پر تعینات رہے، چند کتب تصنیف کیں، فقہ حنفی کی اہم کتاب ”الہدیۃ العلامیۃ“ آپ کی سعی سے پہلی بار طبع ہوئی، آپ نے دمشق میں وفات پائی۔ (الاعلام، ج ۳، ص ۱۱۶، تاریخ علماء دمشق، ج ۱، ص ۲۳۱-۲۳۵)

[۲۸]۔ علامہ سید ابوبکر بن عبدالرحمن عیدروس علوی حسینی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۲۲ھ/

۱۹۲۳) ترمیم شہر علاقہ حضرموت جنوبی یمن سے ملحق گاؤں حصن میں پیدا ہوئے اور حیدرآباد دکن (ہندوستان) میں وفات پائی، آپ کے دیگر اساتذہ میں علامہ سید احمد بن زینی دحلان مکی رحمۃ اللہ علیہ اہم ہیں، نیز سلسلہ رفاعیہ میں علامہ سید ابوالہدی رفاعی حلبی استنبولی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۲۷ھ) سے خلافت پائی، علامہ سید ابوبکر نے تیس کے قریب تصنیفات یادگار چھوڑیں جن میں چند کے نام یہ ہیں: رشقة الصادی من بحر فضائل النبی الہادی (مطبوع)، التریاق النافع بالیضاح جمع الجوامع (مطبوع)، سلالۃ باعلوی (مطبوع)، حدائق ذریعۃ الناهض الی تعلیم احکام الفرائض، آپ کے شاگردوں میں عثمانیہ یونیورسٹی شعبہ اسلامیات کے صدر مولانا عبدالقدیر حیدر آبادی (م ۱۳۸۱ھ) اہم نام ہے۔ (الاعلام، ج ۲، ص ۶۵، بلوغ الامانی، ص ۱۱۰، فہرس الفہارس، ج ۱، ص ۱۳۶-۱۳۷، نزہۃ الخواطر، ج ۸، ص ۱۲۸۸)

[۲۹]۔ شیخ صالح میمن کے دادا وطن سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچے تو کم سن صالح

آپ کے ہمراہ تھے، کچھ عرصہ بعد آپ واپس وطن چلے گئے جہاں شادی کی پھر مکہ مکرمہ جا کر شیخ العلماء مفتی مکہ مکرمہ شیخ جمال بن عبداللہ حنفی (م ۱۲۸۴ھ)، شیخ احمد دھان، مولانا رحمت اللہ کیرانوی اور ملا نواب کابلی مکی (م ۱۳۱۰ھ) سے تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ وغیرہ علوم کی تعلیم پائی، شیخ صالح میمن نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی، آپ کے دو فرزند تھے عبدالرحیم میمن اور عبداللہ میمن۔ (نثر الدرر، ص ۳۸)

[۵۰]- شاہ ابوالخیر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۱ھ) کے حالات پر ان کے فرزند شاہ ابوالحسن زید فاروقی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۱۴ھ/۱۹۹۴ء) کی ضخیم تصنیف ”مقامات خیر“ مطبوع ہے، نیز نزہۃ الخواطر، ج ۸، ص ۱۲۹۸

[۵۱]- نزہۃ الخواطر، ج ۸، ص ۱۱۶۳-۱۱۶۵

[۵۲]- نزہۃ الخواطر، ج ۸، ص ۱۲۹۶

[۵۳]- سیر و تراجم، ص ۱۶۰، مختصر نشر النور، ص ۸۹، نظم الدرر، ص ۱۱۳

[۵۴]- مدرسہ صولتیہ کی تاریخ اور خدمات پر ام القرئی یونیورسٹی مکہ مکرمہ کے طالب علم عبدالعزیز سلیمان عوض الفقیہ نے مقالہ بعنوان ”المدرسة الصولتية بمكة المكرمة - دراسة تاريخية وصفية ۱۲۹۲ھ-۱۳۱۲ھ“ لکھ کر ۱۳۱۵ھ میں اس پر ایم فل کی ڈگری حاصل کی۔ (معجم ما لوف عن مکة، ڈاکٹر عبدالعزیز بن راشد سعیدی، طبع اول ۱۳۲۰ھ/۱۹۹۹ء، ص ۳۲۲)

[۵۵]- مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ (م ۱۳۰۸ھ/۱۸۹۱ء) نے تحریک آزادی ہند میں حصہ لیا، مدرسہ صولتیہ کی بنیاد رکھی، عیسائیت، شیعیت، وہابیت کے تعاقب میں سرگرم رہے، علامہ سید احمد دحلان مکی مدنی شافعی اور استنبول میں واقع خلافت عثمانیہ سے وابستہ اکابر علماء کرام نیز خلیفہ عثمانی کی خواہش پر عربی زبان میں عیسائیت کے تعاقب میں عظیم کتاب ”اظہار الحق“ لکھی جس کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے، ریاض یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد ملکاوی نے اس کتاب پر تحقیق و تخریج کا کام کیا جسے سعودی حکومت کے قائم کردہ دارالافتاء ریاض نے ۱۳۱۰ھ/۱۹۸۹ء میں چار جلدوں میں طبع کرا کے مفت تقسیم کیا، پھر ڈاکٹر ملکاوی نے ہی اس کا خلاصہ ”مختصر کتاب اظہار الحق“ کے نام سے تیار کیا جسے ۱۳۱۶ھ میں سعودی وزارت اوقاف نے ایک جلد میں طبع کرا کے تقسیم کیا، مولانا کیرانوی کے حالات اردو و عربی کی متعدد کتب میں طبع ہو چکے ہیں، مولوی محمد سلیم کیرانوی نے آپ کے حالات پر عربی میں مستقل کتاب ”اکبر مجاہد فی التاريخ“ لکھی جو مطبوع ہے۔

[۵۶]۔ مولانا حضرت نور افغانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۲۱ھ/۱۹۰۳ء) نے مفتی حیدر آباد مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۲ھ) اور حافظ عبدالقدوس پنجابی سے تعلیم پائی، ۱۲۹۱ھ میں مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے جہاں مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی شاگردی اختیار کی پھر مدرسہ صولتیہ و مسجد حرام میں مدرس تعینات ہوئے اور خلق کثیر آپ سے فیض یاب ہوئی، آپ نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ (مختصر نشر النور، ص ۵۰۳-۵۰۴، نظم الدرر، ص ۲۱۴) تقدیس الوکیل پر آپ کی تصدیق موجود ہے۔

[۵۷]۔ مولانا اسماعیل کابلی اپنے والد ماجد ملا نواب کابلی (م ۱۳۱۰ھ) کے ہمراہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچے جہاں اپنے والد کے علاوہ دیگر علماء سے تعلیم حاصل کی، شیخ ابراہیم رشیدی ادریسی مکی (م ۱۲۹۱ھ) سے سلوک کی منازل طے کیں نیز علامہ سید محمد بن ناصر حسینی یمنی (م ۱۲۸۳ھ) سے اخذ کیا، مولانا اسماعیل نے مدینہ منورہ میں وفات پائی، آپ کی ایک عربی تصنیف ”مناقب ابراہیم الرشید“ کے دو مخطوطات مکتبہ حرم مکی میں اور ایک مخطوط دارالکتب طاہریہ دمشق میں موجود ہے۔ (الاعلام، ج ۱، ص ۴۴، معجم مؤلفی مخطوطات مکتبہ الحرم المکی الشریف، ص ۴۷۲، نشر الدرر، ص ۱۸)

[۵۸]۔ العلامة المتبحر الفقیہ الکبیر صاحب الحاشیہ علی تحفۃ ابن حجر شیخ عبدالحمید داغستانی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۰۰ھ/۱۸۸۳ء) آپ الامام الکبیر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چند اہم کتب کے محشی شیخ الازہر شیخ ابراہیم باجوری مصری رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۷۷ھ) کے شاگرد خاص ہیں، شیخ عبدالحمید داغستانی کے اہم شاگردوں میں حسام الحرمین کے مقرر مفتی شیخ عبدالکریم داغستانی مکی (م ۱۳۳۸ھ)، علامہ سید سلطان داغستانی مکی (م ۱۳۲۶ھ)، شیخ جعفر داغستانی مکی (م ۱۳۱۲ھ)، شیخ سلیمان فقیہ مکی شافعی (م ۱۳۱۵ھ)، شیخ عبداللہ خضری مکی شافعی (م ۱۳۳۷ھ)، شیخ عبدالوہاب بصری مکی شافعی (م ۱۳۲۲ھ) اور شیخ محمد بن سلیمان حسب اللہ مکی شافعی (م ۱۳۳۵ھ) رحمہم اللہ تعالیٰ شامل ہیں۔ (تشذیب الاسماع، ص ۳۳۵-۳۳۶،

سیر و تراجم، ص ۱۱۶، ۲۱۲، مختصر نشر النور، ص ۱۵۶، ۲۰۶، ۲۰۹، ۲۷۹، ۲۹۳، ۳۲۳، ۳۱۹)

[۵۹]۔ مفت احناف شیخ عبدالرحمن سراج مکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۱۳ھ) نے قاہرہ مصر میں وفات پائی، مکتبہ حرم مکی میں مخطوطات کی شکل میں آپ کی حسب ذیل تصنیفات موجود ہیں:

فتویٰ عمّن دخل والا امام یصلی الفجر هل یرکع رکعتی النہ ۳۸۰۱، سهام الاصابۃ فی تحقیق لفظ الصحابۃ ۳۸۰۱، فتویٰ حول الوقف ۳۸۰۳، فتاویٰ فقہیہ ۳۹۵۰، فتویٰ عن العدة ۳۰۸۳۔ آپ کے چند اور شاگردوں کے اسماء گرامی یہ ہیں: مسجد حرام کے امام خطیب مدرس قاضی طائف شیخ عبدالرحمن عجمی مکی حنفی (م ۱۳۰۱ھ)، امام و مدرس مسجد حرام شیخ درویش عجمی مکی حنفی (م ۱۳۳۶ھ)، امام مسجد حرام شیخ احمد اسماعیل حنفی، شیخ خلیل جبرتی حنفی نزیل مکہ مکرمہ، قاضی طائف شیخ عبدالقادر فتی مکی حنفی (م ۱۳۲۵ھ)، مکتوبات مجدد کے محشی و ناشر مولانا نور احمد پسروری ثم امرتسری (م ۱۳۳۸ھ)، مولانا احمد الدین چکواہی سیالوی اور مولانا احمد رضا خاں بریلوی رحمہم اللہ تعالیٰ۔ (اعلام الحجاز فی القرن الرابع عشر للهجرة، محمد علی مغربی (م ۱۹۹۶ء) ج ۳، طبع اول ۱۳۱۰ھ/۱۹۹۰ء، مطبع مدنی قاہرہ، ص ۳۳۹-۳۷۲، معجم مؤلفی مخطوطات مکتبۃ الحرم المکی الشریف، ص ۳۰۵، مختصر نشر النور، ص ۲۳۳-۲۳۲ و دیگر صفحات، نظم الدرر، ص ۱۸۳-۱۸۴ و دیگر صفحات، نزہۃ الخواطر، ج ۸، ص ۱۳۹۴، سالنامہ معارف رضا کراچی شمارہ ۱۳۱۹ھ ۱۹۹۸ء، ص ۱۶۵-۱۸۱)

[۶۰]۔ حافظ عبداللہ بن مولانا حسین ہندی مکی (م ۱۳۱۰ھ/۱۸۹۲ء) نے مولانا رحمت اللہ کیرانوی سے مختلف علوم و فنون میں تعلیم پائی پھر مسجد حرام میں مدرس تعینات ہوئے، آپ ذہین و فطین تھے، متعدد کتب کے متون حفظ تھے، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور تقریباً ۳۴ برس کی عمر میں وبائی مرض کے باعث مکہ مکرمہ میں شہادت پائی۔ (مختصر نشر النور، ص ۱۶۳-۱۶۴۔ نظم الدرر، ص ۱۹۹)

[۶۱]۔ علامہ سید احمد بن زینی دحلان شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۰۳ھ/۱۸۸۶ء)

تصنیف و تالیف، درس و تدریس اور اعلیٰ مناصب، ہر اعتبار سے علماء مکہ کے سر تاج تھے، عرب و عجم کے لاتعداد اکابر علماء نے آپ سے استفادہ کیا اور آپ سے روایت حدیث میں اسناد حاصل کیں، برصغیر سے تعلق رکھنے والے آپ کے بعض اہم تلامذہ کے نام یہ ہیں: مولانا عبدالحلیم لکھنوی (م ۱۲۸۵ھ)، مولانا عبدالحی لکھنوی (م ۱۳۰۴ھ)، مولانا نقی علی خاں بریلوی (۱۲۹۷ھ)، مولانا احمد رضا خاں بریلوی (م ۱۳۳۰ھ)، مولوی عبدالسلام ہسوی فتحپوری (م ۱۲۹۹ھ)، مولوی حسین علی فتحپوری (م ۱۲۸۴ھ)، مولوی ابراہیم آروی (م ۱۳۱۹ھ)، مولوی ذوالفقار احمد مالوی بھوپالی (م ۱۳۲۰ھ)، مولوی عبدالعزیز کشمیری لکھنوی، مولوی سید عبداللہ بلگرامی (۱۳۰۵ھ)، مولوی عبدالوہاب ویلوری مالاباری قادری (م ۱۳۳۷ھ)، مولوی قادر بخش سہراوی (م ۱۳۳۷ھ)، مولوی محمد بن غلام رسول سورتی (۱۳۲۴ھ)، مولوی محمد حسین الہ آبادی (م ۱۳۲۲ھ)، مولوی محمد نعیم لکھنوی (م ۱۳۱۸ھ)، مولوی نور احمد پسروری امرتسری، مولوی نور احمد ڈھیانوی۔ (نزہۃ الخواطر، ج ۷، ج ۸ مختلف صفحات)

[۶۲]۔ بلوغ الامانی، ص ۶۵

[۶۳]۔ مختصر نشر النور، ص ۱۲۹-۱۳۰، نظم الدرر، ص ۱۶۷-۱۶۸

[۶۴]۔ اہل الحجاز بعقبہم التاریخی، حسن عبدالحی قزاز مکی (پ ۱۹۱۸ء)، طبع

اول ۱۳۱۵ھ/۱۹۹۳ء مطابع مدینہ جدہ، ص ۲۵۸، سیر و تراجم، ص ۷۲، سالنامہ معارف رضا، کراچی،

شمارہ ۱۹۹۹ء، ص ۱۹۴

[۶۵]۔ سید حسین بن علی ہاشمی (م ۱۳۵۰ھ/۱۹۳۱ء) خلیفہ عثمانی کی طرف

سے ۱۳۲۶ھ سے ۱۳۳۴ھ تک مکہ مکرمہ کے گورنر رہے پھر مملکت ہاشمیہ حجاز قائم کر کے اس کے

پہلے بادشاہ ہوئے، اب آپ کی اولاد اردن پر حکمرانی کر رہی ہے، اردن کا یہ شاہی خاندان آج بھی

مسک اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہے، چنانچہ ۱۳۲۰ھ/۱۹۹۹ء میں اردن کی وزارت اوقاف

کی طرف سے ملک کے دارالحکومت عمان کی شاہی مسجد شاہ عبداللہ اول شہید سے ملحقہ ہال میں

مرکزی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہوئی جس کی صدارت شاہ اردن سید عبداللہ دوم نے کی نیز اس میں شاہی خاندان کے دیگر افراد اور حکومت کے اعلیٰ عہدیداران نے شرکت کی سعادت حاصل کی، اگلے روز ملک کے کثیر الاشاعت اخبار نے اس کانفرنس سے متعلق خبر کو صفحہ اول کی ہیڈ لائن کے طور پر شائع کیا۔ (الاعلام، ج ۲، ص ۲۴۹-۲۵۰، روزنامہ الدستور (سن اجراء ۱۹۶۷ء) عمان، شمارہ ۱۲/ربیع الاول ۱۴۲۰ھ/۲۵/جون ۱۹۹۶ء ص اول)

[۶۶]- سیر و تراجم، ص ۷۲ اور پھر اس سے اخذ کر کے اہل الحجاز، ص ۲۵۸ نیز سالنامہ معارف رضا ۱۹۹۹ء، ص ۱۹۵ پر اس ادارے کا نام ’’ہیئۃ تحقیقات شؤون الموظفين یعنی وظائف حاصل کرنے والوں کے حالات کی تحقیقات کا بورڈ‘‘ درج ہے جو سیر و تراجم کے کاتب کی غلطی ہے پھر نقل در نقل ہوتا چلا گیا، نشر النور، ص ۱۲۹، نظم الدرر، ص ۱۶۸ پر درست نام دیا گیا ہے۔

[۶۷]- مختصر نشر النور، ص ۳۲۶، نظم الدرر، ص ۱۳۶

[۶۸]- اہل الحجاز ص ۲۵۸ پر کاتب کی غلطی سے آپ کے حج بنائے جانے کا سال ۱۳۳۷ھ کی بجائے ۱۳۷۷ھ درج ہے جب کہ مختصر نشر النور ص ۱۶۸، نظم الدرر ص ۱۶۸ نیز سیر و تراجم، ص ۷۲ پر درست سال یعنی ۱۳۳۷ھ مذکور ہے۔

[۶۹]- سیر و تراجم، ص ۷۲، مختصر نشر النور، ص ۱۲۹، نظم الدرر، ص ۱۶۸

[۷۰]- عمر عبدالجبار کی (م ۱۳۹۱ھ/۱۹۷۱ء) چودہویں صدی ہجری کے علماء مکہ کے اہم سوانح نگار تھے، آپ ہاشمی اور پھر سعودی عہد کے دوران مکہ مکرمہ میں مختلف اہم سرکاری مناصب پر تعینات رہے، ساتھ ہی علم و ادب سے وابستہ رہے اور علماء مکہ کے حالات پر مضامین قلمبند کئے جو حجاز مقدس کے معاصر اخبارات و رسائل میں شائع ہوتے رہے پھر انہیں ’’دروس من ماضی التعليم وحاضرہ بالمسجد الحرام‘‘ کے نام سے کتابی شکل دی جو ۱۳۷۹ھ میں قاہرہ سے طبع ہوئی، بعد ازاں اس کتاب میں مزید علماء مکہ کے حالات شامل کئے اور یہ ’’سیر و تراجم بعض علمائنا فی القرن الرابع عشر للهجرة‘‘ کے نام سے شائع ہوئی۔ (الاعلام، ج ۵، ص ۴۹، سیر و تراجم، ص ۷۱ و آخری

صفحہ، سالنامہ معارف رضا کراچی، شمارہ ۱۹۹۸ء، ص ۱۷۹)

[۷۱]۔ سیر و تراجم، ص ۷۲-۷۳

[۷۲]۔ علامہ سید عیدروس بن سالم البارکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۷ھ / ۱۹۴۷ء) جید

عالم دین و ولی اللہ تھے، آپ نے تصوف و صوفیاء کے جمیع سلاسل میں اکابر صوفیاء کرام، اپنے والد

ماجد علامہ سید سالم بن عیدروس البار نیز امام احمد بن حسن عطاس حضرمی (م ۱۳۳۴ھ)، علامہ سید

ابوالنصر ذطیب دمشقی، شیخ احمد شمس مراکشی، مفتی شافعیہ و سلسلہ عیدروسیہ علویہ کے پیر طریقت علامہ

سید حسین بن محمد حبشی مکی (م ۱۳۳۰ھ)، صاحب حزم علامہ سید عیدروس بن حسین عیدروس نزیل

حیدرآباد دکن (م ۱۳۳۶ھ) اور شیخ محمد معصوم مجددی دہلوی مدنی (م ۱۳۳۱ھ) رحمہم اللہ تعالیٰ سے

خلافت پائی، علامہ سید عیدروس البار اپنے شاگردوں اور خلفاء کو دیگر کتب کے علاوہ میلاد و قیام

کے موضوع پر شیخ محمد عزب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی منظوم کتاب ”مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم“ پڑھایا

کرتے، آپ کے بیٹے علامہ سید علی بن عیدروس البار (م ۱۴۰۹ھ) بھی عالم دین اور مسجد حرام میں

مدرس تھے، اب آپ کے پوتے ڈاکٹر سید عبداللہ بن علی بن عیدروس البار مکرمہ کی علمی شخصیات

میں سے ہیں، علامہ سید عیدروس البار کے چھوٹے بھائی علامہ سید ابوبکر بن سالم البار رحمۃ اللہ

علیہ (م ۱۳۸۴ھ) اور آپ کے والد ماجد علامہ سید سالم بن عیدروس البار رحمۃ اللہ علیہ نے فاضل

بریلوی سے خلافت پائی۔ (الاجازات الممتینہ، ص ۵۰، اہل الحجاز، ص ۲۶۷-۲۷۳، الدلیل

المشیر، ص ۳۳۰-۳۳۷، سیر و تراجم، ص ۲۱۸-۲۲۰، نثر الدرر، ص ۴۲)

[۷۳]۔ علامہ سید صالح بن علوی بن صالح بن عقیل شافعی (م ۱۳۵۹ھ / ۱۹۴۰ء)

کو ۱۳۳۲ء میں مسجد حرام میں تدریس کی اجازت ملی، مکہ مکرمہ میں سادات علویہ بڑی تعداد میں آباد

ہیں جن میں صاحبان علم و فضل موجود رہے، یہ خاندان پانچویں صدی ہجری کے امام سید علوی بن

عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسل ہونے کی بنا پر علوی کہلاتا ہے جن کا سلسلہ نسب امام زین العابدین بن

امام حسین رضی اللہ عنہم سے جا ملتا ہے، اس خاندان کے معاملات کو بہتر طور پر چلانے کے لئے ہر

دور میں ایک سربراہ منتخب کیا جاتا جسے ”شیخ السادة العلویہ“ کہتے تھے، عثمانی و ہاشمی دور تک مسلمانان عالم نیز حکومت کے ہاں اس منصب کو خاص اعزاز و اہمیت حاصل تھی، علامہ سید صالح شافعی اس پر خدمات انجام دینے والے آخری فرد تھے، سعودی عہد آیا تو اس منصب کو غیر مؤثر کر دیا گیا، علامہ سید صالح سے قبل ان کے گھرانہ سے علامہ سید اسحاق بن عقیل (م ۱۲۷۱ھ)، علامہ سید عبداللہ بن عقیل اور علامہ سید محمد بن اسحاق اس منصب پر تعینات روچے تھے، علاوہ ازیں آپ کے والد علامہ سید علوی بن صالح (م ۱۳۳۸ھ) بھی عالم دین اور آپ پر دادا علامہ سید عقیل مکی شافعی (م ۱۲۲۷ھ) صاحب تصانیف تھے، آج کے مکہ مکرمہ میں اس گھرانہ میں علامہ سید صالح کے بھتیجے علامہ سید عبدالحمید بن زینی بن علوی عقیل، ماہر انساب اور علمی شخصیت ہیں۔ (سیر و تراجم، ص ۱۲۸، اہل الحجاز، ص ۲۹۶-۲۹۷، مختصر نشر النور، ص ۱۲۸، ۳۳۹، ۳۴۵، نظم الدرر، ص ۱۳۸، ۱۹۰، معارف رضا ۱۹۹۸ء، ص ۱۸۳، ۱۸۵)

[۷۴]۔ شیخ بکر بن محمد سعید باہصیل شافعی (م ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۹ء) مدرس مسجد حرام کے علاوہ سعودی عہد میں قاضی رہے، آپ کی اولاد بھی علم سے وابستہ رہی (سیر و تراجم، ص ۸۴-۸۵)، آپ کے والد ماجد شیخ الاسلام مفتی شافعیہ شیخ محمد سعید باہصیل رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۰ھ) نے تقدیس الوکیل اور الدولۃ المکیہ و حسام الحرمین پر تقاریظ قلمبند کیں۔

[۷۵]۔ علامہ سید صالح شطا حسینی مکی شافعی بن علامہ سید ابوبکر شطا بن سید محمد زین الدین شطا (م ۱۳۶۹ھ/۱۹۵۰ء) کی عمر آترج برس تھی کہ آپ کے والد ماجد نے وفات پائی، شطا کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دادا علامہ سید محمد زین الدین مصر کے شہر دمياط میں واقع حضرت شیخ شطا شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر خادم خاص تھے، اسی باعث آپ سید محمد شطا مشہور ہوئے اور بعد میں یہ لقب آپ کی اولاد کی پہچان بن گیا، آپ کے والد ماجد علامہ سید ابوبکر شطا شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۱۰ھ) مکہ مکرمہ کے اکابر علماء میں سے تھے جن کی متعدد تصنیفات ہیں، انہوں نے تصوف کے موضوع پر دو کتب بنام ”کفایۃ الاقنیاء و منہاج الاصفیاء“ اور ”ہدایۃ الاذکیاء الی

طریقۃ الاولیاء“ تصنیف کیس تھیں نیز اپنے استاد ”الدرر السدیۃ فی الرد علی الوہابیۃ“ کے مصنف علامہ سید احمد بن زینی دحلان مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و فضائل پر مستقل کتاب ”فتح الرحمن فی بعض مناقب السید احمد ابن زینی دحلان“ لکھی جو بقول عمر رضا کمالہ ۱۳۵۰ھ میں مصر شائع ہوئی، آپ کے چچا علامہ سید عثمان شطا شافعی بن سید محمد زین الدین شطا رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۹۵ھ) بھی عالم جلیل اور صاحب تصانیف تھے، علامہ عثمان شطانے اپنے استاد علامہ سید احمد بن زینی دحلان کی ”شرح الاجرومیۃ“ پر تقریرات لکھیں، شطا خاندان مکہ مکرمہ میں متعدد علماء ہو گزرے جن میں سید صالح شطا پہلے فرد ہیں جنہوں نے وہابیت اختیار کی پھر مملکت سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز ال سعود (م ۱۳۷۳ھ) نے انہیں اپنا مشیر برائے صوبہ حجاز مقرر کیا نیز سعودی مجلس شوریٰ کے نائب صدر وغیرہ اہم عہدوں پر تعینات کیا۔ (شرح الاجرومیۃ مع تقریرات، علامہ سید احمد دحلان و علامہ سید عثمان شطا، طبع مصر ۱۹۵۳ء، کنز العطاء فی ترجمۃ العلامة السید بکری شطا، شیخ عبدالحمید قدس مکی شافعی، طبع اول ۱۳۳۰ھ مطبع حسینیہ قاہرہ، ص ۶، ۱۲، تشنیف الاسماع، ص ۲۲۵-۲۲۶، سیر و تراجم، ص ۱۲۲-۱۲۷، مختصر نشر النور، ص ۱۲۳-۱۲۴، نظم الدرر، ص ۱۶۹)

[۷۶]۔ شیخ عبدالعزیز بن عمر عکاس (م ۱۳۸۳ھ / ۱۹۶۳ء) نجد سے مشرق میں واقع احساء شہر میں پیدا ہوئے وہیں پر اپنے چچا کے علاوہ فقیہ احناف شیخ عبدالطیف بن عبدالرحمن ملا احسانی اور خلافت عثمانیہ کی طرف سے قاضی احساء شیخ عبید اللہ پشاوری سے تعلیم پائی، مزید حصول علم کے لئے مکہ مکرمہ کی راہ لی اور وہاں کے علماء سے مختلف علوم پڑھے، پھر بادشاہ عبدالعزیز ال سعود نے شیخ عکاس کو جبیل شہر کا قاضی مقرر کیا اور ۱۳۷۳ھ میں محکمہ امر بالمعروف میں احساء اور اس سے ملحقہ علاقوں کے لئے صدر نامزد کیا۔ (سیر و تراجم، ص ۱۸۸-۱۸۹)

[۷۷]۔ شیخ محمد علی بلخیور (م ۱۳۳۸ھ / ۱۹۲۰ء) کے دیگر اساتذہ میں شیخ صالح بافضل (م ۱۳۳۳ھ)، شیخ عمر ماجنید (م ۱۳۵۴ھ) اور شیخ محمد سعید با بصلیل شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی شامل ہیں، شیخ بلخیور جب مدرس ہوئے تو مسجد حرام میں باب داؤدیہ کے سامنے حلقہ

درس منعقد کرتے۔ (سیر و تراجم، ص ۲۲۹-۲۵۱)

[۷۸]- عرب و عجم سے تعلق رکھنے والے جن علماء و مشائخ کو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت عطا کی ان کے ناموں کی حتمی فہرست تا حال منظر عام پر نہیں آئی، الدلیل المشیر سے معلوم ہوا کہ شیخ احمد بن عبداللہ ناضرین مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۰ء) نے فاضل بریلوی سے خلافت پائی۔ (بلوغ الامانی، ص ۶۵، تشذیب الاسماع، ص ۵۹-۶۰، الدلیل المشیر، ص ۴۷-۵۱، نثر الدرر، ص ۲۲)

[۷۹]- شیخ حسن یمانی بن شیخ محمد سعید یمانی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱ء) مسجد حرام کے باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب درس دیا کرتے، آپ کے تلامذہ میں حجاز مقدس کے مشہور محقق و سعودی علماء سپریم کونسل کے رکن پروفیسر ڈاکٹر عبدالوہاب ابوسلیمان مکی (پ ۱۳۵۵ھ) اہم نام ہیں۔ (روزنامہ عکاظ جدہ، ریاض، ۲۲ نومبر ۱۹۹۷ء، ص ۴، بلوغ الامانی، ص ۶۲-۶۵)، آپ کے والد ماجد شیخ محمد سعید یمانی مکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۲ھ) نے حسام الحرمین پر تقریظ لکھی۔

[۸۰]- شیخ سالم شفی مکی (م ۱۳۷۳ھ / ۱۹۵۳ء) مسجد حرام میں مدرس کے علاوہ ہاشمی عہد کے مکہ مکرمہ میں فوری انصاف فراہم کرنے والی عدالت کے قاضی اور پھر سعودی عہد میں اعلیٰ عدالت میز قاضی و نائب تعینات رہے۔ (سیر و تراجم، ص ۱۱۳-۱۱۵، نثر الدرر، ص ۳۳)

[۸۱]- مختصر نثر النور، ص ۱۳۰، نظم الدرر، ص ۱۶۸

[۸۲]- حسام الحرمین علی منخر الکفر والین، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، مکتبہ نبویہ

لاہور، طبع ۱۹۷۵ء، ص ۷۹

[۸۳]- الاجازات المتینہ، ص ۳۳

[۸۴]- ایضاً، ص ۴۹

[۸۵]- مختصر نثر النور، ص ۱۲۹

[۸۶]۔ سیر و تراجم، ص ۷۲، اہل الحجاز، ص ۲۵۸، سالنامہ معارف رضا

۱۹۹۹ء، ص ۱۹۴

[۸۷]۔ شیخ عبداللہ بن محمد غازی ہندی مکی (م ۱۳۶۵ھ / ۱۹۴۶ء) مدرس صولتیہ میں

کتب خانہ کے محافظ تھے، آپ علماء مکہ کے اہم سوانح نگار تھے، نشر النور کی تلخیص نظم الدرر کے نام

سے تیار کی پھر اس کا تاملہ نشر الدرر تصنیف کیا۔ تاریخ و سیر وغیرہ موضوعات پر عربی میں آٹھ ضخیم

تصنیفات ہیں جن میں سے ایک ”فتح القوی“ شائع ہوئی اور باقی کے مخطوطات محفوظ ہیں۔ (فتح

القوی فی ذکر اسانید السید حسین الحسبشی العلوی، شیخ عبداللہ غازی، طبع اول ۱۴۱۸ھ / ۱۹۹۷ء،

ناشر سید محمد حبشی مکہ مکرمہ، ص ۸۵-۹۳)

[۸۸]۔ نظم الدرر حاشیہ، ص ۱۶۸

[۸۹]۔ سیر و تراجم، ص ۱۶۰-۱۶۲، مختصر نشر النور، ص ۲۴۱-۲۴۲، نظم الدرر،

ص ۱۸۴-۱۸۵

[۹۰]۔ امداد الفتاح، ص ۳۷۸

[۹۱]۔ ملا یوسف بن الحاج اسماعیل بنگالی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، قرآن مجید حفظ کیا

پھر ہندوستان آ کر مزید تعلیم حاصل کی اور واپس مکہ مکرمہ پہنچ کر شادی کی اور مدرسہ صولتیہ نیز مسجد

حرام میں مدرس تعینات ہوئے، آپ کا سن ولادت و وفات کہیں درج نہیں لیکن اتنا واضح ہے کہ

آپ نے ۱۳۰۸ھ کے بعد مکہ مکرمہ میں وفات پائی، آپ کے دو بیٹے یعقوب اور ایوب نام کے

تھے۔ (مختصر نشر النور، ص ۵۱۹، نظم الدرر، ص ۲۱۵)

[۹۲]۔ شیخ عبدالحمید بخش ہندی مکی (م ۱۳۲۵ھ / ۱۹۰۷ء) بچپن میں ہندوستان سے

ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچے جہاں قرآن مجید حفظ کیا اور دیگر علوم حاصل کئے، آپ ماہر فلکیات تھے

اور خلق کثیر نے آپ سے استفادہ کیا، آپ عالم فاضل، زاہد و عابد اور بکثرت تلاوت قرآن مجید

کے پابند تھے، مکہ مکرمہ میں ہی وفات پائی۔ (مختصر نشر النور، ص ۲۳۵، نظم الدرر، ص ۱۹۴)

[۹۳]۔ سیر و تراجم، ص ۱۶۰-۱۶۲

[۹۴]۔ مختصر نشر النور، ص ۲۳۱-۲۳۲، نظم الدرر، ص ۱۸۲-۱۸۵

[۹۵]۔ نشر الدرر، ص ۷۷

[۹۶]۔ علامہ سید حسین شطابن سید ابوبکر شطابلی شافعی (م ۱۳۵۵ھ/۱۹۳۶ء) کے دیگر

اساتذہ میں آپ کے بھائی علامہ سید احمد شطا (م ۱۳۳۲ھ) کے علاوہ منشی شافعیہ علامہ سید حسین حبشی مکی (م ۱۳۳۰ھ)، شیخ محمد یوسف خیاط مکی (وفات انڈونیشیا) اور علامہ سید عبداللہ دحلان مکی شافعی (م ۱۳۶۰ھ انڈونیشیا) کے نام شامل ہیں، سید حسین شطا جب مسجد حرام میں مدرس ہوئے تو باب زیادة کے برآمدہ میں حلقہ درس منعقد کیا کرتے، آپ کے بیٹے سید علوی شطا مدرسہ عزیز یہ مکہ مکرمہ کے ادارہ سے طویل عرصہ وابستہ رہے پھر طائف شہر میں محکمہ بجلی کے سربراہ ہوئے۔ (سیر و تراجم، ص ۹۳-۹۵، اہل الحجاز، ص ۲۹۵-۲۹۶)

[۹۷]۔ شیخ خلیفہ بن حمد نبھانی مالکی (م ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۵ء) بحرین میں پیدا ہوئے اور

۱۲۸۷ھ میں جب کہ آپ کی عمر سترہ برس تھی، آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ نیز وہاں پر وارد ہونے والے عالم اسلام کے اکابر علماء سے مختلف علوم و فنون اخذ کئے، پھر ۱۳۲۳ھ میں مسجد حرام میں مدرس نیز مالکیہ کے امام مقرر ہوئے، وہ پ ماہر غوط خور، انجینیر، علم فلک و توقيت کے ماہر، سیاح، متعدد کتب کے مصنف اور فقیہ مالکی تھے، ایک بار حج کے ایام میں ایک حاجی زمزم کے کنواں میں گر کر مر گئے تو حکومت نے نعش باہر نکالنے اور کنویں کی صفائی کے لئے بندرگاہ جدہ سے چند ماہر غواص طلب کئے، لیکن وہ کنویں میں اترنے کی ہمت نہ کر پائے، اس پر شیخ خلیفہ نبھانی تن تنہا اس میں اترے اور نہ صرف نعش کو باہر نکالا بلکہ پانی کے اندر موجود ملبہ کے مقامات کی نشان دہی کی نیز پانی کی پیمائش لی، ۱۳۲۶ھ میں آپ نہر زبیدہ و چشمہ زعفران کے انجینیر بنائے گئے، آپ نہر زبیدہ میں داخل ہوئے اور اس کے تمام حصوں کا معائنہ کرنے کے بعد اس سے ملحق دوسرے چشمہ سے باہر نکلے، علاوہ ازیں آپ مکہ مکرمہ میں توقيت پر تحقیق کرنے

والے ادارہ کے سربراہ تھے، آپ انڈونیشیا، بصرہ، سنگاپور، مسقط، عدن، زنجبار، کویت اور افریقہ کی سیاحت کی، آپ کی تصنیفات کے نام یہ ہیں:

الوسيلة المرعية لمعرفة الاوقات الشرعية، جداول الدائرة المغناطيسية لمعرفة القبلة
الاسلامية، التقريرات النفسية في بيان البسيطة والكبيسة، منظومة في منازل القمر، مجموعة رسائل في علم
الفلك، رسالة رسم البساط، ثمرات الوسيلة لمن اراد الفضيلة في العمل بالربع المجيب، آپ کے
شاگردوں میں امام سید علوی بن عباس مالکی مکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۹۱ھ) اہم نام ہے، آپ کے
حالات پر آپ کے ایک اور شاگرد شیخ محمد یاسین فادانی مکی شافعی نے مستقل کتاب ”فیض الرحمن فی
اسانید و ترجمہ شیخنا خلیفہ بن حمد آل نبھان“ تصنیف کی، شیخ خلیفہ کاسن وفات سیر و تراجم میں
۱۳۶۲ھ اور نثر الدرر میں یکم ذیقعدہ ۱۳۵۳ھ مذکور ہے۔ (بلوغ الامانی، ص ۵۲، تشذیب الاسماع،
ص ۱۹۰-۱۹۳، سیر و تراجم، ص ۱۰۱-۱۰۴)

[۹۸]- شیخ صالح بن شیخ محمد سعید یمانی مکی شافعی (پ ۱۳۱۰ھ / ۱۸۹۲ء) آپ شیخ

عبدالرحمن دھان کے خاص شاگرد تھے، آپ عالم شباب میں مسجد حرام میں مدرس ہوئے جہاں
باب عمرہ کے قریب حلقہ درس منعقد کرتے، حجاز مقدس میں انقلاب برپا ہوا تو اس دوران آپ
ترک وطن کر کے انڈونیشیا چلے گئے جہاں آپ کے والد کے شاگردوں نے آپ کی بھرپور پذیرائی
کی اور آپ وہاں لغت نیز فقہ شافعی پڑھانے میں مشغول ہو گئے اور کئی عشروں بعد ۱۳۷۰ھ میں
واپس مکہ مکرمہ لوٹے جہاں مجلس شوریٰ کے رکن بنائے گئے۔ (اہل الحجاز، ص ۲۹۷-۲۹۸،
سیر و تراجم، ص ۱۲۹-۱۳۰)

[۹۹]- شیخ عبدالحمید قدس مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۳۳ھ / ۱۹۱۶ء) نے مختلف

موضوعات پر نظم و نثر میں تیس سے زائد تصنیفات یادگار چھوڑیں جن میں سے چند نام یہ ہیں:
المفاخر السنیة مخطوط مکتبہ مکہ مکرمہ، قصۃ المولد النبوی الشریف مخطوط مکتبہ مکہ مکرمہ، رسالۃ فی تراجم
علماء مکة مخطوط مکتبہ حرم مکی، الجوهر المفضیة فی الاخلاق المرصیة المأثورة عن خیر البریة منظوم طبع

مصر ۱۳۱۹ھ، الذخائر القدسیة فی زیارة خیر البریة طبع اول مصر ۱۳۲۱ھ، انذار الحاضر والباد عن کتابة اسم معظم علی الکفن بما یثبت جرمہ کالمواد، طبع مصر ۱۳۲۲ھ، ارشاد المحدثی الی شرح کفایة المبتدی، طبع مصر ۱۳۰۹ھ، الانوار السنیة علی الدرر البھیة، طبع مکہ مکرمہ ۱۳۱۳ھ، جزء تفسیر القرآن العظیم (انڈونیشی زبان)، طبع مصر ۱۳۲۲ھ، آج کے دور میں آپ کے ایک پوتے محمد علی قدس حجاز مقدس کے اہم ادباء میں شمار ہوتے ہیں اور دوسرے پوتے ڈاکٹر عصام عمر قدس جدہ شہر میں واقع آنکھوں کے سب سے بڑے ہسپتال ”مستشفى العیون“ کے ڈائریکٹر ہیں۔ (کنز النجیح والسرور فی الادعیة الی شرح الصدور، شیخ عبدالحمید قدس، طبع ۱۳۱۹ھ / ۱۹۹۸ء، تقدیم از قلم محمد علی قدس، فہرس مخطوطات مکتبہ مکة المکرمة۔ قسم التاریخ، ڈاکٹر محمد حبیب ہیلہ، طبع اول ۱۳۱۴ھ / ۱۹۹۴ء، مؤسسۃ الفرقان للتراث الاسلامی لندن، ص ۷۶-۷۷، فہرس دارالکتب المصریة، ج ۱، ص ۲۸۵، ۲۹۹، ۴۹۹، معجم مؤلفی مخطوطات مکتبہ الحرم المکی الشریف، ص ۴۰۳)

[۱۰۰]۔ شیخ عیسیٰ رواں مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۶۵ھ / ۱۹۴۶ء)، آپ شیخ عبدالرحمن

دھان کے شاگرد خاص تھے، علاوہ ازیں مدینہ منورہ میں مولانا عبدالباقی لکھنوی مدنی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۴ھ) سے استفادہ کیا، پھر مسجد حرام کے علاوہ مدرسہ فلاح مکہ مکرمہ میں طویل عرصہ مدرس رہے، نیز اپنے گھر پر بھی تدریس جاری رکھی، آپ عمر بھر روضہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے پابہ رکاب رہے اور اس نیت سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لاتعداد سفر کئے، آپ جرأت و شجاعت میں مشہور تھے، آپ شیخ عبدالرحمن دھان رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں آسودہ خاک ہوئے۔ (اہل احجاز، ص ۲۹۹-۳۰۱، الدلیل المشیر، ص ۳۳۷، سیر و تراجم، ص ۲۱۵-۲۱۷)

[۱۰۱]۔ شیخ محمد کامل سندھی (م ۱۳۵۳ھ) مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مسجد حرام میں شیخ

عبدالرحمن دھان کے علاوہ شیخ محمد صالح کمال حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۲ھ) اور مفتی شافعیہ شیخ محمد سعید باہصیل رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم پائی پھر مسجد حرام کی انتظامیہ میں ملازمت اختیار کی اور ائمہ

و مؤذنین، مدرسین و معلمین کے معاملات پر نگران مقرر ہوئے نیز حلقہ درس قائم کیا، آپ کے تین بیٹے ہوئے، شیخ عبدالسلام، شیخ عبداللہ کامل اور شیخ سعید، اول الذکر اپنے والد کی جگہ ملازم ہوئے جبکہ ثانی الذکر سعودی عہد میں ایوان شاہی میں مختلف اہم عہدوں پر تعینات رہے۔ (سیر و تراجم، ص ۲۲۶-۲۲۸)

[۱۰۲]- شیخ محمد علی رضینی (م ۱۳۵۱ھ) مسجد حرام میں باب داؤدیہ و باب عمرہ کے درمیان برآمدہ میں انڈونیشیا کے طلباء کو قرآن مجید کی تعلیم اور فن تجوید سکھاتے۔ (اہل الحجاز، ص ۳۰۸، سیر و تراجم، ص ۲۵۷-۲۵۹)

[۱۰۳]- شیخ محمد بن شیخ خلیفہ نبھانی مائلی (م ۱۳۷۰ھ) مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، مسجد حرام و مدرسہ صولتیہ میں تعلیم پائی، ۱۳۳۱ھ میں بحرین کا مطالعاتی دورہ کیا پھر وہیں سے عراق پہنچے اور بصرہ شہر کے قاضی بنائے گئے جہاں پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے آپ کو قید و بند میں مبتلا کیا، آپ نے تاریخ وغیرہ موضوعات پر نظم و نثر میں بارہ کتب تصنیف کیں جو مصر سے طبع ہو کر پوری دنیا عرب تک پہنچیں پھر ان کے مزید ایڈیشن شائع ہوئے۔ (الاعلام، ج ۶، ص ۱۱۱، سیر و تراجم، ص ۲۷۵-۲۷۷)

[۱۰۴]- شیخ حامد بن شیخ عبداللہ قاری ہندی مکی (م ۱۳۹۶ھ/ ۱۹۷۶ء) کے والد شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۷ھ) مکہ مکرمہ میں شیخ القراء تھے، اس خاندان کے متعدد افراد حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۶ھ) کے حلقہ ارادت میں شامل تھے، شیخ احمد قاری نے مسجد حرام و مدرسہ صولتیہ میں تعلیم پائی پھر ترکوں کے عہد میں ۱۳۳۱ھ میں مدرسہ صولتیہ اور ۱۳۳۲ھ میں مسجد حرام میں مدرس ہوئے، ہاشمی عہد حکومت نے مدرسہ راقیہ قائم کیا تو ۱۳۳۷ھ میں آپ کو اس میں مدرس مقرر کیا، ۱۳۳۹ھ میں بندرگاہ یسبع کے قاضی بنائے گئے اور ۱۳۴۳ھ میں حجاز مقدس میں سعودی انقلاب برپا ہوا تو شیخ حامد قاری مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے ہندوستان پھر انڈونیشیا اور سنگاپور پہنچے پھر جزیرہ بورنیو کی راہ لی، آپ جہاں بھی مقیم رہے تدریس کا سلسلہ

جاری رکھا، ۱۳۵۸ھ میں واپس مکہ مکرمہ پہنچے اور مدرسہ تحفیر البعثات میں مدرس ہوئے، ۱۳۵۹ھ میں قاضی طائف کے معاون، ۱۳۶۴ھ میں قنفذہ کے قاضی اور ۱۳۶۶ھ میں دوبارہ قاضی بیج بنائے گئے، جہاں سے ۱۳۸۵ھ میں ریٹائرڈ ہوئے، آپ نے تفسیر، اصول حدیث اور منطق کے موضوعات پر چند کتب تصنیف کیں، مکہ مکرمہ میں ہی وفات پائی، آپ کے تین بیٹے شیخ محمد قاری، شیخ شاکر قاری و شیخ عبدالباری نام کے ہوئے جن میں سے اول الذکر علم فرائض کے ماہر اور مکہ مکرمہ شرعی عدالت سے وابستہ رہے۔ (مجلة الاحکام الشرعية، شیخ احمد بن عبداللہ قاری (م ۱۳۵۹ھ)، تقدیم از قلم ڈاکٹر عبدالوہاب ابوسلیمان مکی و ڈاکٹر محمد ابراہیم احمد علی مکی، مکتبہ تھامہ جدہ، طبع اول ۱۴۰۱ھ / ۱۹۸۱ء، ص ۶۸-۷۰، ماہنامہ المنهل جدہ، اپریل ۱۹۷۶ء، شیخ ماجد کیرانوی مکی کا مضمون بعنوان ”الشیخ حامد عبداللہ قاری“ ص ۲۹۵-۲۹۶، تجلیات مہرانور، مفتی سید شاہ حسین گردیزی، طبع اول ۱۴۱۲ھ / ۱۹۹۲ء، مکتبہ مہریہ گولڑا شریف اسلام آباد، مختلف صفحات)

[۱۰۵]- شیخ حسن بن محمد مشاط مکی مالکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ء) شیخ

عبدالرحمن دھان کے شاگرد خاص تھے، آپ سے صحیح مسلم وغیرہ کتب پڑھیں، شیخ مشاط کے دیگر اساتذہ میں شیخ حمدان بن محمد الجزازی وینسی مدنی (م ۱۳۳۸ھ)، شیخ محمد علی مالکی اور مولانا عبدالباقی لکھنوی مدنی وغیرہ علماء ہیں، بعد ازاں آپ عمر بھر مسجد حرام و مدرسہ صولتیہ میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے، ۱۳۷۲ھ میں مجلس شوریٰ کے رکن بنائے گئے، آپ نے مختلف موضوعات پر پندرہ کتب تصنیف و تالیف کیں جن میں امام الہمام شیخ العلوم قطب زماں مصر کے اکابر صوفیاء کرام کے سلسلہ کلوتیہ کے پیر طریقت سیدی علامہ سید احمد دردیر مالکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۰۱ھ) کی علم توحید پر منظوم کتاب ”الخریفة البھیة“ کی شرح بنام ”الہیجة السدیة فی شرح الخریفة“ ایک اہم کتاب ہے جو انڈونیشیا سے شائع ہوئی اور وہاں کے نہضت الوطن نامی مدارس کی تمام شاخوں کے نصاب میں شامل کی گئی، آپ کی دوسری اہم کتاب ”انارة الدجی فی مغازی خیر الوری صلی اللہ علیہ وسلم“ ہے جو علامہ احمد بن محمد بدوی مجلسی شفقیطی (م ۱۲۲۰ھ) کی غزوات النبی

صلی اللہ علیہ وسلم پر منظوم کتاب کی شرح ہے جس میں غزوات کے واقعات درج ہیں، شیخ حسن مشاط نے سوڈان، مصر، شام اور لبنان کے دورے کئے، مصر میں شیخ محمد زاہد الکوثری (م ۱۳۷۱ھ)، شیخ سلامت عزای قضاعی اور شیخ مصطفیٰ حمای (م ۱۳۶۹ھ) اور شام میں علامہ سید صالح فرفور حنفی (م ۱۴۰۷ھ) و شیخ عبدالوہاب صلاحی رشیدی دمشقی (م ۱۳۸۲ھ) وغیرہ اکابر علماء و مشائخ اہل سنت سے ملاقاتیں کیں، آپ کے ایک فرزند شیخ احمد مشاط (پ ۱۳۴۰ھ) ہوئے جو حافظ قرآن و عالم دین تھے، جن کے تین بیٹے محمود مشاط، محمد مشاط اور جمیل مشاط ہیں جو علم و ادب سے وابستہ ہیں ان میں ثانی الذکر سعودی عرب کے مشہور شاعر و ادیب ہیں، شیخ حسن مشاط کے شاگرد ڈاکٹر عبدالوہاب ابوسلیمان مکی نے اپنے استاد کی دو تصنیفات انارۃ الدجی اور الجواہر الثمینۃ پر تحقیق و تخریج کی نیز حواشی لکھے اور ان کے آغاز میں آپ کے حالات قلمبند کئے بالخصوص آخر الذکر کتاب میں آپ کے مفصل حالات درج ہیں جو شیخ مشاط کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ (الجواہر الثمینۃ فی بیان اولیٰ عالم المدینۃ، شیخ حسن مشاط ڈاکٹر عبدالوہاب ابوسلیمان، طبع دوم ۱۳۱۱ھ/۱۹۹۰ء دارالغرب الاسلامی بیروت، ص ۱۷-۷۲، انارۃ الدجی فی مغازی خیر الوری صلی اللہ علیہ وسلم، شارح شیخ حسن مشاط، تحقیق ڈاکٹر عبدالوہاب ابوسلیمان، طبع چہارم ۱۳۱۳ھ، دارالغرب الاسلامی بیروت، ج ۱، ص ۳۱-۵۲، ماہنامہ احلا و سہلا، جدہ نومبر ۱۹۹۸ء، محمد مشاط کی نظم بعنوان ”ان تکلف الھوی“، ص ۶۳، اعلام الحجاز، ج ۳، ص ۳۰۷-۳۳۵، تبصیف الاسماع، ص ۱۵۹-۱۶۳، نثر الدرر، ص ۲۷)

[۱۰۶]۔ علامہ سید محمد نور کتھی حسنی مکی مدنی (۱۳۰۲ھ/۱۹۸۲ء) کا خاندان ہندوستان کے ضلع فیض آباد میں آباد تھا، آپ کے والد علامہ سید ابراہیم کتھی (م ۱۳۶۸ھ) حصول علم کے لئے ۱۲۸۹ھ میں ہندوستان سے نکلے اور افغانستان و ایران سے ہوتے ہوئے عراق پہنچے جہاں بغداد میں مزار سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین کے ہاں سالہا سال مقیم رہ کر درس و تدریس میں مشغول رہے، پھر وہاں سے مدینہ منورہ حاضر ہونے کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے جہاں

مستقل قیام کر کے کتابوں کی تجارت شروع کی تا آنکہ وہیں پر وفات پائی، آپ کے بیٹے علامہ سید محمد نور مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے مدرسہ صولتیہ میں تعلیم پائی پھر سعودی عہد کے ابتدائی ایام میں مسجد حرام میں نماز ظہر کے امام مقرر ہوئے، نیز محکمہ عدل سے وابستہ ہوئے اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے قاضی تعینات رہے، ۱۳۳۶ھ میں وہابی عقائد کے تحفظ کے لئے کام کرنے والے سرکاری ادارہ امر بالمعروف کی شاخ مکہ مکرمہ کے صدر بنائے گئے، آپ کی ایک تصنیف ”الحجۃ المعتمرة فی مناسک الحج والعمرة علی المذاهب الاربعہ“ مصر سے شائع ہوئی، مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ (اعلام من ارض النبوة، سید انس بن یعقوب بن ابراہیم کتبی حسنی مدنی، طبع اول ۱۴۱۵ھ/ ۱۹۹۳ء، مطابع دار البلاد جدہ، ج ۲، ص ۱۸۷-۲۰۶، رجال من مکة المکترمة، سید زحیر بن محمد جمیل بن ابراہیم کتبی حسنی مکی، طبع اول ۱۴۱۲ھ/ ۱۹۹۲ء، مطابع دار الفنون جدہ، ج ۳، ص ۱۰۸-۱۲۳)

[۱۰۷]- شیخ محمد بن علی ترکی حنبلی (م ۱۳۸۰ھ/ ۱۹۶۰ء) علاقہ نجد کے شہر عنیزہ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وطن میں پائی پھر ۱۳۳۵ھ میں مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ میں داخلہ لیا نیز مسجد حرام میں قائم حلقات دروس میں حاضر ہوئے، شیخ عبدالرحمن دحان سے علم حدیث پڑھا، ۱۳۳۷ھ میں شیخ ترکی ہندوستان آئے جہاں دہلی، بمبئی، حیدرآباد اور کلکتہ میں علم حدیث اخذ کیا، ۱۳۴۰ھ میں مصر و فلسطین اور شام کا سفر کیا، ۱۳۵۷ھ میں ریاض اور خلیج کے دیگر علاقوں کا دورہ کیا پھر حرمین شریفین میں مدرس مقرر ہوئے، ۱۳۴۵ھ میں قاضی مدینہ منورہ بنائے گئے، ان ایام میں شیخ سید عبدالقادر اسکندرانی گیلانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۲ھ) نام کے ایک اہم اہلسنت عالم تھے جنہوں نے دمشق سے ماہنامہ ”الحقائق“ (سن اجراء ۱۳۲۸ھ) جاری کیا تھا، جس میں عقائد اہل سنت کی تشریح و توضیح نیز وہابیہ و دیوبندیہ کی تردید میں مقالات شائع کئے جاتے تھے نیز علامہ اسکندرانی نے خود رووحابیت پر دو کتب ”النفیحة الزکیہ فی الرد علی شبه الغرفة الوہابیة“ اور ”الحجة المرضیة فی اثبات الواسطة التي نفتها الوہابیة“ تصنیف کر کے شائع کیں جس پر شیخ محمد ترکی نے قیام دمشق کے دوران علامہ اسکندرانی کے خلاف ایک کتاب ”النفیحة

علی النفعۃ والمنحة“ تصنیف کی جو ناصر الدین حجازی کے فرضی نام سے دمشق سے شائع کی گئی، شیخ ترکی مدینہ منورہ میں مولوی حسین احمد فیض آبادی دیوبندی (م ۱۳۷۷ھ) کے بڑے بھائی مولوی احمد فیض آبادی (م ۱۳۵۸ھ) کے قائم کردہ مدرسہ علوم شرعیہ (سن تاسیس ۱۳۳۰ھ) میں مدرس رہے، ہاشمی عہد میں اہل مدینہ منورہ نے حکومت سے یہ شکایت کی کہ مذکورہ مدرسہ وہابیت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، ان دنوں عالم جلیل شیخ عبدالقادر شلمی طرابلسی مدنی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۹ھ) محکمہ تعلیم مدینہ منورہ کے ناظم تھے، آپ نے تحقیق کے بعد اس مدرسہ کو مقفل کرنے کے احکامات جاری کئے چنانچہ حجاز مقدس پر ال سعود کی حکمرانی قائم ہونے کے بعد اس کے دروازے دوبارہ کھل پائے۔ (اعلام من ارض النبوة، ج ۲، ص ۳۵-۴۴، نیز ص ۱۷۹-۱۸۵، تاریخ علماء دمشق، ج ۲، ص ۵۷۳-۵۷۴، نثر الدرر، ص ۶۲)

[۱۰۸]- شیخ عبداللہ حمدوہ حسینی (م ۱۳۵۰ھ / ۱۹۳۱ء) سوڈان میں پیدا ہوئے، قرآن مجید حفظ کیا اور قرأت سیکھی پھر ہجرت کر کے مکہ مکرمہ پہنچے جہاں مزید تعلیم حاصل کی اور مدینہ منورہ حاضر ہو کر وہاں تعلیم قرآن کریم کا مدرسہ بنا کر ایک برس مقیم رہے پھر واپس مکہ مکرمہ آئے اور مدرسہ قائم کر کے اس میں قرآن مجید و تجوید کی تعلیم دینے لگے، ۱۳۳۰ھ میں مکہ مکرمہ میں مدرسہ فلاح قائم ہوا تو آپ اس سے وابستہ ہو گئے، ۱۳۳۶ھ میں اس کے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے اور وفات تک یہ ذمہ داری نبھائی، آپ ہاشمی عہد میں مجلس شوریٰ کے رکن اور سعودی عہد کے ابتدائی ایام میں مسجد حرام کے امام تعینات رہے، آپ کی تصنیفات میں ”مفتاح التجوید“ وغیرہ کتب ہیں۔ (بلوغ الامانی، ص ۳۳، الدلیل المشیر، ص ۱۹۳-۱۹۶، نثر الدرر، ص ۴۱-۴۲)

[۱۰۹]- شیخ محمد عربی بن تبانی مالکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰ء) الجزائر میں پیدا ہوئے، قرآن مجید حفظ کرنے اور ابتدائی تعلیم کے بعد تیونس جا کر زیتونہ یونیورسٹی کے علماء سے استفادہ کیا، دوسری جنگ عظیم سے پہلے مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں کے بعض علماء سے اخذ کیا، ۱۳۳۶ھ میں مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور شیخ عبدالرحمن دھان سے مختلف علوم کی متعدد کتب پڑھیں،

۱۳۳۸ھ میں مدرسہ فلاح مکہ مکرمہ میں مدرس مقرر ہوئے نیز مسجد حرام میں حلقہ درس قائم کیا جہاں خلق کثیر آپ سے فیض یاب ہوئی، آپ کی متعدد تصنیفات میں سے چند کے نام یہ ہیں: اتحاف ذوی النجابه بما فی القرآن والسنة من فضائل الصحابة، اعتقاد اهل الايمان بنزول المسيح ابن مریم علیہ وعلی نبینا السلام آخر زمان، اسعاف المسلمین والمسلمات بجواز القراءة ووصول ثوابها الی الاموات، برأة الاشعریین، ادراک الغایة من تعقب ابن کثیر فی البداية، نیز علامہ ابن قیم کی تصنیف زالمعاد میں درج بعض مسائل کے رد میں ایک کتاب لکھی، آپ کی وفات مکہ مکرمہ میں اور تدفین جنت المعلیٰ قبرستان میں ہوئی اور متعدد بار ایسا ہوا کہ آپ کی قبر کھل گئی تو آپ کا جسم جوں کا توں پایا گیا خوشبوئیں اُٹھ رہی تھیں۔ (امداد الفتاح، ص ۳۷۷-۳۷۹، تشذیب الاسماع، ص ۳۷۱-۳۷۵، نثر الدرر، ص ۷۱-۷۳)

[۱۱۰]- شیخ صالح بن محمد بن عبداللہ بن ادریس کلنتنی مکی شافعی (م ۱۳۷۹ھ / ۱۹۶۰ء)

مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اپنے دادا وغیرہ علماء سے تعلیم پانے کے بعد ۱۳۳۶ھ میں شیخ محمد بن یوسف خیاط رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ مدرسہ خیریہ (سن تاسیس ۱۳۲۶ھ) میں اور ۱۳۳۸ھ میں مدرسہ صولتیہ میں داخلہ لیا نیز مسجد حرام میں اکابر علماء سے تعلیم مکمل کی، ۱۳۳۸ھ پھر ۱۳۴۲ھ میں اپنے آبائی وطن انڈونیشیا گئے اور وہاں تدریس کا سلسلہ شروع کیا، ۱۳۵۰ھ میں مدرسہ صولتیہ اور ۱۳۵۶ھ میں دارالعلوم دیدیہ مکہ مکرمہ میں مدرس تعینات ہوئے اس دوران حرم مکی میں وارد ہونے والے عالم اسلام کے متعدد اکابر علماء کرام سے استفادہ اٹھایا، منطق و نحو کے علوم پر آپ کی تصنیفات مقبول عام ہوئیں، آپ نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور قبرستان المعلیٰ میں اپنے استاد جلیل شیخ عبدالرحمن دھان رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے مخصوص احاطہ میں آپ کی قبر بنی۔ (تشذیب الاسماع، ص ۲۳۷-۲۳۹)

[۱۱۱]- شیخ محمد یحییٰ امان کتبی مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۸۷ھ / ۱۹۶۷ء) نے مدرسہ

صولعیہ و مسجد حرام میں تعلیم پائی اور ۱۳۳۳ھ میں آپ نے امتحان پاس کیا جس کی بنیاد پر آپ کو مسجد حرام میں تدریس کی اجازت دے دی گئی، ۱۳۳۶ھ سے ۱۳۶۲ھ تک آپ مدرسہ فلاح مکہ مکرمہ میں استاد رہے پھر اسی برس مکہ مکرمہ عدالت کے رکن قاضی اور ۱۳۷۰ھ میں طائف کے قاضی بنائے گئے، مدرسہ فلاح سے طویل وابستگی کے دوران آپ نے روضہ حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی زیارت کے لئے لاتعداد سفر اختیار کئے، آپ کی تصنیفات یہ ہیں، مختصر الہدایۃ، التیسیر شرح منظومۃ التفسیر، تہذیب الترغیب والترہیب، نزہۃ المشتاق اور فتح العلمین الشافی۔ (الدلیل المشریح، ص ۳۹۸-۴۰۱، نشر الدرر، ص ۷۷-۷۸)

[۱۱۲]۔ شیخ عبداللہ بن محمد ازہری فلمبانی جاوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کے دیگر اساتذہ میں علامہ سید ابوبکر شافعی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلطان داغستانی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد بن یوسف خیاط مکی رحمۃ اللہ علیہ اہم نام ہیں، شیخ عبداللہ فلمبانی عالم جلیل، ادیب اور شاعر تھے، آپ مکہ مکرمہ سے اپنے آبائی وطن انڈونیشیا چلے گئے، (بلوغا لامانی، ص ۱۶۳-۱۶۴، مختصر نشر النور، ص ۲۸۶، نظم الدرر، ص ۱۹۰)

[۱۱۳]۔ شیخ محمد علی بن شیخ عبدالحمید قدس شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۳ھ/۱۹۴۴ء) مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اپنے جلیل القدر والد نیز ان کے متعدد اساتذہ سے تعلیم پائی اور شیخ محمد محفوظ ترسی (م ۱۳۳۸ھ) سے اخذ کیا پھر قاہرہ (مصر) جا کر جامعہ الازہر کے علماء سے استفادہ کیا، واپس آکر اپنے والد کی طرح تدریس اور تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا اور رد شیعیت پر ایک کتاب 'السعادة ومطالب الاسلام فی حب الصحابة الکرام' نیز متعدد مقالات قلمبند کئے، ۱۳۴۳ھ میں مکہ مکرمہ پر ال سعود خاندان نے شورش کی تو بہت سے اہل حجاز کی طرح آپ نے بھی اہل و عیال سمیت ہجرت میں ہی عافیت سمجھی اور اپنے آبائی وطن انڈونیشیا کی راہ لی، جہاں مشرقی جاوہ میں مدرسہ محمدیہ قائم کر کے اس کے ساتھ مسجد تعمیر کرائی، نیز ایک رسالہ بنام 'المرأة المحمدیہ' جاری کیا پھر انڈونیشیا کے مختلف علاقوں میں اشاعت علم میں مگن رہے وہیں وفات پائی۔ (تشیف

الاسماع، ص ۴۰۳، کنز النجاح والسرور، تقدیم، ص ۱۰۰۔)

[۱۱۴]۔ صاحب کرامات شہیدہ شیخ ابوبکر بن عبداللہ ملا احسائی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۶ھ / ۱۹۴۷ء) کا خاندان سعودی عرب کے مشرقی صوبہ میں احساء نامی علاقہ کے شہر ہنوف میں آباد ہے، صاحب تصانیف عدیدہ، فقیہ، محدث، مرشد شیخ ابوبکر بن محمد ملا احسائی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۷۰ھ) اس خاندان کے جد امجد تھے، شیخ ابوبکر بن عبداللہ نے شیخ عبدالرحمن دھان رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اپنے والد شیخ عبداللہ ملا احسائی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید احمد بن زینی دحلان رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید داؤد بن جرجیس بغدادی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید ابوبکر شطاشافعی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ سلیمان زہدی خالدی نقشبندی مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۰۸ھ) کی شاگردی اختیار کی، اور خود شیخ ابوبکر بن عبداللہ کے تلامذہ میں علامہ سید علوی بن عباس مکی مالکی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نام ہے۔ (شخصیات رائدہ من بلادی، معاذ آل مبارک احسائی، دارالوطیہ، ج ۲، ص ۷۰، امداد الفتاح، ص ۳۸۱) شیخ ابوبکر بن عبداللہ کے ایک فرزند فقیہ حنفی و مرہبی شیخ محمد بن ابوبکر ملا احسائی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۹۵ھ) نے مولانا ضیاء الدین احمد قادری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۴۰۱ھ) سے خلافت پائی، اور آپ کے دوسرے فرزند فقیہ، محدث، شاعر شیخ عبدالرحمن بن ابوبکر ملا (پ ۱۳۲۳ھ) نے مدرسہ صولتیہ و مسجد حرام میں تعلیم پائی، شیخ العلماء مکہ علامہ سید محمد بن علوی مالکی (پ ۱۳۶۲ھ - ف ۱۴۲۵ھ) کی ولادت پر تہنیتی قصیدہ لکھا، کویت کے سابق وزیر اوقاف عالم اجل و مرشد علامہ سید یوسف بن ہاشم الرفاعی کی خدمات کے اعتراف میں ایک طویل قصیدہ موزوں کیا نیز ”حوار مع الماکی“ کے مصنف شیخ عبداللہ مدیح نجدی (پ ۱۳۴۹ھ) کی جو لکھی، موجودہ دور میں شیخ عبدالرحمن بن ابوبکر ملا کے علاوہ شیخ احمد بن عبداللہ بن ابوبکر ملا حنفی اور شیخ یحییٰ بن محمد بن ابوبکر ملا حنفی اس خاندان کے اہم علماء ہیں۔

[۱۱۵]۔ شیخ محمد سلیم بن مولانا محمد سعید کیرانوی مکہ (م ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷ء) مکہ مکرمہ

میں پیدا ہوئے، مدرسہ صولتیہ و مسجد حرام میں تعلیم پائی، آپ مولانا رحمت اللہ کیرانوی مکی رحمۃ اللہ

علیہ کے بھائی مولانا علی اکبر کیرانوی کے پوتے ہیں، ۱۳۳۱ھ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد صولتہ میں مدرس مقرر ہوئے، ۱۳۳۵ھ میں ہندوستان آئے اور شادی کی، ۱۳۳۸ھ میں واپس مکہ مکرمہ پہنچے اور صولتہ میں تدریس جاری رکھی، ۱۳۵۷ھ میں آپ کے والد نے وفات پائی تو ان کی جگہ اس مدرسہ کے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے، ۱۳۵۸ھ میں پھر ہندوستان آئے اور دہلی میں صولتہ کی مالی اعانت کے لئے دفتر قائم کیا، ۱۳۶۰ھ میں واپس مکہ مکرمہ چلے گئے، ۱۳۶۱ھ میں پھر ہندوستان آئے، آپ تقریباً ۵۲ برس تک مدرسہ صولتہ سے وابستہ رہے، اردو میں چند کتب تصنیف کیں، مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔ (ماہنامہ المنہل جدہ، ربیع الاول ۱۳۹۸ھ / مارچ ۱۹۷۸ء، ص ۲۲۲-۲۲۳، تشنیف الاسماع، ص ۲۳۱-۲۳۲، نثر الدرر، ص ۷۵)، دیوبندی افکار کے تعاقب میں لکھی گئی مولانا غلام دستگیر قصورل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل“ پر آپ کے والد مولانا محمد سعید کیرانوی کی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریظ موجود ہے۔

[۱۱۶]۔ ابوالاحرار شیخ فضلی بن سعید نقشبندی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۵ھ/

۱۹۳۶ء) انڈونیشیا کے شہر بورنیو کے قریب گاؤں میں پیدا ہوئے اور مقامی علماء سے حصول علم کے بعد مکہ مکرمہ پہنچے جہاں سالہا سال مقیم رہ کر تعلیم مکمل کی پھر واپس وطن پہنچے اور اپنے والد گرامی سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ خالدیہ میں خلافت پائی پھر اپنی آبائی خانقاہ میں بیٹھ کر عمر بھر طلباء و مریدین کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہے، وہیں وفات پائی۔ (تشنیف الاسماع، ص ۴۴۰)

[۱۱۷]۔ فہرس مخطوطات مکتبہ مکتہ المکرمہ، ص ۳۹۹

[۱۱۸]۔ حسام الحرمین، ص ۸۲-۸۳

[۱۱۹]۔ الاجازات المحنیہ، ص ۲۸-۲۹

[۱۲۰]۔ سیر و تراجم، ص ۱۶۰، مختصر نثر النور، ص ۲۳۲، نظم الدرر، ص ۱۸۴

[۱۲۱]۔ شیخ عبدالرحمن محتشم بن مولوی معظم (م ۱۲۹۴ھ / ۱۸۷۷ء) ہندوستان سے

ہجرت کر کے مکہ مکرمہ جا بسے، جہاں علم فلکیات میں خلق کثیر نے آپ سے استفادہ اٹھایا، وہیں پر

وفات پائی۔ (مختصر نشر النور، ص ۲۵۰، نظم الدرر، ص ۱۳۰)

[۱۲۲]۔ شیخ علی بن احمد باصرین شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۰۴ھ / ۱۸۸۷ء) کے دیگر شاگردوں میں علامہ سید سالم عطاس حضرمی شافعی (م ۱۳۱۶ھ) اور شیخ مصطفیٰ عقیلی مصری مکی شافعی (م ۱۳۰۸ھ) اہم ہیں، مکتبہ مکہ مکرمہ میں شیخ باصرین کی تصنیف ”مزیل الریب و مزیح الحکک فی حقیقۃ اوقات الفرائض فی علم الفلک“ اور ریاض یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری میں ”معاتبۃ الاحیاء والاخوان فی علم المیقات“ کے مخطوطات موجود ہیں۔ (الاعلام، ج ۴، ص ۲۶۰، مختصر نشر النور، ص ۲۰۴، ۴۹۹، فہرس مکتبہ مکہ المکرمۃ، ص ۵۰۲)

[۱۲۳]۔ مختصر نشر النور، ص ۲۳۵، ۲۵۰

[۱۲۴]۔ شیخ خلیفہ نے یہ فن شیخ عبدالرحمن دھان کے علاوہ شیخ محمد بن یوسف خیاط سے سیکھا۔ (سیر و تراجم، ص ۱۰۱)۔ حسام الحرمین والدولۃ المکیہ پر انہی شیخ خیاط کی تقریظات موجود ہیں۔

[۱۲۵]۔ علامہ سید احمد بن عبداللہ بن صادق بن زینی دحلان مکی شافعی کے والد امام مسجد حرام، صاحب تصانیف، ماہر فلکیات، سیاح علامہ سید عبداللہ بن صادق دحلان مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۰ھ انڈونیشیا) نے فاضل بریلوی سے خلافت پائی (سیر و تراجم، ص ۲۰۸، الاجازات المعتبرۃ، ص ۳۳، ۵۰)

[۱۲۶]۔ سیر و تراجم، ص ۱۰۳

[۱۲۷]۔ المملووظ، ج ۲، ص ۱۲۸-۱۲۹

[۱۲۸]۔ ایضاً، ص ۱۲۷

[۱۲۹]۔ ایضاً

[۱۳۰]۔ تشنیف الاسماع، ص ۲۳۹، سیر و تراجم، ص ۱۶۰، مختصر نشر النور، ص ۲۳۲، نظم

الدرر، ص ۱۸۵

ہجرت و ولادت

بابصیل خاندان حضرت موت سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ جابسا جہاں ۱۲۴۵ھ/۱۸۳۰ء کو شیخ محمد سعید بن محمد سالم بن محمد سعید بابصیل رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔

تعلیم و اساتذہ

شیخ محمد سعید بابصیل نے مسجد حرام میں قائم حلقات دروس میں تعلیم حاصل کی، آپ کے اساتذہ میں سب سے اہم نام مفتی شافعیہ، شیخ العلماء، صاحب تصانیف کثیرہ، عارف باللہ علامہ سید احمد بن زینی دحلان مکی مدنی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۰۴ھ/۱۸۸۶ء) کا ہے، جن کی شاگردی کے اعزاز پر آپ عمر بھر فخر کرتے رہے، آپ علامہ دحلان کی شخصیت سے بدرجہ اتم متاثر اور آپ کی فکر کے امین تھے [۴]۔ آپ کے دیگر اساتذہ میں مدرسہ صولتیہ کے بانی مولانا رحمت اللہ کیرانوی مکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۰۸ھ/۱۸۹۱ء) کا اسم گرامی شامل ہے۔ [۵]

شیخ العلماء کا منصب

اس دور کی مسجد حرم مسلمانوں کا قبلہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم درس گاہ اور اسلامی یونیورسٹی کے طور پر عالم اسلام میں معروف تھی اور اہل حجاز ہی نہیں اطراف عالم سے طلباء مکہ مکرمہ آتے اور سالہا سال مقیم رہ کر تعلیم حاصل کرتے، شیخ محمد سعید بابصیل نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد مدرس کا امتحان پاس کیا جس پر آپ کو مسجد حرم میں مدرس تعینات کیا گیا، آپ عمر بھر بیت اللہ کے سائے میں تشنگان علم کی پیاس بجھاتے رہے، علاوہ ازیں آپ کا گھر بھی درس گاہ کی حیثیت رکھتا تھا [۶]، آپ جن علوم میں درس دیتے ان میں تفسیر، حدیث، فقہ اور تصوف اہم ہیں [۷] اور آپ ان علوم میں جو کتب پڑھاتے ان میں تفسیر خطیب شربنی، حدیث کی افضل ترین چھ کتب نیز ریاض الصالحین، الاوائل العجلونیہ، النصائح الیدیہ، تفسیر جلالین، حاشیہ صاوی، حاشیہ جمل اور احیاء علوم الدین کا آپ کے تذکرہ نگاروں نے بھور خاص ذکر کیا ہے۔ [۸]

مسجد حرم میں طلباء اور پھر اساتذہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر، تدریسی نظام کو احسن طریقہ سے چلانے کے لئے گورنر مکہ مکرمہ سید محمد بن عبدالمعین بن عون (م ۱۲۷۴ھ/ ۱۸۵۸ء) جو ۱۲۳۳ھ سے ۱۲۶۷ھ اور پھر ۱۲۷۲ھ سے اپنی وفات تک گورنر رہے [۹]، انہوں نے اپنے پہلے دور حکومت میں ایک نیا منصب ”شیخ العلماء“ تشکیل دیا جسے رئیس العلماء اور شیخ المدرسین بھی کہا جاتا ہے، مذکورہ گورنر نے اس پر مفتی شیخ عبداللہ بن عبدالرحمن سراج مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۶۴ھ/ ۱۸۴۸ء) کو تعینات کیا [۱۰] ہندوستان کے عالم جلیل مولانا فضل رسول بدایونی قادری رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۸۹ھ/ ۱۸۷۲ء) جب حرمین شریفین حاض ہوئے تو انہی شیخ عبداللہ سراج سے سند اجازت حاصل کی [۱۱] شیخ عبداللہ سراج کی وفات کے بعد مفتی احناف شیخ جمال بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۸۴ھ/ ۱۸۶۷ء) نے شیخ العلماء کا منصب سنبھالا [۱۲] عالم کبیر مولانا عبدالقادر بدایونی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۱۹ھ) نے سفر حج و زیارت کے موقع پر شیخ جمال حنفی سے سند روایت پائی [۱۳]، اور شیخ جمال کے وصال پر مفتی شافعیہ علامہ سید احمد بن زینی دحلان رحمۃ اللہ علیہ اس منصب پر تعینات ہوئے [۱۴] جن سے ہندوستان کے اکابر علماء کرام مولانا عبدالحلیم لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۸۵ھ) ان کے فرزند مولانا محمد عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۰۴ھ) کے علاوہ مولانا تقی علی خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۹۷ھ) نیز ان کے فرزند جلیل مولانا احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۴۰ھ) وغیرہ متعدد علماء نے سند حدیث حاصل کی [۱۵] ۱۳۰۳ھ کے اوائل میں مسجد حرم میں درس و تدریس کا سلسلہ عروج پر تھا اور مفتیان نیز ائمہ و خطباء کے علاوہ فقط اساتذہ کی تعداد ایک سو دو تھی جنہیں عثمانی حکومت باقاعدہ تنخواہ پیش کرتی تھی، اسی برس علامہ سید دحلان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے [۱۶] تو ان کی جگہ شیخ محمد سعید باہصیل شافعی رحمۃ اللہ علیہ ”شیخ العلماء“ بنائے گئے۔ [۱۷] شیخ باہصیل اپنی وفات تک پچیس برس سے زائد اس منصب سے وابستہ رہے جس دوران لا تعداد طلباء و علماء نے آپ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کیا۔

مسجد حرم میں شوافع کے امام

اس دور کی مسجد حرم میں چاروں فقہی مذاہب کے علماء کرام امام مقرر کئے جاتے تھے،

۱۳۰۳ھ میں شیخ محمد سعید باہیل رحمۃ اللہ علیہ شافعیہ کے نائب امام تھے۔ [۱۸]

مفتی شافعیہ کا منصب

آپ کے دور کے مکہ مکرمہ سمیت عرب دنیا کے اکثر علاقوں پر ترکی کے عثمانی خاندان کی حکمرانی تھی اور حکومت نے مکہ مکرمہ میں دینی امور کی انجام دہی کے لئے مختلف مناصب طے کر رکھے تھے جن پر علماء کرام تعینات کئے جاتے، ایسا ہی ایک منصب ”مفتی“ کا تھا اور مذاہب اربعہ سے تعلق رکھنے والے ایک ایک عالم جلیل کو مفتی مقرر کیا جاتا جو اس شہر مقدس میں فتاویٰ جاری کرنے کے مجاز ہوتے نیز پورے عالم اسلام سے وہاں کے علماء کرام اپنے فتاویٰ تائید و توثیق کے لئے ان کے سامنے پیش کرتے، چاروں فقہی مذاہب کے مفتیان مکہ مکرمہ کے جاری کردہ فتاویٰ پوری اسلامی دنیا نیز حکومتی حلقوں میں خاص اہمیت رکھتے تھے، اس منصب پر مکہ مکرمہ کے اکابر علماء کرام تعینات کئے جاتے جو جملہ دینی و دیگر ضروری علوم میں درجہ کمال پر فائز ہوتے اور مفتی احناف کا منصب مکہ مکرمہ میں تمام دینی مناصب پر فوقیت رکھتا تھا، ۱۳۰۳ھ میں جو علماء کرام بحیثیت مفتی خدمات انجام دے رہے تھے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں:

☆ مفتی احناف، شیخ عبدالرحمن بن عبداللہ سراج رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۱۴ھ / ۱۸۹۶ء)،

مولانا احمد رضا خاں بریلوی اور مولانا نور احمد پسروری امرتسری (م ۱۳۲۸ھ) وغیرہ علماء ہند نے

آپ سے سند حدیث حاصل کی۔ [۱۹]

☆ مفتی شافعیہ، علامہ سید احمد زینی دحلان رحمۃ اللہ علیہ

☆ مفتی مالکیہ، شیخ محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۰۹ھ / ۱۸۹۱ء) آپ کے دو

بھائیوں اور ایک بھتیجے نے فاضل بریلوی سے خلافت پائی۔ [۲۰]

☆ مفتی حنابلہ، شیخ خلف بن ابراہیم خلف عنزی مکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۱۵ھ تقریباً)،
[۲۱] تقدیس الوکیل کے مقرر [۲۲]۔

۱۳۰۳ھ میں علامہ دحلان ”مفتی شافعیہ“ کے منصب سے الگ کئے گئے تو عثمان پاشا
جو ۱۲۹۹ھ سے گورنر حجاز کے عہدہ پر متمکن تھے [۲۳] انہوں نے علامہ دحلان کی جگہ ان کے ایک
اہم شاگرد عارف باللہ پیر طریقت علامہ سید حسین بن محمد حبشی علوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۰ھ/
۱۹۱۲ء) جنہوں نے بعد ازاں فاضل بریلوی کی ایک تصنیف پر تقریظ لکھی [۲۴] انہیں ”مفتی
شافعیہ“ مقرر کیا [۲۵] لیکن ۱۳۰۳ھ میں عثمان نوری پاشا کو معزول کر کے ان کی جگہ حسین جمیل پاشا
کو گورنر حجاز بنایا گیا [۲۶] تو سید عون رفیق پاشا بن محمد بن عبدالمعین بن عون حسنی جو ۱۲۹۹ھ سے
اپنی وفات ۱۳۲۳ھ تک مکہ مکرمہ کے حاکم رہے انہوں نے گورنر حجاز کے جاتے ہی اہم مناصب پر
جو تبدیلیاں کیں انہی میں سید حسین حبشی کی جگہ شیخ محمد سعید باہصیل رحمۃ اللہ علیہ کو مفتی شافعیہ
تعیینات کیا [۲۷] پھر شیخ باہصیل نے اپنی وفات تک یعنی ربع صدی سے زائد، اس منصب پر
خدمات انجام دیں۔ [۲۸]

علامہ سید دحلان جتنا عرصہ مفتی شافعیہ رہے تو ان کے عزیز شاگرد شیخ باہصیل ان کے
معمد اور فتاویٰ کے اجراء میں معاون رہے [۲۹] یوں آپ مفتی کی ذمہ داریوں نیز فتاویٰ جاری
کرنے سے متعلق تمام شرعی تقاضوں پر بخوبی آگاہ تھے، لہذا جب آپ نے خود یہ منصب سنبھالا تو
آپ کی شخصیت ایک بڑے وقار مفتی کے طور پر سامنے آئی اور آپ کے فتاویٰ اسلامی دنیا میں احترام
کی نظر سے دیکھے گئے حتیٰ کہ آپ ”شیخ الاسلام“ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ [۳۰]

معلوم رہے کہ پوری چودہویں صدی ہجری کے علماء مکہ مکرمہ میں سے بطور خاص تین
علماء کرام علامہ دحلان، شیخ عبدالرحمن سراج اور شیخ باہصیل کو مورخین نے اس لقب سے یاد کیا ہے۔
اس دوران اسلامی دنیا سے دیگر علماء کرام کے جو فتاویٰ جائزہ کے لئے آپ کو پیش
کئے گئے ان میں سے ایک فتویٰ راقم کے سامنے ہے جس کا تذکرہ یہاں مفید ہوگا۔

یمن کے ایک عالم جلیل نعت گو شاعر عارف کامل علامہ سید عبداللہ بن علوی بن حسن عطاس رحمہ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اکابر مشاہیر علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ مسلمان اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور توقیر کے لئے میلاد کی مجالس منعقد کرتے ہیں، ان محافل میں مولود پڑھنے کے علاوہ صلوٰۃ و سلام، ذکر اللہ، مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر موزوں کئے گئے اشعار، اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر حمد اور اولیاء کرام کے مناقب پڑھے جاتے ہیں یا حاضرین کو درپیش مسائل پر وعظ کیا جاتا ہے یا اسی نوعیت کے دیگر افعال و اعمال کئے جاتے ہیں کہ جن کا شرع حکم دیتی ہے، ان محافل میلاد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر آتا ہے تو مسرت و شادمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے احترام میں تمام حاضرین قیام کرتے ہیں، دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ محفل میلاد میں قیام کے دو رتوں مسرت کے اظہار کے لئے دف بجانا جائز ہے یا نہیں؟

علامہ سید عبداللہ عطاس نے اس استفتاء کا مفصل جواب دیا جو پچاس مطبوعہ سطور پر مشتمل ہے، جس میں آپ نے احادیث نبوی اور اسلاف کے مسلک و تعامل کی روشنی میں لکھا کہ مسرت کے مواقع مثلاً ولیمہ، عقیقہ، ختنہ، سفر سے واپسی، مہمان کی آمد، عید اور نکاح پر دف بجانا جائز ہے اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ان دیگر تمام مواقع سے بڑھ کر ہے، اس لئے کہ شادی اور ختنہ وغیرہ کے اجتماع میں یہ خوشی محض اس کے اہل خاندان تک محدود ہوتی ہے جب کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتماع میں تمام مسلمان اس خوشی و مسرت میں شریک ہوتے ہیں، لہذا جشن میلاد میں مسرت کے دیگر مواقع کی نسبت دف بجانا بدرجہ اولیٰ جائز و مباح ہے۔

یہ فتویٰ مفتی شافعیہ شیخ محمد سعید باہیل رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا جس پر آپ نے اس کی تائید و توثیق کرتے ہوئے چھ سطور لکھ کر اس پر اپنی مہر ثبت کی پھر یہ ”مولد دیبج“ کے آخری صفحات پر شامل اشاعت کیا گیا [۳۱] جو یمن میں منعقد ہونے والی محافل میں پڑھا جانے

والا مقبول عام مولود نامہ ہے۔

تصوف و صوفیاء کرام

شیخ الاسلام محمد سعید باہصیل رحمۃ اللہ علیہ تصوف و صوفیاء کرام سے گہرا گاؤ رکھتے تھے جیسا کہ گذشتہ سطور میں آچکا کہ آپ تصوف پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف احیاء علوم الدین کا مسجد حرم میں درس دیا کرتے تھے، علاوہ ازیں آپ نے خود بھی اس موضوع پر کتب تصنیف کیں نیز عمر بھر صوفیاء کرام سے وابستہ رہے، آپ کے استاد علامہ سید احمد دحلان عالم دین ہونے کے علاوہ صوفی کامل اور پیر طریقت تھے۔

اس دور کے مکہ مکرمہ میں جو اولیاء کرام موجود تھے ان میں ایک اہم نام شیخ ابراہیم بن صالح رشیدی ادریسی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۹۱ھ / ۱۸۷۴ء) کا ہے [۳۲] جن کے مریدین کا سلسلہ برصغیر سمیت دور دور تک پھیلا ہوا تھا آپ صوفیاء کے سلسلہ احمدیہ ادریسیہ کے بانی علامہ شیخ سید احمد بن ادریس حنی مراکشی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۵۳ھ / ۱۸۳۷ء) کے مرید و خلیفہ تھے اور آپ نے اپنے مرشد کے ملفوظات و کرامات جمع کئے جو ”عقد الدرر الخفیس فی بعض کرامات احمد بن ادریس“ کے نام سے شائع ہوئے [۳۳] اور خود شیخ ابراہیم رشیدی کے حالات پر ان کے مرید حکیم شیخ اسماعیل بن ملا نواب کابلی مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ”مناقب الرشید“ لکھی جو غیر مطبوع ہے [۳۴] شیخ ابراہیم رشیدی اور شیخ محمد سعید باہصیل کے درمیان گہرے مراسم استوار تھے جس کا کسی قدر اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ شیخ رشیدی کی نماز جنازہ شیخ باہصیل نے پڑھائی۔ [۳۵]

علاوہ ازیں حضرموت کی مقبول و محبوب شخصیت عالم جلیل و سلسلہ علویہ کے پیر طریقت قطب زماں علامہ سید احمد بن حسن عطاس رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۴ھ / ۱۹۱۶ء) شیخ محمد سعید باہصیل کے اہم احباب میں سے تھے، اور دونوں ہی علامہ دحلان کے شاگرد خاص تھے [۳۶] سید عطاس کے سوانح نگار نے آپ کا تعارف ان القاب میں کرایا ہے:-

”شیخ الطریقتہ و امام الحقیقۃ العارف باللہ مربی السالکین و مرشد الطالبین الحبیب احمد بن

حسن بن عبد اللہ العطاس السید الشریف العلوی الحسینی رضی اللہ عنہ وارضاء“۔ [۳۷]

قطب زماں علامہ سید عطاس مازار آپ کے آبائی شہر حریضہ میں واقع ہے جس پر عظیم

الشان گنبد تعمیر ہے جس کی تصویر پیش نظر کتاب کے سرورق پر دی گئی ہے، آپ کا عرس ہر سال

منعقد ہوتا ہے۔

۱۳۲۵ھ میں سید عطاس آخری بار مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے شیخ محمد سعید باہصیل کے

گھر قیام کیا جہاں دن رات مقامی علماء و مشائخ نیز مصر و یمن، مراکش و شام وغیرہ ممالک سے

آئے ہوئے حجاز کا ہجوم لگا رہتا اور لاتعداد اہل علم نے آپ کے گھر منعقد ہونے والی مجالس میں سید

عطاس سے اجازت و خلافت حاصل کی۔ [۳۸]

تلامذہ

شیخ محمد سعید باہصیل شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مکہ مکرمہ کے علاوہ دیگر ممالک سے تعلق

رکھنے والے لاتعداد علماء کرام نے تعلیم پائی یا آپ سے سند روایت و اجازت حاصل کی، آپ سے

اخذ کرنے والوں میں سے ایک بڑی تعداد اپنے دور کے اکابرین میں شمار ہوئی جنہوں نے مختلف

شعبوں میں ملت اسلامیہ کی بھرپور رہنمائی کی ان میں محدث، فقیہ، حافظ قرآن، پیر طریقت، حج،

اساتذہ، صاحب تصانیف، ائمہ و خطباء، شعراء، مدارس اسلامیہ کے بانی، سیاح، مبلغ اسلام،

مورخ، مجلس شوریٰ کے اراکین، سیاسی قائدین، ماہر فلکیات، قراء، شیخ الدلائل، شیخ العلماء،

صاحب کرامات اور طبیب حاذق شامل ہیں، آپ کے اہم شاگردوں کا مفصل تذکرہ یہاں ممکن

نہیں البتہ ان میں سے اکسٹھ شخصیات کے اسماء گرامی ان کے مختصر تعارف کے ساتھ درج کئے

جا رہے ہیں جن کے حالات مختلف کتب میں دست یاب ہیں اور قارئین کی معلومات کے لئے

حواشی میں ان کے سوانحی ماخذ کا ذکر کر دیا گیا ہے۔

۱۔ شیخ ابراہیم بن موسیٰ خزائی مالکی سوڈانی مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ (م ۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۱ء)،
مسجد حرم میں قرأت کے استاد۔ [۳۹]

۲۔ شیخ احمد بن عبداللہ فقیہ مکی شافعی (ولادت ۱۲۷۳ھ / ۱۸۵۷ء)، حافظ قرآن، مسجد
حرم کے امام و خطیب، ادیب و شاعر، استنبول (ترکی) میں وفات پائی۔ [۴۰]

۳۔ شیخ احمد بن عبداللہ مخراتی دمشقی مکی رحمتہ اللہ علیہ (م ۱۳۶۲ھ / ۱۹۴۳ء) عرب دنیا
کے مشہور قاری، حافظ قرآن، مدرسہ احمدیہ مکہ مکرمہ کے بانی، شاعر، علوم قرآن پر پانچ کتب کے
مصنف [۴۱]، ہندوستان آئے اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمتہ اللہ علیہ (۱۳۴۴ھ) سے
اخذ کیا۔ [۴۲]

۴۔ شیخ احمد بن عبداللہ ناضرین مکی شافعی رحمتہ اللہ علیہ (م ۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۰ء) مسجد حرم
و مدرسہ صولتیہ و مدرسہ فلاح کے مدرس، قاضی اعلیٰ شرعی عدالت مکہ مکرمہ، دو مرتبہ ہندوستان آئے،
فاضل بریلوی کے خلیفہ۔ [۴۳]

۵۔ شیخ احمد بن علی نجار طائفی رحمتہ اللہ علیہ (م ۱۳۴۷ھ / ۱۹۲۸ء)، امام و مدرس مسجد حرم،
قاضی طائف، طبیب حاذق، ادیب و شاعر، حدیث، تصوف و تاریخ کے موضوعات پر متعدد کتب
کے مصنف۔ [۴۴]

۶۔ علامہ سید احمد بن محمد ادیبی اھدل زبیدی شافعی رحمتہ اللہ علیہ (م ۱۳۵۷ھ /
۱۹۳۸ء)، یمن کے مشہور علمی و روحانی شہر زبید کے مفتی، شاعر، صاحب تصانیف، تصوف کی اہم
کتاب حکم عطاء اللہ کا ربیع اول منظوم کیا۔ [۴۵]

۷۔ شیخ احمد بن یوسف قستی انڈونیشی مکی رحمتہ اللہ علیہ (م ۱۳۶۷ھ / ۱۹۴۸ء) مدرس
مسجد حرم، انڈونیشیا میں دو مدارس کے بانی نیز وہاں کے ایک شہر کے قاضی، عربی سے ملاوی زبان
میں چند کتب کے مترجم۔ [۴۶]

۸۔ علامہ سید ابو بکر بن سالم البار حضرمی مکی شاعری رحمتہ اللہ علیہ (م ۱۳۸۴ھ / ۱۹۶۳ء)،

مسجد حرم و مدرسہ فخریہ وصولتیہ و فلاح کے مدرس، حافظ قرآن، سلسلہ عیدروسیہ علویہ کے عارف کامل، صاحب تصانیف، ہندوستان کا دورہ کیا، فاضل بریلوی کے خلیفہ۔ [۴۷]

۹۔ شیخ ابوبکر بن شہاب الدین تمبوسی انڈونیشی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۹ھ/

۱۹۳۰ء)، مدرس مسجد حرم، عابد و زاہد۔ [۴۸]

۱۰۔ شیخ ابوبکر بن محمد سعید با بصیل رحمۃ اللہ علیہ

۱۱۔ شیخ بکر بن عبدالرحمن صباغ مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۷ھ/ ۱۹۱۹ء)، مدرس

مسجد حرام۔ [۴۹]

۱۲۔ شیخ جامع بن عبدالرشید انڈونیشی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۱ھ/ ۱۹۳۲ء)،

انڈونیشیا کے شہر بوقیس میں سلسلہ رفاعیہ کے سجادہ نشین۔ [۵۰]

۱۳۔ شیخ حسن کاظم ہندی حنفی مکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۱ھ/ ۱۹۱۳ء)، مدرس مسجد حرم،

حافظ قرآن، آپ کے والد ماجد ہندوستان کے مقام کرم گنج سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ

جائے۔ [۵۱]

۱۴۔ شیخ حسن بن محمد ذوق حسینی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۴۰۱ھ/ ۱۹۸۰ء)، امام

و مدرس مسجد حرم، شام و عراق کے بادشاہ سید فیصل بن حسین بن علی ہاشمی (م ۱۳۵۲ھ/ ۱۹۳۳ء)

[۵۲] کے سفر و حضر میں امام خاص۔ [۵۳]

۱۵۔ علامہ سید حسین بن حامد عطاس حسینی حضرمی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۷ھ/ ۱۹۲۸ء)،

عارف کامل۔ [۵۴]

۱۶۔ علامہ سید حسین بن محمد حبشی حجری مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۰ھ/ ۱۹۱۲ء)، مفتی

شافعیہ و شیخ العلماء، مدرس مسجد حرم، پیر طریقت، صاحب الدلیل المشیر کے دادا، فتاویٰ الحرمین

برہن ندوۃ المین کے مقرر۔

۱۷۔ شیخ خلیفہ بن خلیفہ حمد نبھانی بحرینی مکی مالکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۲ھ/ ۱۹۴۳ء)،

امام و مدرس حرم، ماہر فلکیات، راضی داں، سیاح، ماہر غوطہ خور، سات سے زائد کتب کے مصنف۔ [۵۵]

۱۸۔ علامہ سید زین بن عبداللہ عطاس حریضی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۴ھ / ۱۹۳۵ء)، عارف کامل، قطب زماں سید احمد عطاس کے سوتیلے بھائی۔ [۵۶]

۱۹۔ علامہ سید شیخ بن محمد بن حسین حبشی حضرمی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۴۸ھ / ۱۹۲۹ء)، پیر طریقت، صاحب تصانیف، شاعر، صاحب نعتیہ دیوان، انڈونیشیا میں عظیم تبلیغی خدمات۔ [۵۷]

۲۰۔ شیخ صالح بن محمد بافضل مکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۳ھ / ۱۹۱۵ء)، مدرس مسجد حرم، صاحب تصانیف، فاضل بریلوی کی کتاب حسام الحرمین وادولتہ المکیہ کے مقرر۔ [۵۸]

۲۱۔ شیخ عبدالستار بن عبدالوہاب صدیقی دہلوی مکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۵ھ / ۱۹۳۶ء)، مدرس مسجد حرم، مؤرخ۔ [۵۹]

۲۲۔ علامہ سید عبدالعزیز بن عبدالوہاب کوعی بنقری رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۳ھ / ۱۹۳۳ء)، ماہر فلکیات، انڈونیشیا کے شہر بنقر میں مسجد و مدرسہ کے بانی۔ [۶۰]

۲۳۔ شیخ عبدالقادر بن صابر مندلی انڈونیشی مہاجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۲ھ / ۱۹۳۳ء)، مدرسہ کے مدرس، مدرسہ فلاح و صولیتیہ کے ممتحن۔ [۶۱]

۲۴۔ شیخ عبدالقادر بن محمد سقاف حضرمی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۷ھ / ۱۹۴۸ء)، مبلغ اسلام۔ [۶۲]

۲۵۔ شیخ عبداللہ بن ابراہیم حمدوہ حسنی سوڈانی مہاجر مکی (م ۱۳۵۰ھ / ۱۹۳۱ء)، امام و مدرس مسجد حرم، قاری، مکہ مکرمہ میں مدرسہ تجوید کے بانی، مدیر مدرسہ فلاح، تین سے زائد کتب کے مصنف، رکن مجلس شوریٰ۔ [۶۳]

۲۶۔ علامہ سید عبداللہ بن ازہری انڈونیشی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۷ھ /

۱۹۳۹ء)، علامہ سید احمد دحلان کے کاتب خاص، انڈونیشیا کے شہر فلمبان نیز مکہ مکرمہ میں تدریسی خدمات انجام دیں۔ [۶۲]

۲۷۔ علامہ سید عبداللہ بن طاہر بن عبداللہ ہدار حداد حضرت رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۷ھ/

۱۹۴۸ء)، مبلغ اسلام، شاعر، صاحب تصانیف، دو بار ہندوستان بھی آئے۔ [۶۵]

۲۸۔ شیخ عبداللہ بن علی حمید عنزی مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۴۶ھ/ ۱۹۲۸ء)، امام

و مدرس مسجد حرم، مفتی حنابلہ، تین سے زائد کتب کے مصنف، الدولۃ المکیہ کے مقرظ۔ [۶۶]

۲۹۔ علامہ سید عبداللہ بن عیدروس تریبی حضرت رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۴۷ھ/ ۱۹۲۸ء)،

حافظ قرآن، پیر طریقت، مبلغ اسلام۔ [۶۷]

۳۰۔ علامہ سید عبداللہ بن محمد سقاف حضرت رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۸۷ھ/ ۱۹۶۷ء)، عالم

جلیل و پیر طریقت، صاحب تصانیف کثیرہ۔ [۶۸]

۳۱۔ علامہ سید عبدالحسن بن محمد امین رضوان حسینی مدنی مکی شافعی رحمۃ اللہ

علیہ (م ۱۳۸۱ھ/ ۱۹۶۱ء)، شیخ الدلائل، صاحب تصانیف، [۶۹] آپ کے ایک بھائی علامہ سید محمد

عبدالباری رضوان رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۸ھ/ ۱۹۴۰ء) نے الدولۃ المکیہ پر [۷۰] اور دوسرے

بھائی سید عباس رضوان مدنی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۴۶ھ/ ۱۹۲۸ء) نے حسام الحرمین والدولۃ المکیہ

پر تقاریظ قلمبند کیں۔ [۷۱]

۳۲۔ شیخ عبدالحیظ بن یعقوب انڈونیشی مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۸۴ھ/ ۱۹۶۴ء)،

مرشد کامل، حق بات کہنے میا جری۔ [۷۲]

۳۳۔ علامہ سید عثمان بن محمد شطاک شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۹۵ھ/ ۱۸۷۸ء)، مدرس

مسجد حرم، علامہ سید احمد دحلان کی بعض تصنیفات کے شارح۔ [۷۳]

۳۴۔ علامہ سید علوی بن صالح بن عقیل مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (ولادت

۱۳۶۳ھ)۔ [۷۴]

- ۳۵۔ علامہ سید علوی بن محمد بن طاہر حسینی حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۷۳ھ/ ۱۹۵۳ء)، مبلغ اسلام، حضرموت اور انڈونیشیا میں متعدد مساجد کی تعمیر نو کرائی نیز وہاں تدریسی خدمات انجام دیں، انڈونیشیا میں ہی وفات پائی۔ [۷۵]
- ۳۶۔ شیخ علی جبرتی رحمۃ اللہ علیہ، نزیل مکہ مکرمہ، حافظ قرآن، عالم باعمل۔ [۷۶]
- ۳۷۔ شیخ علی ابوالخیر حضرت مکی رحمۃ اللہ علیہ، مدرس و امام مسجد حرم۔ [۷۷]
- ۳۸۔ علامہ سید علی بن عبدالرحمن حبشی حسینی انڈونیشی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۸۸ھ/ ۱۹۶۸ء)، مرشد طریقت، مکہ مکرمہ و انڈونیشیا میں متعدد علماء نے آپ سے اخذ کیا، نجات والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مفتی شیخ محمد علی مالکی مکی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کے مقرر۔ [۷۸]
- ۳۹۔ علامہ سید علی بن محمد بن حسین حبشی حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۳ھ/ ۱۹۱۵ء)، قطب شہیر و مرشد کبیر، صاحب کرامات کثیرہ، جشن میلاد وغیرہ موضوعات پر متعدد کتب کے مصنف، حضرموت کے شہر سیوون میں تدریسی خدمات۔ [۷۹]
- ۴۰۔ شیخ علی بن شیخ محمد سعید باہصیل شافعی رحمۃ اللہ علیہ
- ۴۱۔ شیخ عمر بن ابوبکر باجنید حضرت مہاجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۴ھ/ ۱۹۳۵ء)، مدرس مسجد حرم، مفتی شافعی، صنعاء و فد کے رکن، فاضل بریلوی کی تین تصنیفات کے مقرر۔ [۸۰]
- ۴۲۔ علامہ سید عمر بن سالم عطاس شافعی رحمۃ اللہ علیہ (ولادت ۱۲۶۸ھ)، مدرس مسجد حرم، انڈونیشیا میں شاندار تبلیغی خدمات، فتاویٰ الحرمین کے مؤید و مقرر۔ [۸۱]
- ۴۳۔ علامہ سید عمر بن محمد شطاک مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۱ھ/ ۱۹۱۳ء)، مدرس مسجد حرم۔ [۸۲]
- ۴۴۔ علامہ سید عیدروس بن سالم البار علوی حسینی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۷ھ/ ۱۹۴۷ء)، مدرس مسجد حرم، سلسلہ عیدروسیہ علویہ کے مرشد کامل، صاحب تصانیف، صاحب حزم پیر طریقت سید عیدروس حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۶ھ) کے خلیفہ [۸۳]، آپ کے والد ماجد

اور چھوٹے بھائی نے فاضل بریلوی سے خلافت پائی۔ [۸۴]

۴۵۔ شیخ محفوظ بن عبداللہ ترسی انڈونیشی مہاجر کی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۸ھ/

۱۹۲۰ء)، مدرس مسجد حرم، حافظ قرآن، چودہ سے زائد کتب کے مصنف۔ [۸۵]

۴۶۔ علامہ سید محمد بن جعفر کتانی مراکشی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۴۵ھ/ ۱۹۲۶ء)،

محدث کبیر، مؤرخ، مرشد، سیاح، شاعر، صاحب الرسالۃ المستطرفۃ، ۶۵ سے زائد کتب کے

مصنف، الدولتہ المکیہ کے مقرر۔ [۸۶]

۴۷۔ شیخ محمد حیات عباسی شافعی رحمۃ اللہ علیہ، نزیل مکہ مکرمہ، شیخ ابراہیم رشیدی کے

مرید، صاحب کرامات۔ [۸۷]

۴۸۔ علامہ سید محمد زمزمی بن محمد جعفر کتانی مراکشی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۷۱ھ/

۱۹۵۱ء)، عام جلیل و مرشد کامل، سیاح، شاعر، سات سے زائد کتب کے مصنف، اتحاد بین المسلمین

نیز تبلیغ اسلام کی کوششوں پر عثمانی حکومت کی طرف سے ایوارڈ یافتہ، دو بار ہندوستان

آئے۔ [۸۸]

۴۹۔ علامہ سید محمد بن سالم سری حضرمی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۴۶ھ/ ۱۹۲۷ء)، سید احمد

عطاس کے محب صادق و خلیفہ، سنگاپور میں پیدا ہوئے۔ [۸۹]

۵۰۔ مولانا محمد عبدالباقی لکھنوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۴ھ/ ۱۹۴۵ء)، مسجد

نبوی کے مدرس، مدرسہ نظامیہ مدینہ منورہ کے بانی، تیس سے زائد کتب کے مصنف، مولانا عبدالحی

لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۰۴ھ/ ۱۸۸۷ء) کے شاگرد اور مولانا ضیاء الدین احمد قادری مہاجر

مدنی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۴۰۱ھ/ ۱۹۸۱ء) کے استاد۔ [۹۰]

۵۱۔ علامہ سید محمد عبدالحی بن عبدالکبیر حسنی اور یسی کتانی مراکشی رحمۃ اللہ

علیہ (م ۱۳۸۲ھ/ ۱۹۶۲ء)، محدث جلیل و مؤرخ عظیم، سلسلہ کتانیہ کے مرشد کامل، صاحب فہرس

الفہارس، ایک سو تیس کتب کے مصنف، فاضل بریلوی کے خلیفہ [۹۱] شاہابو الحسن زید فاروقی

- مجددی دہلوی ازہری رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۱۴ھ/۱۹۹۳ء) کے استاد۔ [۹۲]
- ۵۲۔ شیخ محمد عبداللہ بافیل حضرمی مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۱ھ/۱۹۳۲ء)، مدرس مسجد حرم۔ [۹۳]
- ۵۳۔ شیخ محمد علی بلخیور رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۸ھ/۱۹۲۰ء)، مدرس مسجد حرم۔ [۹۴]
- ۵۴۔ شیخ محمد علی بن حسین مالکی مکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء)، مفتی مالکیہ، مدرس مسجد حرم و مدرس دارالعلوم دیدیہ مکہ مکرمہ، قاضی، وزارت تعلیم کے مشیر، مجلس شوریٰ کے رکن، سینٹ کے رکن، شاعر، ۴۴ سے زائد کتب کے مصنف، فاضل بریلوی کی دو کتب کے مقرر اور خلیفہ۔ [۹۵]
- ۵۵۔ شیخ محمد بن عوض بافضل تریبی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۹ھ/۱۹۵۰ء)، قطب زماں سید احمد عطاس کے خادم خاص و خلیفہ۔ [۹۶]
- ۵۶۔ شیخ محمد کامل سندھی مکی (م ۱۳۵۳ھ/۱۹۳۳ء)، مدرس مسجد حرم، مسجد حرم ابووز کے نگران اعلیٰ۔ [۹۷]
- ۵۷۔ علامہ سید محمد بن محسن خیل عطاس یمانی مکی مدنی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۸ھ/۱۹۳۹ء)، مدرس مسجد حرم۔ [۹۸]
- ۵۸۔ شیخ محمد مختار بن عطار داندونیشی مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۴۹ھ/۱۹۳۰ء)، مسجد حرم کے مدرس، صاحب تصانیف، الدولۃ المکیہ کے مقرر۔ [۹۹]
- ۵۹۔ شیخ نور بن اسماعیل خالدی اندونیشی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۱۳ھ/۱۸۹۵ء)، مکہ مکرمہ میں اندونیشی طلباء کے مرجع۔ [۱۰۰]
- ۶۰۔ علامہ سید ہاشم بن عبداللہ شطراہ حسینی مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۸۰ھ/۱۹۶۱ء)، مدرس مسجد حرم و مدرسہ صولتیہ۔ [۱۰۱]
- ۶۱۔ علامہ سید ہاشمی بن خضراء سلاوی مراکشی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء)،

حافظ قرآن، مدرس، فاس شہر کے قاضی، مفتی، شاعر، صاحب تصنیف، قصیدہ بردہ کے شارح،
مراکش میں شاہی محل کے خطیب۔ [۱۰۲]

تصنیفات

شیخ محمد سعید باصیل رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی حتمی فہرست ابھی تک کسی تذکرہ نگار
نے مرتب نہیں کی، اس صورت حال میں آپ کی جن سات تصنیفات کے بارے میں جو کچھ معلوم
ہو سکا وہ یہاں پیش ہے:-

(۱)۔ اسعاد الرفیق و بغیة الصدیق بحل سلم التوفیق الی محبة اللہ علی

التحقیق

تصوف کے موضوع پر اہم کتاب، سن تصنیف ۱۲۸۰ھ، سن اشاعت ۱۲۹۲ھ، مطبع
بولاق قاہرہ، اکثر مؤرخین نے اسے شیخ محمد سعید باصیل کے والد ماجد شیخ محمد سالم باصیل کی
تصنیف قرار دیا [۱۰۳] اور بعض نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ شیخ محمد سالم باصیل ”مفتی شافعیہ“ کے
منصب پر تعینات تھے [۱۰۴] لیکن یہ دونوں دعوے درست نہیں۔

شیخ محمد سالم باصیل رحمۃ اللہ علیہ عالم دین نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے کوئی کتاب
تصنیف کی، اس دور کے علماء مکہ مکرمہ کے حالات و خدمات پر لکھی گئی عربی کتب میں ان کے
بارے میں ایک سطر بھی دستیاب نہیں، اور اسعاد الرفیق کی تصنیف و اشاعت کے ایام میں جو علماء
کرام بالترتیب مفتی شافعیہ کے منصب پر فائز رہے ان کے اسماء گرامی یہ ہیں:

تقریباً ۱۲۶۰ء میں مفتی شافعیہ شیخ محمد سعید قدسی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی تو ان کی
جگہ یہ منصب شیخ احمد دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالا جو اپنی وفات ۱۲۷۰ء تک اس پر خدمات
انجام دیتے رہے، پھر یہ منصب علامہ سید محمد بن حسین حبشی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد ہوا اور ۱۲۸۱ھ
میں انہوں نے وفات پائی تو علامہ سید احمد بن زینی دحلان رحمۃ اللہ علیہ مفتی شافعیہ بنائے گئے جو

۱۳۰۳ھ تک اس سے وابستہ رہے۔ [۱۰۵]

(۲)۔ رسالة في التحذير من حقوق الوالدین وقطعية الرحم

والتغيب في برهما وصلة الرحم

حقوق والدین کا بیان، اسعاد الرقیق کے حاشیہ پر طبع ہوئی۔

(۳)۔ رسالة فيما يتلق بالاعضاء السبعة

اعضاء کے بارے میں، یہ بھی اسعاد الرقیق کے حاشیہ پر طبع ہوئی۔

(۴)۔ رسالة في البعث والنشور في احوال الموتى والقبور

موت و قیامت اور اس کے بعد کے حالات، مخطوط نیشنل لائبریری قاہرہ زیر نمبر ۳۵۱/

تصوف [۱۰۶] ۱۲۹۸ھ/۱۸۸۰ء میں مطبع شرف قاہرہ میں طبع ہوئی۔ [۱۰۷]

(۵)۔ القول المجدی فی الرد علی عبد اللہ بن عبد الرحمن السندی

یہ آپ کی اہم تصنیف ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کے استاد علامہ سید احمد دحلان

رحمۃ اللہ علیہ نے وہابیت کے تعاقب میں متعدد کتب لکھیں جن میں ایک ”الدر السنیة فی

الرد علی الوهابیة“ نام کی ہے جو امراء مکہ کی مالی اعانت سے ۱۲۹۹ھ میں قاہرہ سے طبع ہو کر

مکہ مکرمہ و دیگر مقامات پر تقسیم کی گئی، بعد ازاں یہ پاکستان اور ترکی سے متعدد بار شائع ہو گیا اور اس

کے ایک سے زائد اردو تراجم پاک و ہند سے منظر عام پر آئے۔

آگرہ (یوپی۔ ہندوستان) میں برطانوی استعمار کے قائم کردہ سینٹ جوزف کالج میں

فارسی و عربی کے سابق استاد اور غیر مقلد مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علامہ محمد بشیر

سہوانی (م ۱۳۲۶ھ) نے علامہ دحلان کی عقائد و معمولات اہل سنت کے اثبات پر لکھی گئی مذکورہ

بالا کتاب کے خلاف قلم اٹھایا اور ”صيانة الانسان عن وسوسة الشيخ دحلان“ عربی

میں تصنیف کی [۱۰۸] جو اس وقت کے غیر مقلدین ہند کے امام نواب صدیق حسن خاں

بھوپالی [۱۰۹] نیز بعض اہل نجد کے مالی تعاون سے ۱۸۹۰ء میں دہلی سے شائع کی گئی جس پر بطور

مصنف ایک قلمی نام ”عبداللہ بن عبدالرحمن بن عبدالرحیم سندھی“ دیا گیا تھا۔

پھر مصر میں وہابی تحریک کے بانی و ماہنامہ المنار قاہرہ کے ایڈیٹر علامہ رشید رضا مصری (م ۱۳۵۴ھ / ۱۹۳۵ء) نے سہوانی کی اس کتاب پر مقدمہ لکھ کر اہل نجد اور بعض حجازی وہابیہ کی مالی اعانت سے ۱۳۵۲ھ میں اس کا دوسرا ایڈیشن قاہرہ سے شائع کیا، صیانة کے اب تک پانچ ایڈیشن سامنے آچکے ہیں جن میں آخری ایڈیشن سعودی حکومت کے قائم کردہ علماء نجد پر مشتمل دارالافتاء ریاض نے طبع کرا کے مفت تقسیم کیا، اس کے دہلی ایڈیشن کے علاوہ باقی سب اس کے اصل مصنف محمد بشیر سہوانی کے نام سے شائع ہوئے جن پر ان کے حالات زندگی بھی درج ہیں جو کسی محمد عبدالباقی سہوانی کے تحریر کردہ ہیں۔

الدرر السنية نیز صیانة الانسان کے بارے میں یہ تفصیلات یہاں درج کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ عبدالباقی کہ عبدالباقی نے دعویٰ کیا کہ اہل سنت سے صیانة کے مندرجات کا جواب نہیں بن پڑا۔ [۱۱۰]

موصوف کا یہ لکھنا درست نہیں اس لئے کہ صیانة الانسان کے رد میں شیخ محمد باصیل رحمۃ اللہ علیہ نے ”القول المجدی فی الرد علی عبداللہ بن عبدالرحمن السندی“ لکھی جو ۱۳۰۹ھ / ۱۸۹۱ء میں انڈونیشیا کے شہر جکارتہ جس کا پرانا نام بتافیا ہے سے شائع ہوئی [۱۱۱] جب کہ صیانة کا پہلا ایڈیشن طبع ہوئے محض ایک برس گزرا تھا۔

(۶)۔ رسالة فی اذکار الحج المأثورة و آداب السفر والزيارة

طبع اول ۱۳۱۰ھ، طبع دوم ۱۳۲۳ھ، مطبع میریہ مکہ مکرمہ، کل صفحات ۶۲۔ [۱۱۲] حج

وزیارت سے متعلق۔

(۷)۔ الدرر النقیة فی فضائل ذریة خیر البریة

فضائل سادات کا بیان، مصر کے مفتی اعظم شیخ حسنین بن محمد مخلوف مالکی رحمۃ اللہ

علیہ (م ۱۳۱۰ھ / ۱۹۹۰ء) [۱۱۳] کی تقدیم کے ساتھ شائع ہوئی۔ [۱۱۳]

خلیفہ عثمانی کا نمائندہ وفد

عثمانی خلیفہ عبدالحمید خان دوم کے حکم پر علماء مکہ مکرمہ کا وفد ایک مہم پر شمالی یمن کے مرکزی شہر موجودہ یمن کے دارالحکومت صنعاء روانہ کیا گیا جس میں شیخ محمد سعید باہصیل رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔

جماعت اسلامی پاکستان کے قلم کار ثروت صولت جو ترکی زبان سے واقف ہیں، لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ چھ سو سال سے زیادہ قائم رہی، اسلامی تاریخ میں کسی ایک خاندان نے اتنے عرصہ تک حکومت نہیں کی اور نہ کسی قوم کو اتنا عروج حاصل رہا جتنا عثمانی ترکوں کو، ان میں حکومت کی حیرت انگیز صلاحیت تھی، چار سو سال تک تو ان کا عروج قائم رہا اور اس کے بعد جب زوال ہوا تو ان کی سلطنت امویوں، عباسیوں اور مغلوں کی طرح ایک دم ختم نہیں ہوئی بلکہ دو سو سال کا عرصہ لگ گیا، دشمنوں کو انہوں نے اپنے علاقے آسانی سے نہیں دیئے بلکہ ایک ایک قدم کے لئے جنگ کرتے رہے اور بار بار انہوں نے اپنے بگڑے ہوئے حالات کو سنبھال لیا، عثمانی ترکوں کی یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جس کی مثال تاریخ اسلام میں دوسری جگہ نہیں ملتی، عثمانی سلطنت کی اس منظبوطی اور استحکام کے کئی اسباب ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ ترکوں کا اخلاق اور ان کا اعلیٰ کردار ہے، ترکوں کی ان خوبیوں کا تمام مؤرخوں نے جن میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں شامل ہیں، دلکھول کرا اعتراف کیا ہے۔ [۱۱۵]

سلطان عبدالحمید خان دوم نے ۱۲۹۳ھ - ۱۳۲۷ھ / ۱۸۷۶ء - ۱۹۰۹ء پورے تیس برس تک حکومت کی، آپ نے اتحاد اسلام کی تحریکوں کی حوصلہ افزائی کی اور غیر ترک مسلمانوں کو اعلیٰ عہدے دے کر ان میں سلطنت عثمانیہ کے ایک ترک ریاست سے زیادہ ایک اسلامی ریاست ہونے کا احساس پیدا کیا اور غیر ترک مسلمانوں میں اعتماد کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے فلسطین کو یہودی وطن بنانے کی کوششوں کو ناکام بنایا، ترکی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور

انگریزوں نے دو مرتبہ سلطان کو یہ قرض ادا کرنے کی پیشکش کی بشرطیکہ وہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دیں، لیکن سلطان نے اس پیشکش کو سختی سے رد کر دیا۔ [۱۱۶]

انہی ایام میں انگریزوں کی سازش سے ترک قومیت اور عرب قومیت کے نظریات کو فروغ ملا، ترکی میں مغرب پرستوں کے سب سے بڑے ترجمان جلال نوری اسیدی (م ۱۹۳۸ء) اور ضیا گوگ الپ (م ۱۹۲۳ء) تھے، ان دونوں نے اپنے نظریات کی وضاحت کے لئے متعدد کتابیں لکھیں ہیں، ان میں ضیا گوگ الپ کی ”ترک قومیت کی اساس“ بنیادی اہمیت کی حامل ہے، ادھر ۱۹۰۰ء میں عرب قوم پرست عبدالرحمن کواکبی کی کتابیں ”طبائع الاستبداد“ اور ”ام القرى“ قاہرہ سے شائع ہوئیں، ان کتابوں نے ترک دشمنی اور عرب قومیت کے جذبہ کے فروغ میں نمایاں حصہ لیا۔ [۱۱۷]

سلطان عبدالحمید خان دوم کے دور حکومت میں شمالی یمن میں زید یہ فرقہ سے تعلق رکھنے والے ایک عالم سید محمد بن یحییٰ حمید الدین حسنی علوی طالبی نے یمن کو خلافت عثمانیہ سے الگ کرنے کے لئے جدوجہد شروع کر دی جس پر ۱۳۰۷ھ میں انہیں چند قبائل نے اپنا امام تسلیم کر لیا اور انہوں نے منصور باللہ کا لقب اختیار کر کے صنعاء شہر کے نواح میں اپنی حکومت قائم کر کے عثمانی افواج کے خلاف مسلح کارروائیاں شروع کر دیں، امام یمن کے حامی قبائل اور عثمانی افواج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری تھا کہ امام یمن سید محمد بن یحییٰ نے ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۳ء میں وفات پائی۔ [۱۱۸]

اس پر علیحدگی پسندوں نے ان کے فرزند سید یحییٰ بن محمد بن یحییٰ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے انہیں امام قرار دیا، جس نے متوکل علی اللہ کا لقب اپنا کر اپنے والد کے کام کو آگے بڑھایا اور صنعاء شہر پر قبضہ کر کے یمن پر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ [۱۱۹]

خلافت عثمانیہ اور امام یمن سید یحییٰ کے درمیان مسلح تصادم کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ سلطان عبدالحمید دوم نے امن و صلح اور اتحاد و یگانگت کے لئے مکہ مکرمہ کے علماء و زعماء کا ایک نمائندہ وفد صنعاء بھیجنے کا حکم دیا، ادھر ۱۳۲۳ھ میں گورنر مکہ مکرمہ عون رفیق پاشا نے وفات پائی تو

ان کی جگہ سید علی پاشا بن عبداللہ بن محمد بن عبدالمعین ابوعمون یہ منصب سنبھال چکے تھے [۱۲۰] گورنر علی پاشا نے یہ وفد تشکیل دیا جس میں حسب ذیل نو شخصیات شامل تھیں۔ [۱۲۱]

۱۔ شیخ عبداللہ بن عباس بن صدیق رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احناف و مدرس مسجد حرم، فاضل بریلوی سے ملاقات و مکالمہ ہوا، آپ اس وفد کے سربراہ تھے۔ [۱۲۲]

۲۔ شیخ محمد صالح کمال رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۲ھ / ۱۹۱۳ء)، مفتی احناف، مسجد حرم کے امام و خطیب اور مدرس، قاضی جدہ، صاحب تصانیف جن میں سے ایک کا اردو ترجمہ شائع ہوا، تقدیس الوکیل کے مقرر، فاضل بریلوی کے خلیفہ اور تین کتب کے مقرر۔ [۱۲۳]

۳۔ مفتی شافعیہ و شیخ العلماء شیخ محمد سعید باہصیل رحمۃ اللہ علیہ

۴۔ شیخ علی بن شیخ محمد سعید باہصیل رحمۃ اللہ علیہ

۵۔ شیخ عمر بن ابوبکر باجنید شافعی رحمۃ اللہ علیہ

۶۔ شیخ جعفر بن ابوبکر لبنی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۴۰ھ / ۱۹۲۲ء)، مدرس مسجد حرم،

قاضی، آٹھ سے زائد کتب کے مصنف، آپ ابوحنیفہ صغیر کے لقب سے مشہور تھے۔ [۱۲۴]

۷۔ شیخ محمد بن یوسف خیاط شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۰ھ کے بعد انڈونیشیا میں وفات

پائی) ماہر فلکیات، مدرسہ خیر یہ مکہ مکرمہ کے بانی، فاضل بریلوی کی تین کتب کے مقرر۔ [۱۲۵]

۸۔ شیخ محمد فاضل کابلی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۷۵ھ / ۱۹۵۵ء)

۹۔ شیخ عبدالقادر قطب رحمۃ اللہ علیہ، مکہ مکرمہ کے اہم تاجر۔

۱۳۲۵ھ میں یہ وفد مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر صنعاء شہر کے قریب موجود عثمانی افواج کے

سپہ سالار کے پاس پہنچا، جنہوں نے قاصد کے ذریعے اس وفد کی آمد اور اغراض و مقاصد پر

متحارب فریق یعنی امام یمن کو مطلع کیا، اس پر اکابر علماء یمن نے شہر سے باہر آ کر ان کا استقبال کیا

پھر یہ ان کی معیت میں شاہی محل پہنچا جہاں امام یمن نے وفد کے سربراہ و اراکین سے معانقہ کیا اور

علماء بیت اللہ الحرام کے اعزاز میں خیر مقدمی کے کلمات کہے، اس کے بعد باہم مذاکرات کا سلسلہ

شروع ہوا، پھر وفد نے ان کی تفصیلات کا مراسلہ مرتب کرنا شروع کیا تاکہ اسے گورنر مکہ مکرمہ کے توسط سے سلطان عبدالحمید دوم کی خدمت میں استنبول روانہ کیا جاسکے، یہ کارروائی ابھی جاری تھی کہ وفد کو ایک بڑے سانحہ کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے سربراہ مفتی احناف شیخ عبداللہ بن عباس نے ۲۵ رمضان ۱۳۲۵ھ کو اچانک وفات پائی۔ [۱۲۶]

یہ صدمہ ابھی تازہ تھا کہ خبر آئی گورنر مکہ مکرمہ سید علی بن عبداللہ کو ۱۳۲۶ھ / ۱۹۰۸ء میں معزول کر دیا گیا اور ان کی جگہ سید حسین بن علی بن محمد (م ۱۳۵۰ھ / ۱۹۳۱ء) جو استنبول میں مقیم تھے اور وہاں سے مکہ مکرمہ پہنچ کر گورنر کا منصب سنبھال چکے ہیں [۱۲۷]، پھر استنبول سے اطلاع ملی کہ سلطان عبدالحمید دوم نے عوام کا مطالبہ مانتے ہوئے ۲۴ جولائی ۱۹۰۸ء کو ملک کا آئین بحال کر دیا ہے جس کی وجہ سے سیاسی منظر نامہ بدل کر رہ گیا، اور چند ماہ بعد تار آیا کہ ۲۷ اپریل ۱۹۰۹ء کو سلطان عبدالحمید کو معزول کر کے ان کے بھائی محمد رشاد پنجم کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا ہے، اس طرح تیزی سے بدلتے ہوئے ان حالات میں علماء مکہ مکرمہ کا یہ وفد اپنے سربراہ کو صنعاء میں ہی دفن کر کے اپنے مقاصد میں ناکام ہو کر لوٹ آیا۔ [۱۲۸]

شیخ محمد سعید با بصلیل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آخری دور پوری ملت اسلامیہ کے لئے کرب کا دور تھا، خلافت عثمانیہ کا شیرازہ تیزی سے بکھر رہا تھا اور اسلامی دنیا تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر کر اغیار کی گرفت میں جانے کے آثار نظر آنے لگے تھے، اس صورت حال میں امت محمدیہ کا درد رکھنے والی شخصیات نے دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں حالات کو سنبھالا دینے، اتحاد، بیداری اور اپنی قوت جمع کرنے کے لئے ممکنہ حد تک کوشش کی، شیخ با بصلیل انہی میں سے ایک تھے جو ۸۰ برس کی عمر میں کسی تکلیف کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے امت مسلمہ کی فکر لئے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے مکہ مکرمہ سے صنعاء جا پہنچے، جبکہ اس خطہ میں ایندھن سے چلنے والی گاڑیوں کا وجود تک نہ تھا۔

شیخ با بصلیل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سفارتی مہم سے واپسی کے محض چند برس بعد وفات پائی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلمانوں کے مزید مصائب دیکھنے سے بچا لیا جو اگلے عشرہ میں پیش

آئے، خلافت عثمانیہ کا زوال تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھا، گورنر مکہ مکرمہ سید حسین بن علی نے مکہ مکرمہ سمیت پورے حجاز مقدس کو خلافت عثمانیہ سے الگ کر کے ”مملکت ہاشمیہ حجاز“ قائم کرتے ہوئے ۱۳۳۴ھ/۱۹۱۶ء میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا، ادھر انگریزوں نے استنبول پر قبضہ کر کے ۱۹۱۸ء میں محمد رشاد پنجم کی جگہ سلطان محمد وحید الدین ششم کو خلیفہ مقرر کر دیا، عثمانی حکومت اور اہل یمن کے درمیان جدال و قتال جاری رہا ادھر جنگ عظیم اول کا دور تھا، بالآخر ۱۹۱۸ء میں خلیفہ عثمانی نے یمن سے دستبردار ہو کر اسے امام یحییٰ کے سپرد کر دیا، اور ۱۹۲۲ء میں قوم پرست ترکوں نے سلطان عبدالحمید خان کو خلیفہ منتخب کیا لیکن ۲۹ اکتوبر ۱۹۲۳ء کو بادشاہت ختم کر کے ترکی کو جمہوریہ قرار دیا گیا اور ۳ مارچ ۱۹۲۴ء کو خلافت بھی ختم کر دی گئی، اس طرح عثمانی سلطنت کا ۶۲۵ سال بعد خاتمہ ہو گیا، سلطان عبدالحمید دوم کہ جن کے حکم سے علماء مکہ کا وفد صنعاء گیا تھا انہوں نے ۱۳۳۵ھ میں حالت اسیری میں وفات پائی اور ان کے حریف امام یمن سید یحییٰ کو خود اہل یمن نے ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء میں قتل کر دیا۔ [۱۲۹]

قناعت پسندی

شیخ الاسلام محمد سعید باہصل رحمۃ اللہ علیہ نے اہم سرکاری مناصب پر فائز اور استاذ العلماء ہونے کے باوصف انتہائی سادہ زندگی بسر کی، آپ سادہ لباس میں سر پر ہمیشہ سفید عمامہ رکھتے اور دایاں ہاتھ عصا سے خالی نہ ہوتا، عمر بھر اپنا گھر تعمیر نہیں کیا اور مسجد حرم کے باب الوداع کے بالمقابل کرائے کے مکان میں زندگی گزار دی۔ [۱۳۰]

تقدیس الوکیل پر تقریظ

اس دور کے ہندوستان میں جن علماء کرام کے علم و فضل کا طوطی بول رہا تھا اور وہ ہر محاذ پر اسلامیان ہند کی قیادت و رہنمائی کر رہے تھے ان میں سے ایک اہم نام فقیہ، پیر طریقت، مناظر اسلام، عربی، اردو و فارسی زبانوں میں سترہ کتب کے مصنف، علمائے لاہور کے سر تاج مولانا غلام

دشگیر قصوری ہاشمی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۱۵ھ / ۱۸۹۷ء) کا ہے، آپ سواد اعظم اہل سنت میں وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے دعاوی کو بھانپ کر اس کا تعاقب کیا اور مرزا کی اولین متنازع تصنیف براہین احمدیہ کے رد میں دو کتب ”رجم الشیاطین براغلو طات البراہین“ اور ”تحقیقات دشگیریہ فی ردھفوات براہیدیہ“ لکھیں، نیز ہندستان بھر میں بسنے والے تمام اسلامی مکاتب فکر میں آپ وہ پہلے فرد ہیں جن کے توسط سے بیرونی دنیا، برصغیر میں جنم لینے والے اس اعتقادی فتنہ پر مطلع ہوئی اور علماء حرمین شریفین نے مرزا قادیانی کی تکفیر کے فتاویٰ جاری کئے جو رجم الشیاطین میں درج ہیں، یہ کتاب ۱۳۰۲ھ میں طبع ہوئی۔

براہین احمدیہ کا ابتدائی حصہ ۱۳۰۱ھ / ۱۸۸۳ء میں شائع ہوا، مولانا قصوری اس کی تردید میں مشغول تھے کہ عین انہی دنوں ۱۳۰۲ھ میں ”براہین قاطعہ“ نامی کتاب منظر عام پر آئی جو شیخ رشید احمد گنگوہی کی تصنیف تھی اور ان کے شاگرد خلیل احمد انبٹھوی کے نام سے شائع ہوئی جس میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجالس ایصال ثواب، اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے، علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوعات زیر بحث لائے گئے اور اپنا موقف بیان کرتے ہوئے انتہائی سخت الفاظ استعمال کئے گئے، اس پر مولانا قصوری وغیرہ اس دور کے اکابرین اہل سنت براہین قاطعہ کی جانب متوجہ ہوئے۔

مولانا قصوری نے اس کتاب کے مندرجات پر بہاول پور میں شیخ خلیل احمد انبٹھوی وغیرہ اکابر علماء دیوبند سے مناظرہ کیا پھر اس کی روداد مرتب کر کے اسے کتابی شکل دی اور اس کا عربی ترجمہ کرتے ہوئے ۱۳۰۷ھ میں حرمین شریفین جا پہنچے اور براہین قاطعہ کی اشاعت سے ہندوستان میں برپا ہونے والے مباحث کو وہاں کے اکابر علماء کرام کے سامنے پیش کیا، جن میں شیخ محمد سعید باہیل رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی سرفہرست ہے، آپ نے مولانا مولانا قصوری کے دلائل و موقف کی تائید کرتے ہوئے اس پر تقریظ لکھی نیز مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے دیگر علماء نے اس پر تقریظات قلمبند کیں اور مولانا قصوری نے لاہور واپس آ کر اسے ”تقدیس الوکیل عن توہین

الرشید والخلیل“ کے نام سے شائع کرایا۔ [۱۳۱]

فتاویٰ الحرمین برہف ندوۃ المین

مولانا احمد رضا خاں قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تصنیف میں شیخ محمد سعید باہصیل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ درج ہے جس کے اجراء کی وجہ یہ ہوئی کہ ۱۳۱۱ھ/۱۸۹۳ء میں مدرسہ فیض عام کانپور میں ایک جلسہ منعقد ہوا جس میں ہندوستان بھر سے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے اکابر علماء نے شرکت کی جن فاضل بریلوی بھی شامل تھے، اس اجتماع میں شرکاء کی تائید سے مولانا محمد علی مونگیری (م ۱۳۲۶ھ/۱۹۲۷ء) نے انجمن ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی، جس کے سات اہم مقاصد یہ تھے، مسلمانوں کو متحد کیا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، مختلف الخیال علماء کو قریب لایا جائے، دینی تعلیم کی اصلاح کی جائے، عربی مدارس کا قیام، اسلام پر لگائے گئے الزامات کا جواب، دارالافتاء کا قیام، لیکن فروغ علم اور اتحاد کے پُرکشش دعوں تلے قائم ہونے والی اس انجمن کے اصل عزائم جلد ہی سامنے آنے لگے اور اس کے پیٹ فارم سے نیچری فکر نیز اطاعت حکومت کا پرچار شروع کر دیا گیا، ۱۸۹۸ء میں اسی انجمن کے تحت لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء نے کام شروع کیا۔

محققین نے ندوۃ العلماء کے نظریات کو دو ادوار میں تقسیم کیا ہے، اس کا پہلا دور اس کے قیام ۱۸۹۳ء سے لے کر ۱۹۱۴ء تک کا ہے جب اس پر نیچری فکر غالب تھی اور بقول شیخ اشرف علی تھانوی (م ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء) ہندوستان میں نیچریت کا بیج سرسید احمد خاں کا بویا ہوا ہے [۱۳۲]، حکیم سید عبدالحی لکھنوی (م ۱۳۳۱ھ/۱۹۲۳ء) جو ۱۳۱۳ھ سے اپنی وفات تک ندوہ کے ناظم رہے وہ سرسید احمد کا تعارف ان الفاظ میں کراتے ہیں، وہ بڑی عقل اور کم علم رکھتے تھے، نماز و روزہ کے پابند نہ تھے، اسلام اور عیسائیت کو قریب لانے کے لئے کوشاں رہے، برطانوی حکومت کے مقرب تھے، مغربی تہذیب و عادات اپنانے کے داعی تھے، ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا

مغربی طرز کا تھا، برطانوی حکام سے انعام یافتہ تھے، حکیم عبدالحی نے سرسید کی ان آراء میں سے تمیں کا ذکر کیا ہے۔ [۱۳۳]

علامہ شبلی نعمانی (م ۱۳۳۲ھ/۱۹۱۴ء) جو ۱۳۱۷ھ میں ندوہ کے ناظم بنائے گئے اور آٹھ برس تک اس سے وابستہ رہے وہ قبل ازیں علی گڑھ میں استاد تھے اور وہاں پر موجود یورپی اساتذہ نیز سرسید احمد خاں کے حلقہ احباب میں شامل رہے نیز ان کے افکار سے متاثر تھے، اور بقول حکیم عبدالحی ندوی، علامہ شبلی نعمانی معتزلی تھے اور شاعرہ کے شدید مخالف تھے۔ [۱۳۴]

ایسے ہی اسباب تھے کہ مختلف مکاتب فکر کے متعدد علماء ندوہ سے دور ہوتے گئے جن میں مولانا احمد رضا خاں بریلوی، مولانا لطف اللہ علی گڑھی (م ۱۳۳۴ھ/۱۹۱۶ء)، مولانا احمد حسن کانپوری (م ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۴ء)، مولوی اشرف علی تھانوی اور ابوالکلام آزاد (م ۱۳۷۷ھ/۱۹۵۸ء) شامل ہیں، حتیٰ کہ اس کے بانی مولانا محمد علی مونگیری ۱۳۲۱ھ میں اس کی مجلس ادارت سے مستعفی ہو کر اپنے وطن مونگیرہ میں گوشہ نشین ہو گئے۔

اس صورت حال میں ندوہ کے ذمہ داران کو اپنی ناکامی کا احساس ہوا اور علامہ شبلی نعمانی کے بعد اس ادارے کا دوسرا دور شروع ہوا، ۱۳۲۵ھ میں علامہ شبلی کے شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی (م ۱۳۷۳ھ/۱۹۵۳ء) اس میں استاد تعینات ہوئے تو یہ دیوبندیت تک محدود ہونے لگا اور جب سید سلیمان ندوی کے شاگرد حکیم سید عبدالحی کے بیٹے سید ابوالحسن علی ندوی (م ۱۳۲۰ھ/۱۹۹۹ء) اس کے ناظم اعلیٰ ہوئے تو یہ ادارہ موجودہ شکل اختیار کر گیا جو آج ہندوستان میں اہم دیوبندی ادارہ ہے۔ [۱۳۵] ان دنوں حکیم سید عبدالحی کے نواسہ سید محمد رابع ندوی اس کے ناظم اعلیٰ ہیں۔

مولانا احمد رضا خاں بریلوی جب ندوہ سے الگ ہوئے تو اسلامیان ہند کو اس کے ظاہر و باطن پر مطلع کرنے اور حق و باطل کو واضح کرنے کی ذمہ داری پورے طور پر نبھائی، ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں کہ آپ نے رد ندوہ کے لئے ایک رسالہ ”تحفہ حنفیہ“ جاری کیا نیز اس تعاقب میں سو

سے زائد کتب لکھیں، علاوہ ازیں ہندوستان بھر کے علماء سے فتاویٰ حاصل کئے جنہیں ”الجام السنۃ
لاہل الفتنۃ“ کے نام سے شائع کیا۔ [۱۳۶]

۱۳۱۶ھ میں فاضل بریلوی نے اس موضوع پر اٹھائیس سوال و جواب پر مشتمل عربی
کتاب ”فتاویٰ الحرمین برہف ندوۃ المین“ تصنیف کی اور حجاج کے ذریعے اسے علماء حرمین
شریفین کی خدمت میں پیش کیا، جس پر مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے بیس سے زائد علماء کرام نے اس
کے مندرجات کی تائید و توثیق میں فتاویٰ اور تقریظات لکھیں نیز مصنف کو اعلیٰ درجے کے کلمات
سے یاد کیا، اس پر سب سے پہلی تقریظ مفتی شافعیہ و شیخ العلماء محمد سعید باہصیل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے،
یہ کتاب عربی متن و اردو ترجمہ کے ساتھ ۱۳۱۷ھ میں بمبئی سے شائع ہوئی اور اس کا جدید ایڈیشن
رسائل رضویہ کے ضمن میں لاہور سے شائع ہوا جس پر مولانا محمد عبدالحکیم اختر شاہ جہانپوری لاہوری
نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ (پ ۱۹۳۵ء۔ ف ۱۹۹۳ء) نیچاس صفحات کا دیباچہ لکھا [۱۳۷] علاوہ ازیں
استنبول سے اس کے عربی متن کے متعدد ایڈیشن طبع ہو کر تقسیم ہوئے۔

فاضل بریلوی سے ملاقات

فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد مولانا نقی علی خاں بریلوی رحمۃ اللہ
علیہ (م ۱۲۹۷ھ/ ۱۸۸۰ء) کے ہمراہ پہلے سفر حج و زیارت پر ۱۲۹۵ھ میں مکہ مکرمہ حاضر ہوئے، شیخ
باہصیل رحمۃ اللہ علیہ جو عمر میں فاضل بریلوی کے والد گرامی سے بھی ایک برس بڑے تھے، ان
دنوں مسجد حرم میں مدرس نیز فتاویٰ کے اجراء میں علامہ دحلان کے معتمد و معاون تھے، اس قیام مکہ
مکرمہ کے دوران فاضل بریلوی اور شیخ باہصیل کے درمیان ملاقات ہوئی ہوگی لیکن اس کی
تفصیلات کہیں دست یاب نہیں۔

اور جب ۱۳۲۳ھ/ ۱۹۰۶ء میں فاضل بریلوی دوسری و آخری بار حرمین شریفین حاضر
ہوئے اور مکہ مکرمہ میں پونے تین مہینے قیام کیا، تو شیخ باہصیل رحمۃ اللہ علیہ مفتی شافعیہ و شیخ العلماء

کے مناصب رفیعہ پر فائز اور مکہ مکرمہ کے چار اکابر علماء کرام میں سے ایک تھے [۱۳۸]، اس موقع پر فاضل بریلوی و شیخ باصیل کے درمیان متعدد ملاقاتیں ہوئیں، مسائل زیر بحث آئے اور پھر تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا، فاضل بریلوی نے خود فرمایا:

”فقیر دعوتوں کے علاوہ صرف چار جگہ ملنے کو جاتا، مولانا شیخ صالح کمال اور

شیخ العلماء مولانا محمد سعید باصیل اور مولانا عبدالحق مہاجر الہ آبادی اور کتب

خانہ (حرم مکی) میں مولانا اسماعیل کے پاس، رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، یہ حضرات

اور باقی تمام حضرات فرودگاہ فقیر پر تشریف لایا کرتے صبح سے نصف شب کے

قریب ملاقاتوں ہی میں وقت صرف ہوتا“۔ [۱۳۹]

بعض تذکروں میں ہے کہ شیخ باصیل نے فاضل بریلوی سے خلافت پائی [۱۴۰] لیکن

یہ درست نہیں، ہاں انہی ملاقاتوں میں آپ نے فاضل بریلوی کی مزید دو تصنیفات حسام الحرمین

والدولۃ المکیہ پر تقاریظ لکھیں جو مطبوع ہیں۔ [۱۴۱]

وفات

شیخ الاسلام شیخ العلماء مفتی شافعیہ امام حرم شیخ محمد سعید باصیل رحمۃ اللہ علیہ نے بروز

جمعرات ۲۴ ربیع الاول اور بقول دیگر ۲۳ ربیع الثانی ۱۳۳۰ھ/۱۹۱۲ء کو مکہ مکرمہ میں ہی وفات

پائی اور قبرستان المعلیٰ میں تدفین ہوئی۔ [۱۴۲]

اولاد

آپ کی اولاد میں سے دو فرزند ان نے علمی دنیا میں نام پایا، ان کے اسماء گرامی

وحالات یہ ہیں: شیخ علی باصیل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو بکر باصیل رحمۃ اللہ علیہ۔

۱۔ شیخ علی بن محمد سعید باصیل رحمۃ اللہ علیہ ۱۲۷۳ھ میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اپنے

والد ماجد کے علاوہ علماء کرام سے تعلیم پائی، پھر مسجد حرم میں مدرس ہوئے جہاں باب الوداع کے

قریب آپ کا حلقہ درس منعقد ہوتا، وزارت انصاف میں قاضی تعینات رہے، آپ صنعاء و فد میں اپنے والد کے ہمراہ تھے، ۱۳۵۳ھ میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی۔

شیخ علی باہصیل کے ایک فرزند شیخ عبدالرحمن باہصیل مکہ مکرمہ کی اعلیٰ عدالت میں قاضی رہے اور دوسرے فرزند جن کا نام معلوم نہ ہو سکا وہ مکہ مکرمہ کے ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے معبد سعودی کے نائب مدیر رہے جنہوں نے ۱۳۶۰ھ میں وفات پائی۔ [۱۴۳]

۲۔ شیخ ابوبکر بن محمد سعید باہصیل رحمۃ اللہ علیہ ۱۲۹۳ھ میں پیدا ہوئے، اپنے والد ماجد کے علاوہ اکابر علماء مکہ مکرمہ سے تعلیم پائی، پھر مسجد حرم میں مدرس ہوئے آپ کا حلقہ درس باب الوداع کے برآمدہ میں اپنے بھائی کے جوار میں منعقد ہوتا، آپ بلند آواز کے مالک اور فروغ علم کے لئے ہمہ اوقات سرگرم تھے، آپ کا طریقہ تھا کہ جب تک طلباء کسی عبارت کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ نہ جاتے آپ تدریس کا سلسلہ آگے نہ بڑھاتے، آپ سعودی عہد میں قاضی رہے، ۲۹/ محرم ۱۳۴۹ھ تک زندہ تھے۔

شیخ ابوبکر باہصیل کے ایک فرزند شیخ عبدالرحمن باہصیل رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۷۴ھ) فوری انصاف مہیا کرنے والی عدالت میں رئیس کاتب تھے [۱۴۴]، پھر شیخ عبدالرحمن باہصیل کے دو فرزند معروف ہوئے ایک شیخ احمد بن عبدالرحمن باہصیل جو ۱۳۶۷ھ میں زندہ اور اہل علم سے وابستہ تھے [۱۴۵]، اور دوسرے محمد سعید بن عبدالرحمن باہصیل جو ۱۳۱۲ھ/۱۹۹۲ء میں زندہ اور حجاز مقدس کے اہم شعراء میں سے تھے، پیش نظر کتاب میں ان کے کلام کا نمونہ موجود ہے۔ [۱۴۶]

۱۳۰۳ھ میں اسی گھرانہ کے ایک فرد شیخ عبدالرحمن باہصیل رحمۃ اللہ علیہ مسجد حرم میں نائب مدرس تھے [۱۴۷] لیکن ان کے حالات کہیں درج نہیں۔

حوالہ جات و حواشی

[۱]- الاعلام، خير الدين زرکلی دمشقی، طبع دہم ۱۹۹۲ء، دارالعلم للملایین بیروت،

جلد ۸، ص ۱۰۲ تا ۱۰۱

[۲]- تفسیر ضیاء القرآن، جسٹس پیر محمد کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ، طبع ۱۴۰۲ھ، ضیاء

القرآن پبلی کیشنز لاہور، جلد ۲، ص ۴۵، پارہ ۸، سورۃ الاعراف، آیت ۶۵ کی تفسیر

[۳]- ماہنامہ العرب ریاض، شمارہ صفر ۱۳۸۸ھ، صالح بن سعید ہلابی کا مضمون ”

لمحات تاریخیة عن حضرموت“ ص ۳۱ تا ۴۳ / الاعلام، ج ۱، ص ۳۳۲، ج ۸، ص ۱۰۶

[۴]- اعلام الملکین من القرن التاسع الی القرن الرابع عشر لہجری، عبداللہ بن

عبدالرحمن معلمی مکی، طبع اول ۱۴۲۱ھ / ۲۰۰۰ء، موسسۃ الفرقان للتراث الاسلامی لندن، ج اول،

ص ۲۵۰ / سیر و تراجم بعض علمائنا فی القرن الرابع عشر للہجرۃ، عمر عبدالجبار مکی، طبع سوم

۱۴۰۳ھ / ۱۹۸۲ء، مکتبہ تہامہ جدہ، ص ۲۴۴ / ترجمۃ شیخ الاسلام الشریف ابی عبداللہ محمد بن جعفر

الکتانی، علامہ سید محمد زمزمی بن محمد بن جعفر کتانی، غیر مطبوع، ص ۱۰۴ / نشر الدرر فی تذییل نظم الدرر

فی تراجم علماء مکة من القرن الثالث عشر الی الرابع عشر، شیخ عبداللہ غازی مکی، مخطوط بخط مصنف

مملوکہ جدہ یونیورسٹی لائبریری ذخیرہ شیخ محمد نصیف، مخطوط نمبر ۲۹۱۲ مائیکروفلم نمبر ۳۵۷۲، عکس مملوکہ

راقم الحروف، ص ۵۶

[۵]- سیر و تراجم، ص ۱۱۱

[۶]- الدلیل المشری الی فلک اسانید الاتصال بالحیب البشیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،

جسٹس علامہ سید ابوبکر حبشی مکی شافعی، طبع اول ۱۴۱۸ھ / ۱۹۹۷ء، مکتبہ مکیہ مکہ مکرمہ، ص ۴۹ / نشر الدرر

ص ۵۶

[۷]- المختصر من کتاب نشر النور والزهرة فی تراجم افاضل مکة من القرن العاشر الی القرن

الرابع عشر، جسٹس شیخ عبداللہ مرداد شہید کی حنفی، اختصار و ترتیب محمد سعید عامودی کی وسید احمد علی کاظمی بھوپالی کی، طبع دوم ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء، ص ۳۳۵/سیر و تراجم، ص ۳۰

[۸]۔ تشنیف الاسماع بشیوخ الاجازة والسماع، شیخ محمود مدوح شافعی، طبع اول، سن

اشاعت درج نہیں، سن تصنیف ۱۴۰۳ھ، دارالشباب قاہرہ، صفحات ۲۳، ۳۰۸، ۵۴۲/اعلام
المکیین، جلد اول، ص ۳۳۵/الدلیل المشر، صفحات ۲۳، ۲۳۱، ۳۳۱/مختصر نشر النور، ص ۳۵۲

[۹]۔ گورنر سید محمد عون کے حالات کے لئے دیکھئے: تاریخ مکہ، احمد سباعی کی، طبع

چہارم ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹ء، دارمکتہ للطباعة مکہ مکرمہ، ص ۵۱۷/الاعلام، جلد ۶، ص ۲۳۷ تا ۲۳۸

[۱۰]۔ شیخ عبداللہ سراج کے حالات کے لئے دیکھئے: نزہتہ الفکر فیما مضی من

الحوادث والصر فی تراجم رجال القرن الثانی والثالث عشر، شیخ احمد حضراوی ہاشمی کی شافعی، تحقیق محمد

مصری، طبع اول ۱۹۹۶ء، قزرت اوقاف دمشق (شام)، حصہ دوم، ص ۶۵ تا ۶۶/نظم الدرر فی

اختصار نشر النور والزہر فی تراجم افاضل مکہ من القرن العاشر الی القرن الرابع عشر، شیخ عبداللہ غازی

کی، مخطوط بخط مصنف جدہ یونیورسٹی لائبریری، ذخیرہ شیخ محمد نصیف، عکس مملو کہ راقم الحروف،

ص ۱۳۲ تا ۱۳۳/مختصر نشر النور، ص ۲۹۷ تا ۳۰۰/اعلام المکیین، ج ۱، ص ۴۹۹

[۱۱]۔ مولانا فضل رسول بدایونی کے حالات کے لئے دیکھئے: نزہتہ الخواطر و بھتہ

المسامع والنواظر، سید عبدالحی لکھنوی ندوی وسید ابوالحسن علی لکھنوی ندوی، طبع اول ۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء،

حصہ ۸، ص ۱۰۶۵/تذکرہ علمائے اہل سنت، علامہ محمود احمد کانپوری، طبع دوم ۱۹۹۲ء، سنی

دارالاشاعت علویہ رضویہ فیصل آباد، ص ۲۰۹

[۱۲]۔ شیخ جمال بن عبداللہ کے حالات کے لئے دیکھئے: مختصر نشر النور، ص ۱۶۱ تا ۱۶۲/

نزہتہ الفکر، حصہ اول، ص ۲۶۸ تا ۲۷۲/نظم الدرر، ص ۱۱۸ تا ۱۱۹/اعلام المکیین، جلد اول ص ۶۸

۶۹۳/الاعلام، جلد ۲، ص ۱۳۴

[۱۳]۔ مولانا عبدالقادر بدایونی کے حالات کے لئے دیکھئے: نزہتہ الخواطر، حصہ ۸،

ص ۱۲۸۷ / تذکرہ علماء اہل سنت، ص ۱۲۵ تا ۱۲۷ / ماہنامہ ضیائے حرم لاہور، شمارہ اکتوبر ۱۹۹۸ء،
ص ۷۷ تا ۸۷، مولانا عبدالحکیم شرف قادری کا مضمون ”تاج الفحول حضرت مولانا شاہ عبدالقادر
بدایونی حضرت امام احمد رضا بریلوی کی نظر میں“

[۱۴]۔ علامہ سید احمد دحلان مکی کے حالات کے لئے دیکھئے: سالنامہ معارف رضا

کراچی، شمارہ ۱۹۹۸ء، ص ۷۷ تا ۸۷ / ماہنامہ معارف رضا کراچی، شمارہ ستمبر ۲۰۰۰ء، ص ۱۵

[۱۵]۔ نزہۃ الخواطر، ص ۱۰۰۴ تا ۱۰۰۵، ۱۱۲۶ تا ۱۱۲۷، ۱۱۸۰ تا ۱۱۸۲، ۱۲۶۸ تا ۱۲۷۰

[۱۶]۔ نثر الدرر، ضمیمہ ص ۵ تا ۵

[۱۷]۔ نثر الدرر، ص ۵۶

[۱۸]۔ نثر الدرر، ضمیمہ ص ۹

[۱۹]۔ شیخ عبدالرحمن سراج مکی کے حالات کے لئے دیکھئے: سالنامہ معارف رضا،

شمارہ ۱۹۹۸ء، ص ۱۶۵ تا ۱۸۱ / شمارہ ستمبر ۲۰۰۰ء، ص ۱۵

[۲۰]۔ شیخ محمد مالکی نیزان کے خاندان کے حالات کے لئے دیکھئے: معارف رضا،

شمارہ جنوری ۲۰۰۲ء، ص ۱۲ تا ۱۵ و ملحقہ شمارے

[۲۱]۔ شیخ خلف کے حالات کے لئے دیکھئے: علماء نجد خلال ثمانیہ قرون، شیخ عبداللہ

بسام، طبع دوم ۱۴۱۹ء، دارالعاصمہ ریاض، جلد ۲، ص ۱۵۳ تا ۱۵۷ / نثر الدرر، ضمیمہ ص ۲

[۲۲]۔ تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل، مولانا غلام دستگیر قصوری، نوری بک

ڈپولاہور

[۲۳]۔ گورنر حجاز عثمان نوری پاشا کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام الحجاز فی القرن

الرابع عشر للهجرة وبعض القرون الماضية، محمد علی مغربی جداوی، جلد ۳، طبع اول ۱۴۱۰ھ / ۱۹۹۰ء،

ص ۱۰۹ اودوگیر / تاریخ مکہ، ص ۵۵۱ / مختصر نثر النور، حاشیہ ص ۶۲

[۲۴]۔ فتاویٰ الحرمین برہف ندوۃ المین، مولانا احمد رضا خاں بریلوی

[۲۵]۔ علامہ سید حسین حبشی کے حالات و اسانید پر ان کے شاگرد شیخ عبداللہ غازی مکی نے کتاب ”فتح القوی فی ذکر اسانید السید حسین الحبشی العلوی“ تصنیف کی جو ۱۹۹۷ء میں شائع ہوئی، نیز دیکھیں: فہرس الفہارس والاثبات و معجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات، علامہ عبدالحی کتانی مراکشی، تحقیق ڈاکٹر احسان عباس، طبع دوم ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء دار الغرب الاسلامی بیروت، جلد اول ص ۳۲۰ تا ۳۲۱/اعلام المکینین، جلد اول، ص ۳۶۰/الاعلام، جلد ۲، ص ۲۵۸/الدلیل المشیر، ص ۹۲ تا ۹۷/سیر و تراجم، ص ۹۹/مختصر نشر النور، ص ۱۷۹ تا ۱۷۷/نظم الدرر، ص ۱۷۳ تا ۱۷۲

[۲۶]۔ تاریخ مکہ، ص ۵۵۰

[۲۷]۔ گورنر مکہ عون رفیق پاشا کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام الحجاز، جلد ۳، صفحات ۱۱۳، ۳۶۸ وغیرہ/الاعلام، جلد ۵، ص ۹۷ تا ۹۸/تاریخ مکہ، ص ۵۵۰/مختصر نشر النور، حاشیہ ص ۲۰۷

[۲۸]۔ سیر و تراجم، ص ۹۹/مختصر نشر النور، ۱۷۸/نثر الدرر، ص ۵۶/نظم الدرر، ص ۱۷۳

[۲۹]۔ اعلام المکینین، جلد اول، ص ۲۵۰/نثر الدرر، ص ۵۶

[۳۰]۔ تصنیف الاسماع، ص ۵۹، ۴۹۶

[۳۱]۔ ہذا مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ عبدالرحمن علی دیبھی زبیدی (م ۹۴۴ھ)، سن اشاعت درج نہیں، تقریباً ایک صدی قبل طبع ہوئی، مکتبہ محمد علی صبیح جامعہ الازہر چوک قاہرہ، ص ۷۹ تا ۷۷

[۳۲]۔ شیخ ابراہیم رشیدی کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المکینین، جلد اول،

ص ۴۵۱/الاعلام، جلد اول، ص ۴۳ تا ۴۴/نثر الدرر، ص ۲/نزہۃ الفکر، حصہ اول، ص ۸۱ تا ۸۳

[۳۳]۔ شیخ احمد بن ادریس کے حالات کے لئے دیکھئے: الاعلام، جلد اول، ص ۹۵/

نزہۃ الفکر، جلد اول، ص ۱۸۵

[۳۴]۔ ملا اسماعیل کابلی کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المکینین، جلد ۲، ص ۹۲۱/

نثر الدرر، ص ۱۸

[۳۵]۔ نزہۃ الفکر، حصہ اول، ص ۸۳

[۳۶] علامہ سید احمد عطاس کے حالات کے لئے دیکھئے: الاعلام، جلد اول، ص ۱۱۳/

الدلیل المشر، ص ۲۱۶ تا ۲۲۰/ سیر و تراجم، ص ۶۷ تا ۶۹/ اعلام المکین، جلد ۲، ص ۶۸۳ تا ۶۸۴

[۳۷]۔ عقود اللماس بمناقب الامام العارف باللہ الحبيب احمد بن الحسن العطاس،

علامہ سید علوی بن طاہر بن عبد اللہ حداد، طبع سوم ۱۴۱۲ھ/ ۱۹۹۱ء، کرجائی پریس لمیٹڈ سنگاپور، سرورق

[۳۸]۔ سیر و تراجم، ص ۶۹

[۳۹]۔ شیخ ابراہیم خزومی کے حالات کے لئے دیکھئے: بلوغ الامانی فی التعریف

بشیوخ و اسانید مسند العصر الشیخ محمد یاسین بن محمد عیسیٰ القادانی المکی، شیخ محمد مختار الدین فلمبانی

انڈونیشیائی، طبع اول ۱۴۰۸ھ/ ۱۹۸۸ء، دارقیتہ دمشق، صفحہ ۶۷/ اعلام المکین، جلد اول ص ۴۰۳

تا ۴۰۴/ تشذیب الاسماع، ص ۲۳ تا ۲۵

[۴۰]۔ شیخ احمد فقیہ کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المکین، جلد ۲، ص ۳۰/ مختصر

نثر النور، ص ۱۱۰/ نظم الدرر، ص ۱۶۱

[۴۱]۔ شیخ احمد مخلصی کے حالات کے لئے دیکھئے: اهل الحجاز بعقبہم التاريخی، حسن

عبدالحی قزاز مکی، طبع اول ۱۴۱۵ھ/ ۱۹۹۳ء، مطابع المدینۃ جدہ، ص ۳۲۵ تا ۳۲۹/ تاریخ علماء

دمشق فی القرن الرابع عشر الهجری، محمد مطیع حافظ و نزار اباطہ، جلد ۳، طبع اول ۱۴۱۲ھ/ ۱۹۹۱ء، دار الفکر

دمشق، ص ۱۷۱ تا ۱۷۳/ اعلام المکین، جلد ۲، ص ۸۲۵ تا ۸۲۶/ بلوغ الامانی، ص ۵۵ تا ۵۷/ تشذیب

الاسماع، ص ۵۸ تا ۵۵/ الدلیل المشر، ص ۲۳ تا ۲۷

[۴۲]۔ مولانا عبد الباری فرنگی محلی کے حالات کے لئے دیکھئے: فہرس الفہارس، جلد

اول، ص ۲۳۵ تا ۲۳۶/ نزہۃ الخواطر، ص ۱۲۵۹ تا ۱۲۶۰/ تذکرہ علماء اہل سنت، ص ۱۷۳ تا ۱۷۴/

ضیائے حرم، شمارہ مارچ ۱۹۹۶ء، ص ۷۷ تا ۸۶، بقلم محمد صادق قسوری

- [۴۳]- شیخ احمد ناظرین کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المکین، جلد ۲، ص ۹۵۶
- ۹۵۸۲/ اہل الحجاز، ص ۲۵۵ تا ۲۵۷/ تشیف الاسماع، ص ۵۹ تا ۶۰/ الدلیل المشیر، ص ۴۷
- ۵۱۲/ سیر و تراجم، ص ۴۷ تا ۵۰/ نثر الدرر، ص ۲۲
- [۴۴]- شیخ احمد نجاز کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المکین، جلد ۲، ص ۹۶۱ تا ۹۶۲/
- الاعلام، جلد اول، ص ۱۸۳/ الدلیل المشیر، ص ۵۱ تا ۵۳/ سیر و تراجم، ص ۵۱ تا ۵۳
- [۴۵]- علامہ احمد ادریسی کے حالات کے لئے دیکھئے: بلوغ الامانی، ص ۸۴/ تشیف
- الاسماع، ص ۶۹ تا ۷۰
- [۴۶]- شیخ احمد قستی کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المکین، جلد ۲، ص ۶۲ تا ۵۳
- ۷۶/ اہل الحجاز، ص ۳۰۳ تا ۳۰۴/ بلوغ الامانی، ص ۳۲/ سیر و تراجم، ص ۵۲ تا ۵۶
- [۴۷]- علامہ سید ابوبکر البار کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المکین، جلد اول،
- ص ۲۵۲/ اہل الحجاز، ص ۲۶۸ تا ۲۷۰/ تشیف الاسماع، ص ۳۱ تا ۳۲/ الدلیل المشیر،
- ص ۲۱ تا ۲۵/ سیر و تراجم، ص ۳۰ تا ۳۱/ نثر الدرر، ص ۲۲/ سالنامہ معارف رضا کراچی، شمارہ
- ۱۹۹۹ء، ص ۲۰۲ تا ۲۰۰
- [۴۸]- شیخ ابوبکر تمبوسی کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المکین، جلد اول، ص ۳۲۲
- ۳۲۵۲/ سیر و تراجم، حاشیہ ص ۲۳۰/ نثر الدرر، ص ۱۷
- [۴۹]- شیخ بکر صباغ کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المکین، جلد ۲، ص ۶۰۲/
- سیر و تراجم، ص ۸۲ تا ۸۳/ مختصر نثر النور، ص ۱۳۶/ نظم الدرر، ص ۱۷۰
- [۵۰]- شیخ جامع رفاعی کے حالات کے لئے دیکھئے: تشیف الاسماع، ص ۱۴۰
- [۵۱]- شیخ حسن کاظم کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المکین، جلد اول، ص ۳۷۳
- ۳۷۴/ سیر و تراجم، حاشیہ ص ۱۱۰/ مختصر نثر النور، ص ۱۷۴ تا ۱۷۵/ نظم الدرر، ص ۱۷۴ تا ۱۷۵
- [۵۲]- شام و عراق کے بادشاہ فیصل حاشمی کے حالات کے لئے دیکھئے: الاعلام،

جلد ۵، ص ۱۶۵ تا ۱۶۶

[۵۳]۔ شیخ حسن فدعق کے حالات کے لئے دیکھئے: اتمام الاعلام، ڈاکٹر نزار اباظہ
 و محمد ریاض صالح دمشقی، طبع اول ۱۹۹۹ء، دار صا د بیروت، ص ۷۷/ تتمۃ الاعلام، محمد خیر رمضان
 یوسف، طبع اول ۱۴۱۸ھ/ ۱۹۹۸ء، جلد اول، ص ۱۳۷/ اهل الحجاز، ص ۳۱۱ تا ۳۱۲/ تشیف الاسماع،
 ص ۱۶۴ تا ۱۶۵

[۵۴]۔ علامہ سید حسین عطاس کے حالات کے لئے دیکھئے: تشیف الاسماع، ص ۱۶۹
 [۵۵]۔ شیخ خلیفہ نبھانی کے حالات پر ان کے شاگرد شیخ محمد یاسین بن عیسیٰ فادانی
 انڈونیشیائی نے کتاب ”فیض الرحمن فی اسانید و ترجمۃ شیخنا خلیفۃ بن حمد النبھانی“ تصنیف کی جو غیر
 مطبوع ہے، نیز دیکھیں: اعلام اللمکین، جلد ۲، ص ۹۵۹ تا ۹۶۰/ بلوغ الامانی، ص ۵۲/ تشیف
 الاسماع، ص ۱۹۰ تا ۱۹۳/ سیر و تراجم، ص ۱۰۱ تا ۱۰۴/ نثر الدرر، ص ۳۰
 [۵۶]۔ علامہ سید زین عطاس کے حالات کے لئے دیکھئے: تشیف الاسماع، ص ۲۳۰/
 الدلیل المشیر، ص ۱۰۷ تا ۱۰۸

[۵۷]۔ علامہ سید شیخ حبشی کے حالات کے لئے دیکھئے: الدلیل المشیر، ص ۱۱۰ تا ۱۱۲
 [۵۸]۔ شیخ صالح بافضل کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام اللمکین۔ جلد اول،
 ص ۲۶۱/ سیر و تراجم، ص ۱۳۲ تا ۱۳۴/ مختصر نثر النور، ص ۲۱۲ تا ۲۱۳/ نظم الدرر، ص ۱۸۲
 [۵۹]۔ شیخ عبدالستار دہلوی مکی کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام اللمکین، جلد اول،
 ص ۲۳۸ تا ۲۴۰/ الاعلام، جلد ۳، ص ۳۵۴/ تشیف الاسماع، ص ۳۰۳ تا ۳۰۷/ سیر و تراجم، ص ۱۹۶
 ۱۹۹۲/ نثر الدرر، ص ۴۰

[۶۰]۔ علامہ سید عبدالعزیز کوعی کے حالات کے لئے دیکھئے: تشیف الاسماع،
 ص ۳۰۸ تا ۳۰۹

[۶۱]۔ شیخ عبدالقادر مندیلی کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام اللمکین، جلد ۲،

ص ۹۲۵ / سیر و تراجم، ص ۲۴۲ / مختصر نشر النور، ص ۲۷۷ / نظم الدرر، ص ۱۹۲
[۶۲] - شیخ عبدالقادر سقاف کے حالات کے لئے دیکھئے: الدلیل المشیر، ص ۱۸۹ تا

۱۹۳

[۶۳] - شیخ عبداللہ حمدوہ کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المکین، جلد ۲، ص ۳۹۵ تا
۳۹۶ / اہل الحجاز، ص ۳۳۰ تا ۳۳۱ / بلوغ الامانی، ص ۳۳ / تشدیف الاسماع، ص ۳۲۹ تا ۳۳۰ /
الدلیل المشیر، ص ۱۹۲ تا ۱۹۶ / سیر و تراجم، ص ۱۶۲ تا ۱۶۶ / نثر الدرر، ص ۴۱
[۶۴] - علامہ سید عبداللہ بن ازہری کے حالات کے لئے دیکھئے: بلوغ الامانی،
ص ۱۶۲ / تشدیف الاسماع، ص ۳۳۱ تا ۳۳۲

[۶۵] - علامہ سید عبداللہ ہدار حداد کے حالات کے لئے دیکھئے: الدلیل المشیر،

ص ۱۹۶ تا ۲۰۵

[۶۶] - شیخ عبداللہ حمید کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المکین، جلد اول، ص ۳۹ تا
۴۰ / الاعلام، جلد ۴، ص ۱۰۸ / اہل الحجاز، ص ۲۸۷ / سیر و تراجم، ص ۲۰۰ تا ۲۰۱
[۶۷] - علامہ سید عبداللہ عیدروس کے حالات کے لئے دیکھئے: الدلیل المشیر،

ص ۲۰۹ تا ۲۱۰

[۶۸] - علامہ سید عبداللہ سقاف کے حالات کے لئے دیکھئے: الدلیل المشیر، ص ۲۱۱

۲۱۵ تا

[۶۹] - علامہ سید عبداللہ محسن رضوان کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المکین، جلد
اول، ص ۴۵۳ / تشدیف الاسماع، ص ۳۶۱ تا ۳۶۲ / الدلیل المشیر، ص ۲۳۰ تا ۲۳۲

[۷۰] - علامہ سید محمد عبدالباری رضوان کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام

المکین، جلد اول، ص ۴۵۳ تا ۴۵۴ / اہل الحجاز، ص ۲۸۵ تا ۲۸۷ / سیر و تراجم، ص ۲۸۹ تا ۲۹۰

[۷۱] - علامہ سید عباس رضوان کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام من ارض النبوة، شیخ

انس یعقوب کتھی مدنی، جلد ۲، طبع اول ۱۳۱۵ھ/۱۹۹۴ء، مطابع دارالبلاد جدہ، ص ۱۱۳ تا ۱۱۷/
الاعلام، جلد ۳، ص ۲۶۵/تشفیف الاسماع، ص ۲۶۲ تا ۲۶۵

[۷۲]- شیخ عبدالحیظ انڈونیشی کے حالات کے لئے دیکھئے: بلوغ الامانی، ص ۶۴/

تشفیف الاسماع، ص ۳۶۳ تا ۳۶۴

[۷۳]- علامہ سید عثمان شطا کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المسکین، جلد اول،

ص ۵۶۳/سیر و تراجم، حاشیہ ص ۸۰/مختصر نشر النور، ص ۳۳۷/نظم الدرر، ص ۱۳۸

[۷۴]- علامہ سید علوی عقیل کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المسکین، جلد ۲،

ص ۶۹۵/مختصر نشر النور، ص ۳۴۵/نظم الدرر، ص ۱۹۰

[۷۵]- علامہ سید علوی حضرمی کے حالات کے لئے دیکھئے: تشفیف الاسماع، ص ۳۹۰

۳۹۲ تا

[۷۶]- شیخ علی جبرتی کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المسکین، جلد اول، ص ۳۳۵/

مختصر نشر النور، ص ۳۵۲/نظم الدرر، ص ۲۰۲

[۷۷]- شیخ علی ابوالخیر کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المسکین، جلد اول، ص ۱۹۹/

مختصر نشر النور، ص ۳۴۶/نظم الدرر، ص ۲۰۲

[۷۸]- علامہ سید علی حبشی انڈونیشی کے حالات کے لئے دیکھئے: تشفیف الاسماع،

ص ۴۰۵ تا ۴۰۶/الدلیل المشیر، ص ۲۸۲ تا ۲۸۹

[۷۹]- علامہ سید علی حبشی حضرمی کے حالات کے لئے دیکھئے: الاعلام، جلد ۵، ص ۱۹/

الدلیل المشیر، ص ۲۸۸ تا ۲۹۵

[۸۰]- شیخ عمر باجنید کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المسکین، جلد اول، ص ۲۵۱/

تشفیف الاسماع، ص ۴۲۲ تا ۴۲۵/الدلیل المشیر، ص ۲۹۶ تا ۲۹۸/سیر و تراجم، ص ۱۲۷ تا ۱۲۸/نثر

الدرر، ص ۵۰

[۸۱]۔ علامہ سید عمر عطاس کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المسکین، جلد ۲، ص ۶۸۶/مختصر نشر النور، ص ۳۸۰/نثر الدرر، ضمیمہ ص ۵/نظم الدرر، ص ۱۹۶

[۸۲]۔ علامہ سید عمر شطا کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المسکین، جلد اول، ص ۵۶۲/سیر و تراجم، حاشیہ ص ۸۰/مختصر نشر النور، ص ۳۷۷ تا ۳۷۸/نظم الدرر، ص ۱۹۵ تا ۱۹۶

[۸۳]۔ علامہ سید عیدروس حیدر آبادی کے حالات کے لئے دیکھئے: ضیائے حرم، شمارہ دسمبر ۱۹۷۷ء، ص ۸۳ تا ۸۶، بقلم نواب مشتاق احمد خاں

[۸۴]۔ علامہ سید عیدروس البارکی کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المسکین، جلد اول، ص ۲۵۵/اہل الحجاز، ص ۲۶۷/بلوغ الامانی، ص ۵۷/تشیف الاسماع، ص ۲۳۳ تا ۲۳۴/الدلیل المشرع، ص ۳۳۰ تا ۳۳۷/سیر و تراجم، ص ۲۱۸ تا ۲۲۰/نثر الدرر، ص ۴۲

[۸۵]۔ شیخ محفوظ ترسی کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المسکین، جلد اول، ص ۳۲۰ تا ۳۲۱/الاعلام، جلد ۷، ص ۱۹/اہل الحجاز، ص ۳۲۲ تا ۳۲۴/بلوغ الامانی، ص ۱۷۳/سیر و تراجم، ص ۲۸۶ تا ۲۸۷/فہرس الفہارس، جلد اول، ص ۵۰۳ تا ۵۰۴/نثر الدرر، ص ۶۵

[۸۶]۔ علامہ سید محمد بن جعفر کتانی کے حالات پر ان کے فرزند نے ضخیم کتاب تصنیف کی جس کا ذکر حاشیہ نمبر ۴ میں گزر چکا ہے، نیز دیکھیں: الاعلام، جلد ۶، ص ۷۲ تا ۷۳/تاریخ علماء دمشق، جلد اول، ص ۲۱۳ تا ۲۱۶/فہرس الفہارس، جلد اول، ص ۵۱۵ تا ۵۱۸/سہ ماہی مجلہ الدراسات الاسلامیہ، شمارہ جولائی ستمبر ۲۰۰۰ء، بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد (پاکستان)، ص ۲۵۶ تا ۲۵۷

[۸۷]۔ شیخ محمد حیات عباسی کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المسکین، جلد اول، ص ۴۰۰/مختصر نشر النور، ص ۴۲۵ تا ۴۲۶/نظم الدرر، ص ۲۰۹ تا ۲۱۰

[۸۸]۔ علامہ سید محمد زمزی کتانی کے حالات کے لئے دیکھئے: الاعلام، جلد ۶، ص ۱۳۱/تاریخ علماء دمشق، جلد ۲، ص ۶۳۷ تا ۶۳۸

[۸۹]۔ علامہ سید محمد بن سالم کے حالات کے لئے دیکھئے: الدلیل المشر، ص ۳۲۰

۳۳۳ تا

[۹۰]۔ مولانا محمد عبدالباقی لکھنوی کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام من ارض النبوة،

جلد اول، طبع اول ۱۳۱۳ھ/۱۹۹۳ء مطابع دارالبلاد جدہ، ص ۱۹۸ تا ۲۰۳/الدلیل المشر، ص ۱۱۸ تا ۱۳۷/فہرس الفہارس، جلد اول، ص ۱۸۱ تا ۱۸۲/نزہۃ الخواطر، ص ۱۲۶۰/تذکرہ علماء اہل سنت،

ص ۱۷۲

[۹۱]۔ علامہ سید محمد عبدالحی کتانی کے حالات کے لئے دیکھئے: الاعلام، جلد ۶،

ص ۱۸۷/تہذیب الاسماع، ص ۲۷۸ تا ۲۸۴/الدلیل المشر، ص ۱۳۸ تا ۱۷۵/فہرس الفہارس،

جلد اول، ص ۴۳ تا ۴۵/تذکرہ خلفائے اعلیٰ حضرت، محمد صادق قسوری و پروفیسر مجید اللہ قادری، طبع

اول، ۱۳۱۳ھ/۱۹۹۲ء، ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی، ص ۱۰۲ تا ۱۱۱

[۹۲]۔ شاہ ابوالحسن زید فاروقی دہلوی کے حالات کے لئے دیکھئے: اتمام الاعلام،

ص ۱۰۳/تذکرہ حضرت محدث دکن، ڈاکٹر محمد عبدالستار خان نقشبندی قادری، طبع اول ۱۳۱۹/

۱۹۹۸ء، الممتاز پبلی کیشنز لاہور، ص ۶۲۸ تا ۶۳۳/ماہنامہ ضیائے حرم لاہور، شمارہ فروری ۱۹۹۴ء،

ص ۸۹۵ تا ۸۹۷، بقلم محمد صادق قسوری

[۹۳]۔ شیخ محمد عبداللہ بافیل کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المکین، جلد اول،

ص ۲۶۴/سیرت تراجم، ص ۲۶۶ تا ۲۶۷

[۹۴]۔ شیخ محمد علی بلخیور کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المکین، جلد اول، ص ۲۷۱/

سیرت تراجم، ص ۲۳۹ تا ۲۵۱

[۹۵]۔ شیخ محمد علی مالکی کے حالات و اسانید پران کے شاگرد شیخ یاسین قادانی مکی نے

کتاب ”المسلك الحلی فی اسانید فضیلة الشیخ محمد علی“ لکھی جو مصر سے شائع ہوئی، نیز دیکھیں:

معارف رضا کراچی، شمارہ جنوری ۲۰۰۲ء، ص ۱۲ تا ۱۵ و ملحقہ شمارے

[۹۶]- شیخ محمد بافضل کے حالات کے لئے دیکھئے: بلوغ الامانی، ص ۱۰۶/ الدلیل

المشیر، ص ۳۶۷ تا ۳۶۸

[۹۷]- شیخ محمد کامل سندھی کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المکملین، جلد اول،

ص ۵۳۸/ سیر و تراجم، ص ۲۳۶ تا ۲۳۸

[۹۸]- علامہ سید محمد عطاس کے حالات کے لئے دیکھئے: تشذیب الاسماع، ص ۳۹۶

۲۹۷ تا

[۹۹]- شیخ محمد مختار بن عطار د کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المکملین، جلد اول،

ص ۲۷۳ تا ۲۷۴/ بلوغ الامانی، ص ۴۰/ تشذیب الاسماع، ص ۵۳۲ تا ۵۳۳/ سیر و تراجم، ص ۲۳۵/

نثر الدرر، ص ۵۷

[۱۰۰]- شیخ نور خالدي کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المکملین، جلد اول، ص ۴۰۱

ص ۴۰۲/ مختصر نثر النور، ص ۵۰۵/ نظم الدرر، ص ۲۱۳ تا ۲۱۴

[۱۰۱]- علامہ سید ہاشم شطا کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام المکملین، جلد اول،

ص ۵۶۵/ بلوغ الامانی، ص ۲۵/ تشذیب الاسماع، ص ۵۶۵ تا ۵۶۶

[۱۰۲]- علامہ سید ہاشمی مراکشی کے حالات کے لئے دیکھئے: اسعاف الاخوان

الراغبین بتراجم ثلثة من علماء المغرب المعاصرین، شیخ محمد بن فاطمی سلمی ابن حاج، طبع اول ۱۳۲۱ھ،

مطبع دار النجیح الجدیدة دار البیضاء مراکش، ص ۳۹۶ تا ۳۹۹/ ذیل الفہرس العلمی، شیخ رشید

مصلوت، طبع اول ۱۴۰۷ھ، مطبع دار النجیح مراکش، ص ۲۳۰ تا ۲۳۱

[۱۰۳]- الطباعة فی شبه الجزيرة العربية فی القرن التاسع عشر الميلادی، ڈاکٹر یحییٰ محمود

ساعاتی مکی، طبع اول ۱۳۱۹ھ/ ۱۹۹۸ء، دار اجاریاض، ص ۲۳/ الطباعة فی المملكة العربية السعودية

۱۳۰۰ھ- ۱۳۱۹ھ، ڈاکٹر عباس بن صالح تاشقندی، طبع اول ۱۳۱۹ھ/ ۱۹۹۹ء، مکتبہ شاہ فہد ریاض،

ص ۱۸/ فہرس دار الکتب المصریہ، جلد اول، طبع ۱۳۲۲ھ/ ۱۹۲۳ء مطبع دار الکتب المصریہ قاہرہ،

ص ۲۶۶، ضمیمہ ص ۳۷ / اعلام لمکینین، جلد اول، ص ۲۳۹ / الاعلام، جلد ۶، ص ۱۳۵

[۱۰۴] - اعلام لمکینین، جلد اول، ص ۲۳۹ / الاعلام، جلد ۶، ص ۱۳۵

[۱۰۵] - مختصر نشر النور، صفحات ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱

[۱۰۶] - فہرس دارالکتب المصریہ، جلد اول، ص ۳۰۴

[۱۰۷] - الطباعة في شبه الجزيرة العربية، ص ۲۴

[۱۰۸] - علامہ محمد بشیر سہوانی غیر مقلد کے حالات کے لئے دیکھئے: نزہتہ الخواطر،

ص ۱۳۵۲

[۱۰۹] - نواب صدیق حسن خاں بھوپالی غیر مقلد کے حالات کے لئے دیکھئے: نزہتہ

الخواطر، ص ۱۲۳۶ تا ۱۲۵۰

[۱۱۰] - صيانة الانسان عن وسوسة الشیخ دحلان، علامہ محمد بشیر سہوانی، طبع پنجم ۱۳۹۵ھ /

۱۹۷۵ء، مطابع نجد ریاض، ص ۲۰

[۱۱۱] - الطباعة في شبه الجزيرة العربية، ص ۲۶

[۱۱۲] - بواکیر الطباعة والمطبوعات في بلاد الحرمين الشريفین، ڈاکٹر احمد محمد ضیب، طبع

۱۳۰۸ھ / ۱۹۸۷ء، مکتبہ شاہ فہد ریاض، ص ۱۳

[۱۱۳] - شیخ حسنین مخلوف کے حالات کے لئے دیکھئے: ذیل الاعلام، احمد علاونہ

اردنی، جلد اول، طبع ۱۳۱۸ھ / ۱۹۹۸ء، دار المنارة جدہ، ص ۷۱ / اتمام الاعلام، ص ۷۹ / تمتہ

الاعلام، جلد اول، ص ۱۴۱ تا ۱۴۲

[۱۱۴] - الشجرة الزكية في الانساب وسیر آل بیت النبوة، بریگیڈیر یوسف جمل اللیل

مکی، طبع اول، ۱۴۱۴ھ، دار الحارثی طائف، ص ۵۰۳

[۱۱۵] - ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ، ثروت صولت، طبع پنجم ۱۹۹۲ء اسلامک پبلی کیشنز

لاہور، جلد دوم، صفحات ۴۶۰، ۴۶۱

[۱۱۶]۔ ایضاً، ص ۴۵۵

[۱۱۷]۔ ایضاً، صفحات ۴۷۱، ۵۴۱

[۱۱۸]۔ الاعلام، جلد ۷، ص ۱۴۲

[۱۱۹]۔ الاعلام، جلد ۸، ص ۱۷۰، ۱۷۱

[۱۲۰]۔ گورنر علی پاشا کے حالات کے لئے دیکھئے: الاعلام، جلد ۴، ص ۳۰۹ / تاریخ

مکہ، ص ۵۵۷

[۱۲۱]۔ سیر و تراجم، ص ۱۴۹ / مختصر نشر النور، ص ۳۰۴ تا ۳۰۵، ۳۲۹ تا ۳۳۰ / نظم الدرر،

ص ۱۹۸ تا ۱۹۹

[۱۲۲]۔ شیخ عبداللہ بن عباس کے حالات کے لئے دیکھئے: المملفوظ، مولانا احمد رضا

خاں بریلوی، مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی، جلد ۲، ص ۱۳۷ تا ۱۳۸ / اعلام للمکین، جلد اول، ص ۷۷ /

سیر و تراجم، ص ۱۴۳ / مختصر نشر النور، ص ۳۰۴ تا ۳۰۵ / نظم الدرر، ص ۱۹۸ تا ۱۹۹

[۱۲۳]۔ شیخ محمد صالح کمال کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام للمکین، جلد ۲،

ص ۸۰۷ تا ۸۰۸ / تاریخ مکہ، ص ۵۸۵ / تذکرہ خلفائے اعلیٰ حضرت، ص ۹۲ تا ۱۰۱ / معارف رضا

کراچی، شمارہ ۱۹۹۹ء، ص ۱۹۵ تا ۱۹۶ / شمارہ اکتوبر ۲۰۰۰ء، ص ۱۷، ۱۹

[۱۲۴]۔ شیخ جعفر لبنی کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام للمکین، جلد ۲، ص ۸۲۰ تا ۸۲۱ /

اہل الحجاز، ص ۲۷۳ / الاعلام، جلد ۲، ص ۱۲۲ / سیر و تراجم، ص ۸۶ تا ۸۹ / مختصر نشر النور، ص ۱۵۷

۱۵۸ تا / نظم الدرر، ص ۱۷۱

[۱۲۵]۔ شیخ محمد خیاط کے حالات کے لئے دیکھئے: اعلام للمکین، جلد اول، ص ۴۱۷ /

معارف رضا، شمارہ نومبر ۲۰۰۰ء، صفحات ۱۵، ۱۸

[۱۲۶]۔ سیر و تراجم، ص ۱۴۹ تا ۱۵۱

[۱۲۷]۔ گورنر سید حسین بن علی کے حالات کے لئے دیکھئے: الاعلام، جلد ۲، ص ۳۴۹

تا ۲۵۰ / تاریخ مکہ، ص ۵۶۱ وغیرہ

[۱۲۸]۔ سیر و تراجم، ص ۱۵۰

[۱۲۹]۔ الاعلام، جلد ۸، ص ۱۷۱ / تاریخ مکہ، ص ۵۵۹ / ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ،

جلد ۲، صفحات ۲۵۶، ۲۵۸

[۱۳۰]۔ سیر و تراجم، ص ۲۲۲

[۱۳۱]۔ مولانا غلام دستگیر قصوری کے حالات کے لئے دیکھئے: تذکرہ اکابر اہل سنت

پاکستان، مولانا عبدالحکیم شرف قادری، طبع دوم ۲۰۰۰ء، فرید بک سٹال لاہور، ۳۰۸ تا ۳۱۰ / تذکرہ

علماء اہل سنت و جماعت لاہور، پیرزادہ علامہ اقبال احمد فاروقی، طبع دوم ۱۹۸۷ء، مکتبہ نبویہ لاہور،

ص ۲۰۰ تا ۲۱۷ / تذکرہ علمائے پنجاب ۱۲۰۱ھ - ۱۲۰۰ھ، اختر راہی، طبع دوم ۱۹۹۸ء، مکتبہ رحمانیہ

لاہور، جلد دوم، ص ۲۳۵ تا ۲۳۸ / تقدیس الوکیل عن توہین الرشید والخلیل، مولانا غلام دستگیر

قصوری، نوری بک ڈپولاہور، مقدمہ بقلم پیرزادہ علامہ اقبال احمد فاروقی / تذکرہ علماء اہل سنت،

محمود احمد قادری، ص ۲۰۵ تا ۲۰۶

[۱۳۲]۔ رسائل رضویہ، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، طبع دوم ۱۹۸۸ء، مکتبہ حامد یہ

لاہور، جلد اول، صفحات ۲، ۹، ۱۰، ۱۳ مقدمہ

[۱۳۳]۔ نزہتہ الخواطر، ص ۱۱۷۵ تا ۱۱۷۸

[۱۳۴]۔ ایضاً، ص ۱۲۲۱ تا ۱۲۲۲

[۱۳۵]۔ رسائل رضویہ، مقدمہ / نزہتہ الخواطر، جلد ۸ مختلف صفحات

[۱۳۶]۔ نزہتہ الخواطر، ص ۱۱۸۱

[۱۳۷]۔ رسائل رضویہ، جلد اول، ص ۵۲ تا ۵۷

[۱۳۸]۔ دیگر تین اکابر علماء مکہ کے اسماء گرامی یہ ہیں: شیخ عبداللہ بن عباس بن صدیق

حنفی، شیخ محمد صالح کمال حنفی اور شیخ الخطباء والائمہ شیخ احمد ابوالخیر مرداد حنفی (م ۱۳۳۵ھ / ۱۹۱۶ء)،

آخر الذکر کے حالات معارف رضا شمارہ اپریل ۲۰۰۰ء اور ملحقہ شماروں میں شائع ہوئے۔

[۱۳۹]۔ المملووظ، جلد ۲، ص ۱۳۵ تا ۱۳۶

[۱۴۰]۔ تذکرہ خلفائے اعلیٰ حضرت، ص ۸۵ تا ۸۷

[۱۴۱]۔ حسام الحرمین علی منخر الکفر والمین، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، طبع ۱۳۹۵ھ/

۱۹۷۵ء، مکتبہ نبویہ لاہور/ الدولۃ المملکیۃ بالمادۃ الغیبیۃ، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، طبع اول تذیر

اینڈ سنز لاہور

[۱۴۲]۔ اعلام المملکین، جلد اول، ص ۲۵۰/ سیر و تراجم، ص ۲۳۳/ نثر الدرر، ص ۵۶

[۱۴۳]۔ اعلام المملکین، جلد اول، ص ۲۳۹/ سیر و تراجم، ص ۱۴۹ تا ۱۵۱

[۱۴۴]۔ اعلام المملکین، جلد اول، ص ۲۳۸/ بلوغ الامانی، ص ۶۶/ سیر و تراجم، ص ۸۴

[۱۴۵]۔ الدلیل المشیر، ص ۱۹۳

[۱۴۶]۔ الاثنیثیۃ، جلد ۹، طبع اول ۱۴۱۶ھ/ ۱۹۹۶ء، ناشر، عبدالمقصود خوجہ جدہ،

صفحات، ۴۹، ۵۱، ۵۶، ۶۳

[۱۴۷]۔ نثر الدرر، ضمیمہ ص ۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

چھٹا حصہ

فاضل بریلوی اور علماء کمال مکہ مکرمہ

تیرھویں و چودھویں صدی ہجری کے دوران مکہ مکرمہ میں آباد جو خاندان دینی علوم میں فضیلت کے باعث مشہور ہوئے ان میں ”کمال“ نامی خاندان بھی شامل ہے، جس نے اسلامی عقائد و تعلیمات کے تحفظ و فروغ میں نمایاں خدمات انجام دیں اور خطہ ہند کے اکابر علماء کرام مولانا محمد عابد سندھی مہاجر مدنی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی مہاجر مکی، مولانا غلام دستگیر قصوری نقشبندی اور مولانا احمد رضا خاں قادری بریلوی کے ساتھ اس خاندان سے تعلق رکھنے والے علماء کے علمی روابط استوار ہوئے، آئندہ سطور میں اس مکی خاندان کے تین اہم علماء شیخ صدیق کمال اور ان کے فرزند شیخ علی کمال و شیخ صالح رحمہم اللہ تعالیٰ کے حالات پیش ہیں۔

(۱) شیخ صدیق بن عبدالرحمن کمال رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۸۴ھ)

ولادت

آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، کسی تذکرہ نگار نے آپ کا سال ولادت نہیں بتایا لیکن یہ طے ہے کہ آپ نے تقریباً اسی برس عمر پائی لہذا اسی بنا پر اندازہ ہے کہ آپ کی ولادت ۱۲۰۵ھ کے قریب ہوئی۔

اساتذہ و تعلیم

آپ نے جن اکابر علماء و مشائخ سے ظاہری و باطنی علوم اخذ کئے ان میں سے اہم کے

نام یہ ہیں:

☆ شیخ احمد ابوریثہ الشہمی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۷۸ھ/۱۸۶۲ء)، طنطا مصر کے قریب

گاؤں البشوائی کے باشندہ، صوفیاء کے سلسلہ احمدیہ کے مرشد کامل، صاحب کرامات، حج و زیارت کے لئے حجاز مقدس حاضر ہوئے تو شیخ صدیق کمال وغیرہ علماء مکہ نے آپ سے خلافت پائی، آپ نے حج کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور قبرستان المعلیٰ میں قبر بنی۔ [۱]

☆ شیخ حمزہ عاشور رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۳۷ھ / ۱۸۳۲ء) مسجد حرم مکی میں بخاری و مسلم

وغیرہ کتب احادیث نیز اہم کتب تصوف کے مدرس، اپنے دور کے مشہور محدث و صوفی کامل۔ [۲]

☆ شیخ سید زینی مزہر علوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ناخواندہ لیکن مکہ مکرمہ میں سلسلہ احمدیہ

خلوتیہ کے مرشد کبیر و مفسر قرآن شیخ احمد صاوی مالکی مصری مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اعظم تھے،

آپ کے ہاں حلقہ ذکر منعقد ہوتا جس میں شیخ صدیق کمال وغیرہ اکابر علماء مکہ مکرمہ حاضر ہو کر آپ

سے فیض یاب اور دعا کے طلبگار ہوتے، مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ [۳]

☆ شیخ عبدالرحمن جمال کبیر بن عثمان جمال رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۴۹ھ / ۱۸۳۳ء) مسجد

حرم میں امام و مدرس، حافظ قرآن و قاری، عقلی و نقلی علوم کے ماہر، جدہ شہر کے قاضی۔ [۴]

☆ شیخ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن کزبری شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۶۲ھ /

۱۸۴۶ء)، محدث اعظم و برکتہ الشام، سلسلہ قادریہ کے شیخ، دمشق کی سب سے بڑی و قدیم مسجد

جامع اموی میں تقریباً پچاس برس حلقہ درس قائم کیا، متعدد بار حج و زیارت کے لئے حجاز مقدس

حاضر ہوئے، آخری سفر حجاز کے دوران آپ سے وہاں کے متعدد علماء نے اخذ کیا، مکہ مکرمہ میں

وفات پائی، ثبت الکزبری آپ کی مشہور تصنیف ہے جس کے قلمی نسخے مکتبہ حرم مکی و قومی کتب خانہ

قاہرہ و ریاض یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ ہیں۔ [۵]

☆ شیخ عبداللہ بن عبدالرحمن سراج حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۶۳ھ / ۱۸۴۸ء)، شیخ

العلماء مکہ مکرمہ کے اعلیٰ ترین منصب پر تعینات کئے گئے اولین عالم، قاضی جدہ و مکہ مکرمہ، مرجع

الفقہاء و الحکام، نظم و نشر میں متعدد تصنیفات ہیں، مدرس مسجد حرم مکی، مولانا فضل رسول بدایونی رحمۃ

اللہ علیہ حجاز مقدس حاضر ہوئے تو آپ سے سند روایت حاصل کی۔ [۶]

☆ شیخ عمر بن عبدالکریم بن عبدالرسول رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۴۷ھ / ۱۸۳۱ء)، محدث، مسند، خاتمہ المحققین، صاحب تصانیف و کرامات، سلسلہ خلوتیہ کے مرشد، محبت اہل بیت میں مشہور، مفتی احناف و مدرس مسجد حرم مکی۔ [۷]

☆ شیخ محمد بن علی ادریسی مالکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۷۶ھ / ۱۸۵۹ء)، الجزائر کے مقام مستغانم میں پیدا ہوئے اور لیبیا کے مقام بغبوب میں مزار واقع ہے، محدث، مسند، سلسلہ سنوسیہ کے بانی، طویل عرصہ تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے جہاں جبل ابوقبیس پر خانقاہ قائم کر کے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا، تقریباً چالیس کتب کے مصنف۔ [۸]

☆ شیخ محمد صالح بن ابراہیم ریس زبیری رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۴۰ھ / ۱۸۲۵ء)، محدث مفسر فقیہ شافعی صوفی کامل صاحب تصانیف عدیدہ، کرامات اولیاء پر ضخیم تصنیف، متعدد مولود نامے تخلیق کئے، مدرس مسجد حرم مکی۔ [۹]

☆ مولانا محمد عابد سندھی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۵۷ھ / ۱۸۴۱ء) صوبہ سندھ کے مشہور شیر سیہون میں پیدا ہوئے، عرب و عجم کے اکابر علماء سے اخذ کیا، خانقاہ لواری شریف (سندھ) کے خواجہ محمد زمان دوم رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کی، طویل عرصہ یمن میں مقیم رہے پھر مصر کا سفر کیا بالآخر مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی جہاں رئیس العلماء کے منصب پر تعینات رہے، وہیں پر وفات پائی، محدث، مسند، فقیہ حنفی، صوفی، عربی میں گراں قدر تصنیفات ہیں، درمختار کے محشی و صاحب حصر الشارد، شیخ صدیق کمال نے آپ سے سند روایت حاصل کی۔ [۱۰]

☆ شیخ سید محمد یاسین بن عبداللہ محبوب حسنی میر غنی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۲۵۵ھ / ۱۸۳۹ء)، فقیہ حنفی، نسک ملتقی الابحر کے شارح، صوفیاء کے سلسلہ میر غنیۃ آپ کے والد گرامی سے منسوب ہے، مسجد حرم مکی میں حدیث وغیرہ علوم کے مدرس، شیخ صدیق کمال نے آپ سے فقہ و فرائض وغیرہ علوم اخذ کر کے ان میں کمال پایا۔ [۱۱]

عملی زندگی

شیخ صدیق کمال نے مروجہ تعلیمی نصاب مکمل اور امتحان میں کامیابی حاصل کر لی تو پھر مسجد حرم میں مدرس تعینات ہوئے اور تمام عمر وہیں پر علم کی خدمت کرتے رہے، آپ عقلی و نقلی علوم اسلامیہ کے عظیم ماہر تھے۔

تلامذہ

آپ کے شاگردوں میں سے متعدد نے علم و فضل میں اعلیٰ مقام پایا جن میں سے اہم نام یہ ہیں:

☆ شیخ ابراہیم بن احمد بن موسیٰ عقیلی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲ء) مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور طائف میں وفات پائی، دو برس مدینہ منورہ میں مقیم رہ کر وہاں سے اکابر علماء بالخصوص شاہ عبدالغنی مجددی دہلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث وغیرہ علوم اخذ کئے، شیخ سید ابراہیم رشیدی مصری شافعی اور یسی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید، ماہر خطاط، مطوف، مدرس مسجد حرم مکی۔ [۱۲]

☆ شیخ جمال بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۸۴ھ/۱۸۶۸ء)، محدث مفسر، فقیہ العصر، مرجع الفقہاء، صاحب فتاویٰ جمالیہ، شیخ الاسلام کے لقب سے مشہور ہوئے، شیخ العلماء و مفتی احناف، مسجد حرم مکی میں علم تفسیر کے مدرس، آپ نے شیخ صدیق کمال سے ابتدائی علوم پڑھے، مولانا عبدالقادر بدایونی کے استاد۔ [۱۳]

☆ شیخ عباس بن جعفر بن صدیق رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۲۰ھ/۱۹۰۲ء)، مفسر، حافظ قرآن، مفتی احناف، امام و مدرس مسجد حرم مکی، آپ نے شیخ صدیق کمال سے فقہی علوم پڑھے، صاحب نشر النور نے آپ سے علم حدیث پڑھا۔ [۱۴]

☆ شیخ عبدالقادر بن محمد علی خوقیر حنفی رحمۃ اللہ علیہ (۱۳۰۴ھ/۱۸۸۷ء)، حافظ

قرآن، نادرۃ العصر و العجوبۃ الدھر، امام و مدرس حرم مکی۔ [۱۵]

☆ شیخ سید محمد علی بن ظاہر و تری نجفی حسنی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۲۲ھ / ۱۹۰۳ء)، مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، وہیں وفات پائی، محدث، مسند، فقیہ حنفی، سیاح، صوفی کامل، شاہ عبدالغنی مجددی دہلوی مدنی کے مرید و شاگرد خاص، مسجد نبوی میں علم حدیث کے مدرس، مولانا غلام دستگیر قصوری کی تصنیف ”تقدیس الوکیل“ کے مقرر۔ [۱۶]

اعتراف عظمت

شیخ صدیق کمال کی حیات مبارکہ میں اور آپ کے وصال کے بعد مکہ مکرمہ کے اہل علم نے اپنی تحریروں میں آپ کی عظمت کا اعتراف کیا اور آپ کے محاسن کو بیان کیا:

☆ شیخ سید حسن بن حسین حسینی رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور ادیب و شاعر تھے انہوں نے ۱۲۷۶ھ یعنی شیخ صدیق کمال کی زندگی میں بارہ اشعار پر مشتمل آپ کا قصیدہ موزوں کیا اور اس کے آخری شعر میں آپ کے نام کو اس خوبصورتی سے سمودیا کہ اس شعر سے مذکورہ سن ہجری برآمد ہوا، شعریہ ہے:

أَدَّخَتْهُ أَيْدِي الْكَمَالِ بِفَتْحِ

وَكَسَاهُ وَقَارَهُ الصِّدِّيقِ

ایدی۔ ۲۵، الکمال۔ ۱۲۲، بفتح۔ ۲۹۰، وکساہ۔ ۹۲، وقرہ۔ ۳۱۲،

الصدیق۔ ۲۳۵ = ۱۲۷۶ھ [۱۷]

☆ شیخ سید احمد بن محمد حضراوی مکی شافعی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جو عالم جلیل مورخ حجاز ادیب و شاعر نیز مولانا احمد رجا خاں بریلوی کے خلیفہ و صاحب تصانیف کثیرہ تھے، انہوں نے شیخ صدیق کمال کے شب و روز بچشم خود ملاحظہ کرنے کے بعد آپ کا تعارف حسب ذیل الفاظ میں کرایا:

”العالم الفاضل والعلم الكامل، محدث منير، وفقه الى
طريق الحق يشير، المدرس بالحرم الشريف المكي، كان
رحمه الله رجلاً فاضلاً..... له تلامذة وخلان، واحوال مع الله
في السرو الاعلان“ [۱۸]

☆ شیخ عبداللہ بن احمد ابوالخیر مرداد حنفی شہید رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ مکرمہ شہر کے جسٹس
و مسجد حرم میں شیخ الخطباء والائمہ نیز مدرس اور فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے، آپ نے شیخ صدیق کمال
کے اوصاف کا یوں ذکر کیا:

”کان اماماً محدثاً مفسراً فرحياً..... کریم الطبع حسن
الاخلاق لطیف المذاکرۃ يحفظ النوادر واللطائف، شديد الغيرة
في الدين ملازماً للعبادات“ [۱۹]

وفات

استاذ العلماء عارف باللہ شیخ صدیق کمال حنفی نے زندگی کے جملہ اوقات حدیث، فقہ
وفرائض وغیرہ علوم کی درس و تدریس اور عبادت کے علاوہ علماء و مشائخ کی مجالس سے استفادہ
میں گزارنے کے بعد جمعہ کے دن عصر کے بعد ۴ رجب ۱۲۸۴ھ مطابق ۱۸۶۷ء کو مکہ مکرمہ میں
وفات پائی اور اگلے روز خانہ کعبہ کے سائے میں مفتی شافیعہ علامہ سید احمد بن زینی دحلان رحمۃ اللہ
علیہ کی امامت میں نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں اکابرین کا عظیم اجتماع دیکھنے میں آیا، پھر تاریخی
قبرستان المعالیٰ میں شیخ عبدالوہاب بن ولی اللہ چشتی برہانپوری مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ [۲۰] کے
احاطہ مزار میں آپ کی قبر بنی، آپ نے دو ہونہار فرزند شیخ علی کمال و شیخ صالح کمال یادگار
چھوڑے۔ [۲۱]

سیر و تراجم میں آپ کا سن وصال ۱۳۸۴ھ لکھا ہے [۲۲] جو یقیناً کاتب کی غلطی ہے

لیکن صاحبِ اعلام لکھنوی نے مذکورہ سال ہی کو درست تسلیم کرتے ہوئے [۲۳] آپ کی عمر میں پوری ایک صدی کا اضافہ کر دیا۔

(۲) شیخ علی بن صدیق کمال رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۵ھ)

ولادت و نام

آپ کی ولادت ۱۲۵۳ھ / ۱۸۳۷ء یا ۱۲۵۴ھ میں مکہ مکرمہ میں ہوئی، آپ کا پورا نام محمد علی کمال ہے [۲۳] لیکن علی کمال کے نام سے شہرت پائی۔

اساتذہ و تعلیم

ابتدائی تعلیم نیز فقہی علوم اپنے والد گرامی سے پڑھے علاوہ ازیں علماء مکہ مکرمہ اور وہاں پر وارد بعض علماء ہند نیز مدینہ منورہ میں علماء سے اخذ کیا، آپ کے اہم اساتذہ کے اسماء گرامی یہ ہیں:

☆ شیخ سید احمد بن زینی دحلان مکی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۰۴ھ / ۱۸۸۶ء)، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ میں وفات پائی، عز الاسلام و المسلمین، سلسلہ علویہ کے مرشد کبیر، کچھ عرصہ مجذوب رہے، صاحب تصانیف کثیرہ، آپ کی شرح علی الآجرومیہ مدرسہ صولتیہ وغیرہ حجازی مدارس کے نصاب میں داخل رہی، مفتی شافعیہ و شیخ العلماء، مسجد حرم مکی میں حدیث، تفسیر، فقہ و تصوف وغیرہ علوم کے مدرس، خطہ ہند سے حجاز مقدس حاضر ہونے والے لاتعداد مشاہیر علماء نے آپ سے سند روایت و اجازت حاصل کی، شیخ علی کمال کئی برس تک آپ کے حلقہ درس سے وابستہ رہے، جس دوران آپ سے جملہ اسلامی علوم اخذ کئے۔ [۲۵]

☆ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۰۸ھ / ۱۸۹۱ء) دہلی کے قریب گاؤں کیرانہ میں پیدا ہوئے پھر مکہ مکرمہ ہجرت کی اور وہیں پر وفات پائی، تحریک آزادی ہند کے رہنما، مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ کے بانی، استاذ العلماء، صاحب تصانیف مفیدہ، عیسائیت، شیعیت اور وہابیت کی تردید میں فعال رہے، عثمانی خلیفہ سلطان عبدالعزیز خان مرحوم آپ کے قدردان

تھے۔ [۲۶]

☆ شیخ یاسین شامی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی کمال روضہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو وہاں شیخ شامی سے اخذ کیا۔ [۲۷]

عملی زندگی

شیخ علی کمال نے تعلیم مکمل کر لی تو مسجد حرم مکی میں مدرس تعینات ہوئے اور پھر عمر بھر یہی شغل اپنائے رکھا، آپ متعدد علوم و فنون کے ماہر تھے لہذا بکثرت طلباء نے آپ سے نفع پایا، آپ چند برس جدہ شہر کی شرعی عدالت کے نائب قاضی رہے، آپ فتاویٰ کے اجراء اور عفت و عصمت میں مشہور، قناعت پسند، غفودرگزر سے کام لینے والے، متواضع، غرباء سے میل جول رکھنے اور محبت کرنے والے، باہم تنازعات کو خوش اسلوبی سے حل کرنے والے و دیگر اوصاف سے متصف تھے، آپ مکہ مکرمہ کے اجلہ علماء میں سے تھے۔

تلامذہ

شیخ علی کمال کے مشہور شاگردوں میں سے دو کے نام معلوم ہو سکے جو یہ ہیں:

☆ شیخ سید حسین بن صدیق بن زینی دحلان شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۴۰ھ / ۱۹۲۲ء)

مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور انڈونیشیا میں وفات پائی، مبلغ اسلام، ادیب و شاعر، علامہ سید احمد دحلان کے بھتیجے، علامہ سید ابو بکر شطاکلی شافعی کے بھانجے، مدرس مسجد حرم مکی و نماز تراویح کے امام، فاضل بریلوی کے خلیفہ۔ [۲۸]

☆ شیخ محمد مرزوقی ابو حسین بن عبدالرحمن حسینی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۵ھ / ۱۹۲۶ء)،

فقیہ حنفی، عثمانی عہد کے مکہ مکرمہ میں عدالت کے رکن حج اور سعودی عہد میں صدر حج رہے، متعدد اہم اداروں و تنظیمات کے رکن، مدرس مسجد حرم و نماز تراویح کے امام، فاضل بریلوی کے خلیفہ اور آپ کی دو تصنیفات کے مقرر۔ [۲۹]

فاضل بریلوی سے رابطہ

مولانا احمد رضا خاں بریلوی قادری رحمۃ اللہ علیہ (۱۲۷۲ھ - ۱۳۳۰ھ / ۱۸۵۶ء - ۱۹۲۱ء) اور شیخ صدیق کمال کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لئے کہ فاضل بریلوی ۱۲۹۵ھ / ۱۸۷۸ء میں ہندوستان سے پہلی بار حجاز مقدس حاضر ہوئے تو شیخ صدیق کمال کی وفات پر گیارہ برس بیت چکے تھے لیکن ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۵ء میں فاضل بریلوی دوسری و آخری بار حجاز مقدس پہنچے تو شیخ صدیق کمال کے فرزند ان کا علمی عروج تھا اور وہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے، چنانچہ شیخ علی کمال اور فاضل بریلوی کے درمیان ملاقات ہوئی اور پھر شیخ علی کمال نے آپ کی دو تصنیفات حسام الحرمین والدولۃ المکیہ پر تقریظات لکھیں جو مطبوع ہیں، اول الذکر کتاب میں تقریظ کے آغاز میں آپ کا تعارف ان الفاظ میں دیا گیا ہے:

”العلامة المحقق والفهامة المدقق مشرق سناء الفہوم

مشرق ذکاء العلوم ذوالعلوم والافضال مولنا الشیخ علی بن

صدیق کمال ادامہ اللہ بالعز والجمال“۔ [۳۰]

اور شیخ علی کمال جو عمر میں فاضل بریلوی سے تقریباً اٹھارہ برس بڑے تھے انہوں نے

تقریظ میں آپ کا ذکر ان الفاظ میں کیا:

”الشیخ الکبیر والعلیم الشہیر مولنا وقدوتنا احمد رضا خان

البریلوی سلمہ اللہ واعانہ علی اعداء الدین المارقین بحرمة

سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم“۔ [۳۱]

وفات

شیخ علی بن صدیق کمال نے علم و عمل سے بھرپور زندگی گزاری اور بیت اللہ کے حوار میں نیز اس شہر مقدس کے دیگر مقامات پر علم کی خدمت کے ذریعے امت محمدیہ کی بھرپور رہنمائی کی

نیز عدالت سے ابستگی کے دوران اور نجی اوقات میں عدل و انصاف کے عمل کو تقویت پہنچائی،
تا آنکہ ۱۳۳۵ھ/۱۹۱۷ء میں مکہ مکرمہ میں وفات پائی، قبرستان المعلىٰ میں قبر واقع ہے۔ [۳۲]

(۳)

شیخ صالح بن صدیق کمال رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۲ھ)

ولادت و نام

آپ ماہ ربیع الاول ۱۲۶۳ھ/۱۸۴۷ء کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور مکمل نام محمد صالح
کمال ہے [۳۳] جبکہ صالح کمال کے نام سے شہرت پائی۔

اساتذہ و تعلیم

اپنے والد ماجد سے ابتدائی تعلیم پائی نیز ان کی نگرانی میں متعدد کتب کے متون حفظ کئے
اور فقہ پڑھی، قرآن مجید حفظ کیا نیز تجوید سیکھی اور مسجد حرم میں نماز تراویح کے امام ہوئے جس کے
ساتھ مزید حصول علم کا سلسلہ جاری رکھا، آپ کے دیگر اساتذہ کے اسماء گرامی یہ ہیں:

☆ شیخ سید احمد بن زینی دحلان مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے تفسیر، حدیث، لغت کے علوم
پڑھ کر جملہ مرویات میں اجازت حاصل کی۔

☆ شیخ عبدالقادر بن محمد علی خویر رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے علم فقہ اخذ کیا بالخصوص درمختار
مع حاشیہ ابن عابدین پڑھی۔

☆ مولانا رحمت اللہ کیرانوی مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے متعدد شرعی علوم
پڑھے۔ [۳۴]

☆ شیخ سید عمر بن محمد برکات بقاعی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۱۳ھ/۱۸۹۶ء)، لبنان
کے شہر بقاع میں پیدا ہوئے اور جامعہ ازہر قاہرہ میں پندرہ برس تک تعلیم حاصل کی جہاں شیخ
ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوئے، پھر ۱۲۷۶ء کو مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے وہیں پر وفات

پائی، مفسر، صاحب تصانیف و شاعر، شیخ صالح کمال نے آپ سے نحو، معانی، بیان، عروض وغیرہ علوم حاصل اخذ کئے۔ [۳۵]

عملی زندگی

شیخ صالح کمال نے تعلیمی مراحل طے کر لئے تو مسجد حرم میں مدرس ہوئے، اور جب سید عبدالمطلب بن غالب حسنی (م ۱۳۰۳ھ / ۱۸۸۶ء) تیسری و آخری بار گورنر مکہ مکرمہ کے منصب پر فائز ہوئے تو انہوں نے ۱۲۹۷ھ / ۱۸۸۰ء میں آپ کو جدہ شہر کا قاضی تعینات کیا جہاں آپ نے دو برس تک خدمات انجام دیں پھر خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق غالب آیا اور اس شہر مقدس سے مزید عرصہ دو روز رہنا گوارا نہ ہوا، چنانچہ اس منصب کی ذمہ داری سے معذرت کر دی اور ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۲ء کے آخر میں واپس مکہ مکرمہ چلے گئے جہاں درس کا سلسلہ پھر سے آگے بڑھایا، گورنر عبدالمطلب آپ کے قدر دان تھے، مذکورہ گورنر نے وفات پائی تو ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے شیخ صالح کمال نے غسل و تکفین اور تدفین کی رسوم اپنے ہاتھوں انجام دیں۔ [۳۶]

۱۲۹۹ھ کے آخری ایام میں سید عون رفیق پاشا حسنی (م ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۵ء) مکہ مکرمہ کے گورنر ہوئے تو شیخ صالح کمال ان کے بھی مقربین میں سے تھے اور وہ آپ کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ [۳۷]

آپ ۱۳۰۳ھ میں مسجد حرم میں مدرس درجہ چہارم تھے [۳۸]، آپ کا طریقہ تدریس یہ تھا کہ پہلے زبردس آیت یا حدیث پڑھی جاتی پھر آپ اس کی لغوی شرح بیان کرتے جس کے بعد اس سے مستنبط کردہ مسائل و احکامات کو سیر حاصل بیان فرماتے، آپ فقہ حنفی پر شیخ الاسلام برہان الدین علی بن ابوبکر فرغانی مرغینانی سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ (م ۵۹۳ھ / ۱۱۹۷ء) کی تصنیف ”الہدایۃ فی شرح البدایۃ“ کے درس پر خاص مہارت رکھتے تھے اور بالعموم اس کتاب کی تعریف و توصیف کیا کرتے اور فرماتے الہدایۃ بے مثل تصنیف ہے۔

گورز عون نے ۱۳۰۴ھ/۱۸۸۶ء میں شیخ صالح کمال کو مسجد حرم کے امام و خطیب کے علاوہ ”مفتی احناف“ کے منصب پر تعینات کیا لیکن کچھ ہی عرصہ بعد آپ آخر الذکر منصب سے مستعفی ہو گئے۔ [۳۹]

ان دنوں مکہ مکرمہ وغیرہ کے محکمہ عدل میں اعلیٰ مناصب پر تعیناتی کا کام دارالخلافہ استنبول میں واقع ”شیخ الاسلام“ کی براہ راست نگرانی میں تھا اور ۱۳۰۵ھ/۱۸۸۷ء میں قاضی مکہ مکرمہ الحاج ضیاء الدین بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی تو ان کی جگہ قاضی کا منصب بھی شیخ صالح کمال کے سپرد کیا گیا، آپ مفتی احناف اور قاضی مکہ مکرمہ کے اعلیٰ ترین مناصب پر بیک وقت فائز رہے جس دوران ان کی جملہ ذمہ داریاں احسن طریقہ سے انجام دیں، آپ کمرہ عدالت سے باہر بھی لوگوں کے تنازعات حل کرنے میں ہر ممکن سعی سے کام لیتے، شعبان ۱۳۰۵ھ میں شہر کے دو قبائل کے درمیان تنازعہ نے نازک صورت اختیار کر لی تو آپ ذاتی حیثیت سے وہاں گئے اور مختصر وقت میں اس معاملہ کو خوش اسلوبی سے حل کر کے پائیدار صلح کی بنیاد فراہم کی۔

شیخ صالح کمال نے اتحاد بین المسلمین اور خلافت اسلامیہ کی بقاء و استحکام کے لئے کی گئی کوششوں میں عملی حصہ لیا، یہ ترکی کے عثمانی خاندان کا دور حکومت تھا اور اسلامی مملکت عثمانیہ کی حدود تین براعظم تک پھیلی ہوئی تھیں اور آج کی عرب دنیا کے اکثر ممالک اس مملکت میں شامل تھے، پھر اس عظیم الشان ملک کا زوال شروع ہوا تو علیحدگی پسند افراد کی ہمت بڑھی، ۱۳۰۷ھ/۱۸۹۰ء میں یمن میں زیدی مذہب پر عمل پیرا بعض قبائل نے سید محمد بن یحییٰ حمید الدین حسنی علوی طالبی (م ۱۳۲۲ھ/۱۹۰۴ء) کو اپنا امام تسلیم کرتے ہوئے صنعاء شہر کے نواح میں کچھ علاقوں کو خلافت عثمانیہ سے الگ کر کے خود مختاری کا اعلان کر دیا، اس پر عثمانی افواج اور امام یمن کے حامیوں کے درمیان مسلح جھڑپیں شروع ہو گئیں، یہ سلسلہ جاری تھا کہ امام یمن نے وفات پائی [۴۰] اور ان کی جگہ ان کے فرزند سید یحییٰ بن محمد بن یحییٰ طالبی (م ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء) امام قرار پائے جنہوں نے صنعاء شہر پر قبضہ کر کے یمن پر اپنی باوشاہت کا اعلان کر دیا [۴۱] اور اپنی مسلح

کاروائیاں مزید تیز کر دیں۔

یہ عثمانی خلیفہ خادم حرمین شریفین و مسجد اقصیٰ سلطان عبدالحمید خان دوم (م ۱۳۳۶ھ/ ۱۹۱۸ء) کے دور حکومت کے واقعات ہیں، انہوں نے [۴۲] یمن میں رونما اس شورش کے خاتمہ کیلئے فریق مخالف سے مذاکرات کی راہ اپنائی اور ان کے حکم پر گورنر مکہ مکرمہ سید علی پاشا بن عبداللہ حسنی (م ۱۳۶۰ھ/ ۱۹۴۱ء) نے مکہ مکرمہ کے اکابر علماء و اعیان پر مشتمل ایک وفد ترتیب دے کر صنعاء روانہ کیا، شیخ صالح کمال اس وفد کے رکن تھے۔ [۴۳]

۱۳۲۵ھ/ ۱۹۰۷ء میں اس وقت کے مفتی احناف شیخ عبداللہ بن عباس بن صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں یہ وفد مکہ مکرمہ سے صنعاء پہنچا جہاں ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا گیا، پھر خوش گوار ماحول میں مذاکرات شروع ہوئے لیکن ایک غیر متوقع صورت یہ پیش آئی کہ وفد کے سربراہ شیخ عبداللہ نے دوران مذاکرات اچانک وفات پائی [۴۴] چنانچہ یہ سفارتی مہم متاثر ہوئی اور یہ بات چیت ادھوری رہی، اس وفد کے اراکین اپنے سربراہ کو صنعاء ہی میں سپرد خاک کر کے مکہ مکرمہ واپس آگئے [۴۵] یہ خلافت عثمانیہ کی داستان زوال کا ایک باب ہے، آئندہ دنوں میں برطانوی حکومت کی سازشیں اور عرب و ترک قوم پرستوں کی مرکز گریز سرگرمیوں میں تیزی آئی جس کے نتیجے میں قوم پرست رہنما مصطفیٰ کمال پاشا کی صدارت میں تشکیل دی گئی پارلیمنٹ نے ۳ مارچ ۱۹۲۴ء کو ایک قرارداد منظور کر کے خلافت عثمانیہ کے کلی خاتمہ کا اعلان کیا، یوں چھ سو پچیس برس بعد خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شیخ صالح کمال کو یہ جانکاہ واقعات دیکھنے سے محفوظ رکھا اور آپ ان کے ظہور پذیر ہونے سے قبل وفات پا چکے تھے۔

۱۳۳۰ھ/ ۱۹۱۲ء میں شیخ محمد سعید با بصلیل مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ”شیخ العلماء“ کے منصب جلیل پر تعینات تھے، انہوں نے وفات پائی [۴۶] تو ان ایام کے گورنر مکہ مکرمہ سید حسین بن علی حسنی (م ۱۳۵۰ھ/ ۱۹۳۱ء) نے ان کی جگہ شیخ صالح کمال کو شیخ العلماء مقرر کیا [۴۷] جس پر آپ نے اپنی وفات تک خدمات انجام دیں، یہ مکہ مکرمہ میں موجود جملہ دینی مناصب کے سربراہ

کی حیثیت رکھتا تھا، اس کی ذمہ داریاں سنبھالنے پر محلہ قشاشیہ کے باشندوں نے شیخ صالح کمال کے اعزاز و تکریم میں ایک عظیم الشان تقریب منعقد کی جس میں علماء و مشائخ اور دیگر اعیان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

شیخ صالح کمال مختلف اوقات میں بدعات کے قلع قمع سے بھی غافل نہیں رہے اور ان کے ازالہ و روک تھام کے لئے آواز بلند کی، ان دنوں حج کے موقع پر حجاز کی قیام گاہ منیٰ کے میدان میں نماز کی اطلاع کے لئے توپ کا گولہ داغا جاتا اور خیموں کو زیب و زینت سے آراستہ کر کے ان میں بڑے بڑے فانوس روشن کئے جاتے نیز آتش بازی کے مظاہرہ کا اہتمام ہوتا، گویا میلے کا سا سماں ہوتا، آپ نے ان افعال کو اسراف قرار دیا اور ان کی مخالفت میں نمایاں تھے۔

آپ کے استاد شیخ عبدالقادر خوقیر حنفی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ابو بکر بن محمد عارف خوقیر نے ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹ء میں وہابیت اختیار کرنے کا اعلان کیا جو مکہ مکرمہ میں یہ عقیدہ اپنانے والے اولین مقامی عالم و اہم فرد تھے، اس پر شیخ صالح کمال اور شیخ ابو بکر خوقیر کے درمیان تحریر و تقریر کے ذریعے معرکہ برپا رہا، اور یہ یہ شیخ صالح کمال و دیگر علماء مکہ کی سعی کا نتیجہ تھا کہ شیخ ابو بکر کی مکہ مکرمہ میں مذکورہ افکار پھیلانے کی تمام کوشش ناکام ہوئی، یہ صورت حال برقرار رہی تا آنکہ ۱۳۴۳ھ / ۱۹۲۴ء میں نجد کے ال سعود خاندان نے مکہ مکرمہ سمیت پورے حجاز مقدس پر قبضہ کر لیا تو شیخ ابو بکر خوقیر کو نجدی حکومت کی مدد حاصل ہوئی [۴۸] جبکہ شیخ صالح کمال اس انقلاب سے تقریباً ایک عشرہ قبل وفات پا چکے تھے۔

تلامذہ

شیخ صالح کمال کے مشہور شاگردوں میں سے چند کے نام یہ ہیں:

☆ شیخ بکر بن سید ارشد تہنی شافعی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۹۵ھ / ۱۹۷۵ء) انڈونیشیا کے

شہر جاوا کے نواح میں گاؤں شینکو میں پیدا ہوئے اور مقامی علماء سے استفادہ کے بعد مزید حصول علم

کے لئے مکہ مکرمہ پہنچے جہاں شیخ صالح کمال وغیرہ اکابرین کی شاگردی اختیار کی پھر واپس وطن جا کر سمفور نامی گاؤں میں سکونت اختیار کر کے وہاں مدرسہ قائم کیا اور عمر بھر وہیں پر درس و تدریس اور عبادت میں مشغول رہے، تقریباً ایک سو اٹھائیس برس کی عمر میں وہیں وفات پائی۔ [۴۹]

☆ شیخ عبدالقادر کردی رحمۃ اللہ علیہ، مکہ مکرمہ کے عالم جلیل، آپ نے مفتی شافعیہ سید عبداللہ بن محمد صالح زواوی مکی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ”تحفة الانام فی مآثر البلد الحرام“ کا عربی سے ترکی زبان میں ترجمہ کیا جسے مطبع ماجدیہ مکہ مکرمہ نے ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۱ء میں طبع کیا، فاضل بریلوی کے خلیفہ۔ [۵۰]

☆ شیخ سید عبدالقادر بن محمد سقاف رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۷ھ/۱۹۴۸ء)، جنوبی یمن کے علاقہ حضرموت کے شہر قیدون میں قبر واقع ہے، حرمین شریفین جا کر وہاں کے اکابرین سے تعلیم پائی، سلسلہ علویہ کے مرشد، معمر، انڈونیشیا وغیرہ میں تبلیغی خدمات انجام دیں۔ [۵۱]

☆ شیخ عربی بن محمد صالح حینی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۷۹ھ/۱۹۵۹ء)، طائف میں پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ میں وفات پائی، مدرس مسجد حرم، مطوف، مکہ مکرمہ عدالت کے نائب رئیس قاضی، بیت المال کے معتمد، نائب مجلس اوقاف۔ [۵۲]

☆ شیخ محمد سلطان بن محمد اورون معصومی (م ۱۳۷۹ھ/۱۹۵۹ء میں زندہ)، بخندہ کے ایک حنفی گھرانے میں پیدا ہوئے اور خوقند، بخارا، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، دمشق، بیت المقدس اور قاہرہ کے سفر کر کے وہاں کے علماء سے اخذ کیا پھر ترک تقلید کے داعی ہوئے اور عربی میں ’ہل المسلم ملزم باتباع مذهب معین من المذاهب الاربعة‘ نامی کتابچہ لکھ کر وہابیہ سے داد پائی، آئندہ دنوں میں اس کے اردو وغیرہ زبانوں میں تراجم کر کے مفت تقسیم کئے گئے، مکہ مکرمہ میں وفات پائی، آپ نے شیخ صالح کمال سے الاوائل العجلونیہ پڑھی۔ [۵۳]

☆ شیخ سید محمد علی بن حسن بن محمد صالح کتبی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۷۸ھ/۱۹۵۹ء)، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور قاہرہ میں وفات پائی، عالم وادیب، ماہر خطاط، ہاشمی عہد کے مکہ مکرمہ

میں شاہی کاتب، سعودی عہد میں مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔ [۵۴]

☆ شیخ محمد کمال سندھی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۳ھ / ۱۹۳۲ء)، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے

اور وہیں پر وفات پائی، مدرس مسجد حرم نیز مسجد سے وابستہ تمام عملہ کے عمومی نگران۔ [۵۵]

☆ شیخ محمد مرزوقی ابو حسین بن عبدالرحمن مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۵ھ / ۱۹۴۶ء)،

فاضل بریلوی کے خلیفہ۔

☆ شیخ محمد یحییٰ بن امان اللہ بن عبداللہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۸۷ھ / ۱۹۶۷ء)،

مدرس مسجد حرم مکی و مدرسہ فلاح، قاضی طائف، صاحب تصانیف، آپ نے شیخ صالح سے کفایۃ

العوام مع حاشیہ باجوری، اتمام الدراية شرح النقایة للسیوطی اور شرح ابن

عقیل پڑھیں، آپ کے والد ماجد بھی شیخ صالح کمال کے شاگرد تھے۔ [۵۶]

تصنیفات

شیخ صالح کمال کی جن تصنیفات کے نام معلوم ہو سکے وہ حسب ذیل ہیں:

☆ تبصرة الصبيان في الفقه الحنفی

☆ رسالة في مقتل سيدنا الحسين، سانحه كربلا کا بیان۔ [۵۷]

☆ رفع الخصام بين صاحب الصارم و صاحب شفاء السقام، زیارت

روضہ اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواز پر شیخ الاسلام علامہ تقی الدین علی بن عبدالکافی سبکی

مصری رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۵۵ھ / ۱۳۵۵ء) کی تصنیف "شفاء السقام في زيارة خير الانام"

اور اس کے انکار پر شیخ محمد بن احمد بن عبدالہادی حنبلی المعروف بہ ابن قدامہ مقدسی (م ۱۳۴۴ھ /

۱۳۴۳ء) کی "الصارم المنکی في الرد علی ابن السبکی" کا تقابلی جائزہ، مخطوط مخزونہ

مکتبہ مکہ مکرمہ زیر نمبر ۵۰ / فتاویٰ، صفحات ۱۳۔ [۵۸]

☆ القول المختصر المفید لاهل الانصاف في بيان الدلیل لعمل

اسقاط الصلاة والصوم المشهور عند الاحناف، نماز روزہ کے بارے میں حیلہ اسقاط پر مذہب احناف کے دلائل، یہ ۱۳۲۸ھ کو آپ کے ذاتی اخراجات پر مطبع ماجدیہ مکہ مکرمہ نے طبع کی اور ڈاکٹر شامخ [۵۹] نیز ڈاکٹر عزت [۶۰] نے اس ایڈیشن کے سرورق کا عکس اپنی کتب میں دیا ہے، اور ڈاکٹر ضییب کے بقول یہ کتاب پندرہ صفحات پر طبع ہوئی [۶۱] پروفیسر علامہ سید محمد ذاکر شاہ چشتی سیالوی (پ ۱۳۵۴ھ/۱۹۳۴ء) بانی جامعہ الزہراء اہل سنت راولپنڈی نے اس کا اردو ترجمہ ”حیلہ اسقاط کی شرعی حیثیت“ کے نام سے کیا جسے آستانہ عالیہ مرشد آباد پشاور نے شائع کیا۔

مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ

تیرھویں صدی ہجری مسلمانان عالم کے لئے ہر پہلو سے زوال کی صدی تھی، جس دوران سیاست، صنعت، علم، تجارت، عسکری قوت غرضیکہ زندگی کے ہر اہم شعبہ میں تنزل و جمود کی کیفیت نمایاں ہوئی جس کے نتیجے میں پوری اسلامی دنیا استعماری قوتوں کے ہاتھ میں کھلونا بن کر رہ گئی، مزید آفت یہ کہ اس صدی میں اعتقادی فساد برپا ہوا، اگر بطور خاص خطہ ہند پر نظر ڈالی جائے تو یہاں کے مسلمانوں میں اعتقادی انتشار و تقسیم کی ابتداء اس وقت ہوئی جب شاہ اسماعیل دہلوی بالاکوٹی کی دو تصنیفات ”صراط مستقیم“ ۱۲۳۸ھ/۱۸۲۲ء میں اور ”تقویت الایمان“ ۱۲۴۳ھ/۱۸۲۶ء میں پہلی بار شائع ہوئیں۔

آئندہ دنوں میں مولوی رشید احمد گنگوہی کی تصنیف ”براہین قاطعہ“ جو ان کے شاگرد مولوی خلیل احمد نیٹھوی کے نام سے ۱۳۰۴ھ/۱۸۸۷ء میں پہلی بار شائع ہوئی تو اس کے انداز تحریر نے اسلامیان ہند کو واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم کر دیا جو آج تک برقرار ہے [۶۲] اور یہی وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے شیخ صالح کمال کا خطہ ہند کے علماء کرام سے پہلا اہم رابطہ ہوا۔

علمائے لاہور کے سر تاج مولانا غلام دستگیر قصوری نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۱۵ھ/۱۸۹۷ء) نے براہین قاطعہ کی عبارات کے رد میں ضخیم کتاب ”تقدیس الوکیل عن

توہین الرشید و الخلیل“ اردو میں تالیف کی اور اس کی تلخیص کا خود ہی عربی ترجمہ کر کے ۱۳۰۷ھ/ ۱۸۹۰ء میں لاہور سے حجاز مقدس پہنچے، جہاں تقریباً ایک برس مقیم رہے، جس دوران اسے مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے اکابر علماء کے سامنے پیش کیا، شیخ صالح کمال نہ صرف مفتی بلکہ قاضی تعینات رہ چکے تھے لہذا اس شرعی قضیہ میں آپ کی رائے اہمیت رکھتی تھی، چنانچہ مولانا قصوری نے اسے آپ کے سامنے رکھا جس پر شیخ صالح کمال نے براہین قاطعہ میں مذکور افکار کو مردود قرار دیتے ہوئے تقدیس الوکیل پر تقریظ قلمبند کی، مولانا قصوری کی اس کتاب کے اردو متن کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں جس میں شیخ صالح کمال وغیرہ علمائے حرمین شریفین کی تقریظات کے اردو تراجم شامل ہیں۔

فاضل بریلوی سے رابطہ

مولانا احمد رضا خاں بریلوی اور شیخ صالح کمال کے درمیان عملی تعارف کا آغاز اس وقت ہوا جب دیوبندی افکار کے اکابرین نے صراط مستقیم، تقویۃ الایمان، براہین قاطعہ کے مندرجات کی مکمل تائید اور دفاع کا راستہ اختیار کیا اور علماء اہل سنت و جماعت کی طرف سے بھرپور مزاحمت کے نتیجہ میں ان کتب کے مؤیدین میں سے کچھ نے بعض معتزلہ افراد کی حمایت سے انجمن ندوۃ العلماء لکھنؤ کی بنیاد رکھ کر اس کے منبر سے فرقہ واریت کے خاتمہ کا حسین نعرہ بلند کیا اور صحیح کلیت کا لبادہ اوڑھ کر اس مزاحمت کو بے اثر کرنے کی کوشش کی۔

انجمن ندوۃ العلماء کا تاسیسی اجلاس ۱۳۱۱ھ/ ۱۸۹۳ء میں مدرسہ فیض عام کانپور میں ہوا جس میں فاضل بریلوی نے بھی شرکت کی لیکن آئندہ دنوں میں آپ جیسے ہی اس کے قیام کے اصل مقاصد پر مطلع ہوئے، آپ نے نہ صرف اس سے علیحدگی اختیار کر لی بلکہ پھر عمر بھر اس کے عزائم کو بے نقاب کرنے میں قلم کا بھرپور استعمال کیا اور اردو میں اس موضوع پر کئی ایک کتابیں لکھیں، اسی ضمن میں آپ نے ندوی افکار کی جزئیات پر عربی میں اٹھائیس سوالات مرتب کر کے

خود ہی ان کے جوابات قلمبند کئے پھر یہ مفصل شرعی فتویٰ بعض حجاج کے ذریعے علماء حرمین شریفین کی خدمت میں ارسال کیا تا کہ اس بارے میں ان کی گراں قدر رائے معلوم کی جاسکے، چنانچہ مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے بیس سے زائد علماء کرام نے اس کے مندرجات کی تائید و توثیق میں فتاویٰ و تقریظات لکھیں جن میں شیخ صالح کمال کا اسم گرامی بھی شامل ہے۔ [۶۳]

یہ کتاب ”فتاویٰ الحرمین برجف ندوة المین“ کے تاریخی نام سے ۱۳۱۷ھ میں بمبئی سے بعد ازاں اردو ترجمہ کے ساتھ لاہور سے شائع ہوئی علاوہ ازیں شیخ حسین حلمی ایشیق حنفی نقشبندی مجددی خالدی حفظہ اللہ تعالیٰ نے استنبول سے اس کے عربی متن کے متعدد ایڈیشن شائع کئے، اور یہی کتاب فاضل بریلوی و شیخ صالح کمال کے درمیان رابطہ کی پہلی کڑی ہے۔

فتاویٰ الحرمین کی اشاعت کے تقریباً چھ برس بعد ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۵ء میں فاضل بریلوی حجاز مقدس پہنچے تو ان دنوں شیخ صالح کمال مسجد حرم مکی میں امام و خطیب و مدرس کے فرائض انجام دے رہے تھے جب کہ قاضی جدہ و مکہ مکرمہ نیز مفتی احناف کے مناصب ترک کئے ایک عرصہ بیت چکا تھا، اس موقع پر ان دونوں اکابرین کے درمیان پہلی باقاعدہ ملاقات کس پس منظر میں ہوئی، اس کی تفصیل فاضل بریلوی نے خود یوں بیان کی:

”اس بار سرکار حرم محترم میں میری حاضری بے اپنے ارادے کے جس غیر متوقع اور غیر معمولی طریقوں پر ہوئی..... وہ حکمت الہیہ یہاں (مکہ مکرمہ) آ کر کھلی، سننے میں آیا ہے وہاں پہلے سے آئے ہوئے ہیں جن میں خلیل احمد ایٹھھی اور بعض وزراء ریاست و دیگر اہل ثروت بھی ہیں، حضرت شریف (گورنر مکہ مرمہ) تک رسائی پیدا کی ہے اور مسئلہ علم غیب چھیڑا ہے اور اس کے متعلق کچھ سوال اعلم علماء مکہ حضرت مولانا صالح کمال سابق قاضی مکہ و مفتی حنفیہ کی خدمت میں پیش ہوا ہے، میں حضرت موصوف کی خدمت میں گیا، حضرت مولانا وصی احمد صاحب محدث سورتی رحمتہ اللہ علیہ کے صاحبزادے

عزیزی مولوی عبدالاحد صاحب بھی ہمراہ تھے، میں نے بعد سلام و مصافحہ مسئلہ علم غیب پر تقریر شروع کی اور دو گھنٹہ تک اسے آیات و احادیث و اقوال ائمہ سے ثابت کیا.....“ [۶۴]

اس کے بعد فاضل بریلوی و شیخ صالح کمال کے درمیان اس موضوع پر گفتگو جاری رہی، ۲۵ رزی الحجہ ۱۳۲۳ھ کو نماز عصر کے بعد مسجد حرم مکی کے کتب خانہ میں دونوں علماء میں پھر ملاقات ہوئی جس کا سبب خود فاضل بریلوی نے یہ بتایا:

”حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے جیب سے ایک پرچہ نکالا جس پر علم غیب کے متعلق پانچ سوال تھے، مجھ سے فرمایا یہ سوال وہابیہ نے حضرت سیدنا (گورز مکہ مکرمہ) کے ذریعہ سے پیش کئے ہیں اور آپ سے جواب مقصود ہے۔“ [۶۵]

مسلمانوں کے اس دور زوال میں جو اعتقادی و فکری مباحث پورے زور شور سے منظر عام پر آئے انہی میں ایک موضوع علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین والمرسلین حبیب رب العالمین سیدنا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا فرمائے، آپ کی امت کہلانے والے چند افراد نے ان علوم کی حدود تعین کرنے کی جسارت کرتے ہوئے ایسے کلمات اور تضادات اپنی کتب میں چھوڑے کہ استدلال اور عدل و انصاف کے الفاظ بے معنی ہو کر رہ گئے، گورز مکہ مکرمہ و شیخ صالح کمال کی وساطت سے علم غیب کے بارے میں سوالات کا فاضل بریلوی کو پیش کرنا اسی جسارت کی ایک کڑی تھی۔

معلوم رہے کہ مسئلہ علم غیب پر عرب و عجم کے علماء اہل سنت اور دیگر منصف مزاج اہل علم نے فاضل بریلوی سے قبل اور آپ کے بعد عربی زبان میں متعدد کتب تصنیف کر کے اس موضوع کو بخوبی واضح کیا، ایسی چند کتب کے نام یہ ہیں:

☆ ملاک الطلب فی جواب استاذ حلب، تصنیف محدث مند خطیب،

ادیب و مراکش کے شہر سلجماسہ کے قاضی شیخ عبدالملک بن محمد تاجموتی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۱۱۸ھ/ ۱۷۰۶ء)، علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عارف باللہ شیخ احمد بن عبدالحی حلی رحمۃ اللہ علیہ مدفون فاس مراکش کے پیش کردہ سوال کے جواب میں تصنیف کی گئی، جس میں معاصر شیخ حسن بن مسعود یوسی فاسی (م ۱۱۰۲ھ/ ۱۶۹۱ء) کا رد کیا گیا۔

☆ خلع الاطمار الیوسیة بدفع الامطار الیوسیة، شیخ عبدالملک بن محمد تاجموتی، شیخ حسن یوسی کے تعاقب میں آپ کی دوسری تصنیف، فاضل بریلوی کے مراکشی خلیفہ محدث خلیفہ محدث و مسند علامہ سید محمد عبدالحی کتانی مالکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذخیرہ کتب میں اس کا قلمی نسخہ موجود تھا جس پر خود مصنف کے قلم سے تصحیحات درج تھیں۔ [۶۶]

☆ الکشف والتبیان عما خفی عن الاعیان، فی سر آیة، ما کنت تدری ما الکتاب والایمان، صوفیاء کے سلسلہ کتانیہ کے بانی و صاحب تصانیف کثیرہ علامہ سید محمد بن عبد الکبیر کتانی مالکی شہید رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۲۷ھ/ ۱۹۰۷ء)، فاضل بریلوی کے خلیفہ علامہ سید عبدالحی کتانی کے بڑے بھائی، مطبوعہ فاس ۱۳۳۲ھ، صفحات ۶۴۔ [۶۷]

☆ الیاقوت والمرجان، فی العلم النبوی، علامہ سید محمد بن عبد الکبیر کتانی مالکی شہید۔ [۶۸]

☆ النیر الوضی فی علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا قاضی محمد نور قادری چکوڑوی چکوالی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۳ھ/ ۱۹۱۴ء تقریباً)، مصنف نے فاضل بریلوی سے سند روایت حدیث حاصل کی، غیر مطبوع۔ [۶۹]

☆ جلاء القلوب من الاصداء الغیبیة بیان احاطہ علیہ السلام بالعلوم الکونیة، محدث کبیر و صاحب الرسالة المستطرفة علامہ سید محمد بن جعفر کتانی مالکی فاسی مراکشی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۵ھ/ ۱۹۲۷ء)، تین ضخیم جلدوں زیر طبع، مصنف نے فاضل بریلوی کی تصنیف الدوالة المکیة پر تقریظ لکھی جو غیر مطبوع ہے۔ [۷۰]

☆ التحقیق المصون فی علم الغیب بما کان یكون، شیخ عبدالستار بن عبدالوہاب دہلوی مکی (م ۱۳۵۵ھ / ۱۹۳۶ء)، مخطوط مخزونہ مکتبہ حرم مکی زیر نمبر ۲۱۳۲ بخط

مصنف - [۷۱]

☆ کشف رین الریب عن مسئلة علم الغیب، مولانا محمد عبدالباقی لکھنوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۶۴ھ / ۱۹۴۵ء)، مولانا محمد عبدالعلیم صدیقی میرٹھی مدنی رحمۃ اللہ

علیہ کے استاد - [۷۲]

☆ مطابقة الاختراعات العصرية بما اخبر عنه خير البرية، محدث اعظم مراکش صاحب تصانیف کثیر علامہ سید احمد بن محمد صدیق غماری حسنی ازہری شافعی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۸۰ھ / ۱۹۶۰ء)، متعدد ایڈیشن طبع ہوئے، حال ہی میں اس کی تلخیص شائع ہوئی، اس کا مکمل اردو ترجمہ ماہنامہ ترجمان اہل سنت کراچی میں قسط وار اور بعد ازاں لاہور سے کتابی صورت میں شائع ہوا۔

☆ الفضل الاعلم علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فی تفسیر قولہ تعالیٰ، و علمک مالک تکن تعلم، علامہ سید محمد صالح بن احمد خطیب حسنی قادری شافعی دمشقی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۴۰۱ھ / ۱۹۸۱ء) - [۷۳]

☆ علم الغیب، ماہر رضویات پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد نقشبندی مجددی حفظہ اللہ تعالیٰ (پ ۱۳۴۹ھ / ۱۹۳۰ء)، اردو سے عربی ترجمہ مفتی محمد مکرم احمد مجددی دہلوی، مطبوعہ کراچی، دوسرا ترجمہ مولانا سید فخر الدین اویسی، مطبوعہ ڈربن ساؤتھ افریقہ - [۷۴]

الغرض شیخ صالح کمال کے پیش کردہ سوالات کا فاضل بریلوی نے مفصل جواب لکھا اور پھر مسجد حرم مکی کے شیخ الخطباء والائمہ شیخ احمد ابوالخیر بن عبداللہ مرداد حنفی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۳۳۵ھ / ۱۹۱۷ء) کی خواہش پر [۷۵] فاضل بریلوی نے اس میں عیوب خمسہ کی بحث کا اضافہ کیا [۷۶]، پھر اس کا مبیضہ تیار کر کے اس کتاب کا تاریخی نام "الدولة المکیة بالمادة الغیبیة" رکھا اور یہ حضرت

مولانا شیخ صالح کمال کی خدمت میں پہنچادی گئی۔ [۷۷]

شیخ صالح کمال نے اسے کامل طور پر مطالعہ فرمایا اور شام کو گورنر مکہ کے یہاں تشریف لے گئے، ان دنوں سید علی پاشا بن عبداللہ حسنی مکہ مکرمہ کے گورنر تھے اور بقول فاضل بریلوی ذی علم تھے [۷۸] عشاء کی نماز کے بعد نصف شب تک گورنر کا دربار منعقد ہوتا تھا، اس روز دربار میں فاضل بریلوی کے علاوہ شہر کے علماء و اعیان اور دیگر شخصیات حاضر ہوئیں، پھر شیخ صالح کمال نے دربار میں کتاب پیش کی اور علی الاعلان فرمایا:

”اس شخص نے وہ علم ظاہر کیا جس کے انوار چمک اُٹھے اور جو ہمارے خواب میں بھی نہ

تھا“۔ [۷۹]

گورنر نے کتاب پڑھنے کا حکم دیا، شیخ صالح کمال نے پڑھنا شروع کی، اس کے دلائل قاہرہ سن کر گورنر نے باواز بلند فرمایا:

”اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ (وہابیہ)

منع کرتے ہیں“۔ [۸۰]

نصف شب تک نصف کتاب سنائی گئی تو دربار برخواست ہونے کا وقت آ گیا، اس دوران شیخ صالح کمال نے گورنر سے خلیل احمد انپٹھی کے عقائد ضالہ اور کتاب براہین قاطعہ کا ذکر بھی کر دیا تھا، انپٹھی صاحب کو خبر ہوئی تو دوسرے روز شیخ صالح کمال کے ہاں پہنچے اور آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کی لیکن اپنے عزائم میں ناکام ہو کر رات ہی جدہ فرار ہو گئے، صبح کو حضرت مولانا صالح کمال، فاضل بریلوی کے پاس تشریف لے گئے اور خود یہ واقع بیان کیا۔ [۸۱]

مذکورہ بالا واقعات پیش آنے تک شیخ صالح کمال آپ کے علم و فضل پر بخوبی آگاہ ہو چکے تھے، چنانچہ فاضل بریلوی کے ساتھ آپ کے روابط اور تبادلہ خیالات کا سلسلہ مزید آگے بڑھا، فاضل بریلوی نے آپ سے ملاقاتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

”فقیر دعوتوں کے علاوہ صرف چارجگہ ملنے کو جاتا، مولانا شیخ صالح کمال اور شیخ

العلماء مولانا محمد سعید با بصیل اور مولانا عبدالحق مہاجر الہ آبادی اور کتب خانے میں مولانا سید اسماعیل کے پاس، رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، یہ حضرات اور باقی تمام حضرات فرود گاہ فقیر پر تشریف لایا کرتے صبح سے نصف شب کے قریب ملاقاتوں ہی میں وقت صرف ہوتا، مولانا شیخ صالح کمال کی تشریف آوری کی تو گنتی نہیں [۸۲]، تین تین پہر میری ان کی مجالست ہوتی اور اس میں سوا مذاکرات علمیہ کے کچھ نہ ہوتا، جس زمانہ میں قاضی مکہ رہے تھے اس وقت کے اپنے فیصلوں کے مسئلے دریافت فرماتے، فقیر جو بیان کرتا اگر ان کے فیصلہ کے موافق ہوتا، بشاشت و خوشی کا اثر چہرہ مبارک پر ظاہر ہوتا اور مخالف ہوتا تو ملال و کسبیدگی، اور یہ سمجھتے کہ مجھ سے حکم میں لغزش ہوئی۔ [۸۳]

”مکہ مکرمہ میں پلنگ کا رواج نہیں بالا خانوں میں زمین پر فرش ہیں، اس پر سوتے ہیں مگر حضرت سید اسماعیل و حضرت مولانا شیخ صالح کمال رحمہما اللہ تعالیٰ نے میرے لئے ایک عمدہ پلنگ منگوا دیا تھا، ایام مرض میں میں اسی پر سوتا تھا اور علماء و عظماء عیادت کو آتے اور فرش پر تشریف رکھتے میں اس سے نادم ہوتا، ہر چند چاہتا کہ نیچے اتروں مگر قسموں سے مجبور فرماتے۔ [۸۴]

فاضل بریلوی مناسک حج ادا کر چکے تھے، بخار کا مرض شدت اختیار کئے ہوئے تھا، مدینہ منورہ حاضری کا مرحلہ ابھی طے نہیں ہوا تھا، اس حالت میں شوق مدینہ طیبہ غالب تھا کہ ایک روز آپ نے فرمایا! روضہ انور پر ایک نگاہ پڑ جائے پھر دم نکل جائے، اس پر حضرت مولانا شیخ صالح کمال نے جواب فرمایا:

”ہرگز نہیں بلکہ آپ روضہ انور پر اب حاضر ہو کر پھر حاضر ہوں، پھر حاضر

ہوں پھر مدینہ طیبہ میں وفات نصیب ہو۔ [۸۵]

ایک اور مجلس میں مولانا شیخ صالح کمال نے فاضل بریلوی کو مکہ مکرمہ میں شادی اور

مستقل قیام کی تجویز پیش کی۔ [۸۶]

شیخ صالح کمال نے فاضل بریلوی کی امامت میں متعدد بار نماز ادا فرمائی، جس کی صورت یوں پیش آئی کہ امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز عصر کا وقت دو مثل سایہ گزر کر ہے، لیکن ان دنوں مسجد حرم مکی میں حنفی مصلیٰ پر یہ نماز قول صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مطابق مثل دوم کے شروع میں پڑھی جاتی، اس بارے میں فاضل بریلوی فرماتے ہیں:

”فقیر کا معمول ہے کہ کسی مسئلہ میں بے خاص مجبوری کے قول امام اعظم سے عدول نہیں کرتا چنانچہ میں اس جماعت میں بہ نیت نفل شریک ہو جاتا اور فرض عصر مثل دوم کے بعد میں اور حضرت مولانا شیخ صالح کمال حضرت مولانا سید اسماعیل و دیگر بعض محتاطین حنفیہ اپنی جماعت سے پڑھتے جس میں وہ حضرات امامت پر اس فقیر کو مجبور فرماتے“۔ [۸۷]

فاضل بریلوی کے اسی قیام مکہ مکرمہ کے دوران شیخ صالح کمال نے آپ کی مزید تین تصنیفات حسام الحرمین، الدولۃ المکیہ اور کفل الفقیر پر تقریظات لکھیں اور اول الذکر کتاب پر تقریظ میں فاضل بریلوی کو ان الفاظ سے یاد کیا:

”العالم العلامة بحر الفضائل وقرۃ عیون العلماء الامثال
مولانا اشیح المحقق برکۃ الزمان احمد رضا خان البریلوی
حفظہ اللہ والبقاہ ومن کل سوء ومکروہ وقاہ اما بعد فعلیکم
السلام ایہا الامام المقدم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی

الدوام“۔ [۸۸]

شیخ صالح کمال مکہ مکرمہ کے عالم کبیر نیز عمر میں فاضل بریلوی سے تقریباً نو برس بڑے تھے لیکن آپ سے استفادہ کرنے میں کسی بات کو آڑے نہیں آنے دیا، شیخ صالح کمال کی شدید خواہش پر فاضل بریلوی نے ۹ صفر ۱۳۲۳ھ کے روز آپ کو انسٹھ علوم، قرآن مجید، حدیث، فقہ،

تصوف، صوفیاء کے مشہور سلاسل، قصیدہ غوثیہ، صلاۃ غوثیہ، اوراد و وظائف وغیرہ کی متداول کتب میں سند روایت و اجازت بنام ”الاجازة الرضویة لمجل نکتة البھیة“ مرتب کر کے عطا کی [۸۹] فاضل بریلوی کے الفاظ یہ ہیں:

”حضرت مولانا شیخ صالح کمال رحمۃ اللہ علیہ نے بار بار کے اصرار کے ساتھ مجھ سے اجازت نامہ لکھوایا جسے میں نے ادباً کئی روز ٹالا جب مجبور فرمایا لکھ

دیا“۔ [۹۰]

فاضل بریلوی مکہ مکرمہ میں تقریباً تین ماہ قیام کے بعد ۲۳ صفر ۱۳۲۳ھ کو مدینہ منورہ روانہ ہو گئے اور وہاں کی حاضری کے بعد واپس وطن آ گئے، لیکن شیخ صالح کمال کے دل و دماغ میں آپ کی یاد باقی رہی، چنانچہ فاضل بریلوی کے خلیفہ مکتبہ حرم مکی کے نگران سید اسماعیل بن خلیل حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۲ رجب ۱۳۲۳ھ کو مکہ مکرمہ سے ایک خط آپ کی خدمت میں بریلی ارسال کیا تو اس میں شیخ صالح کمال وغیرہ مکی احباب کی خیریت و مشاغل کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا:

”سیدی شیخ صالح کمال تو ہر مجلس میں آپ کے کمالات بیان کرتے رہتے ہیں“۔ [۹۱]

اعترافِ عظمت

☆ شیخ صالح کمال کی زندگی میں ان کی جو تصنیف مکہ مکرمہ سے شائع ہوئی اس کے سرورق پر آپ کا اسم گرامی ان القاب کے ساتھ درج ہے:

”العالم الفاضل والاساذ الكامل عندة العلماء الاعلام ببلد
الله الحرام العلامة الشيخ محمد صالح کمال الحنفی مفتی
السادة الاحناف بمكة المكرمة سابقا والمدرس والخطیب
والامام بالمسجد الحرام المکی ابن المرحوم العلامة المحقق
والدراکة الدقق الشيخ صديق کمال نفع الله بعلومهما

المسلمين وعزز بار شادهما شريعة سيد المرسلين

آمین“ [۹۲]

☆ عبدالحسن بن یعقوب صحاف (م ۱۳۵۰ھ / ۱۹۳۱ء) مکہ مکرمہ کے مشہور شاعر تھے [۹۳] شیخ صالح کمال نے شیخ العلماء کا منصب سنبھالا تو آپ کے اعزاز میں اہل مکہ نے جو تقریب منعقد کی، اس میں انہوں نے آپ کی مدح میں قصیدہ پڑھا جس کا مطلع یہ ہے:

کمال علمک قد زانت به الرتب

ومکة عمها من فخرها الطرب [۹۴]

☆ شیخ محمد بن سلیمان حسب اللہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو مکہ مکرمہ کے معمر عالم و مسجد حرم میں تفسیر، حدیث، فقہ و اصول اور مسجد نبوی میں کتاب الشفاء کے مدرس نیز صاحب تصانیف تھے، آپ خانہ کعبہ کے مقام ملتزم پر نماز کے لئے موجود تھے کہ شیخ صالح کمال کے جنازہ کی آمد پر مطلع ہوئے، اس پر آپ نے شیخ صالح کمال کے علمی مقام کے اعتراف میں یہ الفاظ کہے:

”الیوم مات فقه ابی حنیفة“ [۹۵]

☆ قاضی مکہ مکرمہ و مسجد حرم کے شیخ الخطباء والائمہ نیز فاضل بریلوی کے خلیفہ شیخ عبداللہ ابوالخیر مرداد حنفی شہید رحمۃ اللہ علیہ یوں رقمطراز ہوئے:

”صالح بن صدیق بن عبدالرحمن کمال الحنفی العالم

الجلیل الھمام المدرس بالمسجد الحرام القدوة الفقیہ الغلامہ

الفھامہ النبیه“ [۹۶]

☆ شیخ صالح کمال کی وفات کے چند عشرے بعد ۱۳۶۰ھ / ۱۹۴۱ء میں ان کے شاگرد شیخ محمد یحییٰ بن امان مکی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تحریر میں استاد گرامی کا ذکر حسب ذیل الفاظ میں کیا:

”فضیلة الاستاذ الاکبر والمحقق المدقق ذی الوجه الانور

مفتی السادة الحنفية فقيه الحجاز بين على الاطلاق بقية

السلف وعمدة الخلف صالح بن صديق كمال [۹۷]

☆ فاضل بریلوی کی تصنیف حسام الحرمین پر لکھی گئی شیخ صالح کمال کی تقریظ کے آغاز

میں مقررظ کا تعارف ان الفاظ میں کرایا گیا ہے:

”مقدام العلماء المحققين وهمام العظماء المدققين العريف

الماهر والغطريف الباهر والسحاب الهامر والقمر الزاهر ناصر

السنة وكاسر الفتنة مفتي الحنفية سابقا ومحط الرحال سابقا

ولاحقا ذوالعز والافضال مولانا العلامة الشيخ صالح كمال

توجه ذوالجلال بتيجان العز والجمال [۹۸]

☆ فاضل بریلوی حجاز مقدس سے واپس وطن تشریف لائے تو عرصہ بعد ایک روز بریلی

کی مسجد میں علمائے حجاز کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے بارے میں فرمایا:

” حضرت مولانا شیخ صالح کمال کو اللہ تعالیٰ جنات عالیہ عطا فرمائے..... میرے

نزدیک مکہ معظمہ میں ان کے پائے کا دوسرا عالم نہ تھا“ [۹۹]

وفات

حضرت مولانا شیخ صالح کمال مسجد حرم مکی میں امام وخطیب و مدرس، قاضی جدہ و مکہ

مکرمہ، مفتی احناف و شیخ العلماء کے مناصب رفیعہ پر تعینات رہے، اپنے دور کے متعدد گورنر مکہ

مکرمہ کے مشیر رہے، اور وسیع و عریض اسلامی سلطنت کے عثمانی خلیفہ کی طرف سے سفارتی مہم پر

صنعاء یمن تشریف لے گئے، ان مصروفیات کے ساتھ عقائد و معمولات اہل سنت و فقہ حنفی وغیرہ

موضوعات پر تصنیف و تالیف کا کام بھی کیا، لیکن ان تمام تر مناصب و فضائل کے باوجود انتہائی

سادہ زندگی بسر کی اور مسجد حرم میں خانہ کعبہ کے سائے میں نماز ادا کی گئی جس میں زندگی کے مختلف

شعبوں سے تعلق رکھنے والے بکثرت افراد نے شرکت کی، المعلىٰ قبرستان میں قبر بنی۔ [۱۰۰]

آخر میں واضح رہے کہ حجاز مقدس کے ہی شہر طائف میں بھی کمال نامی ایک خاندان آباد ہے جس میں متعدد علماء و فضلاء ہوئے، جیسا کہ تاریخ طائف پر کتب کے مصنفین شیخ عبداللہ بن بکر کمال (م ۱۳۳۱ھ/ ۱۹۲۲ء)، شیخ عبداللہ بن حسن کمال (م ۱۳۱۲ھ/ ۱۹۹۱ء) اور شیخ محمد سعید بن حسن کمال (م ۱۳۱۶ھ/ ۱۹۹۶ء)، اور یہ ایک الگ کمال خاندان ہے۔

<http://t.me/Tehqiqat>

حوالہ جات و حواشی

[۱]- شیخ احمد البشھی کے حالات: نزہۃ الفکر فیما مضی من الحوادث والعبر فی تراجم رجال القرن الثانی عشر والثالث عشر، شیخ احمد بن محمد حضراوی ہاشمی مکی شافعی، تحقیق محمد مصری، طبع اول ۱۹۹۶ء، وزارت ثقافت دمشق شام، جلد ۱، ص ۱۶۶ تا ۱۶۷

[۲]- شیخ حمزہ عاشور کے حالات: اعلام المملکین من القرن التاسع الی القرن الرابع عشر الہجری، شیخ عبداللہ بن عبدالرحمن معلمی مکی، طبع اول ۱۴۲۱ھ مطابق ۲۰۰۰ء، الفرقان اسلامک ہرنج فاؤنڈیشن لندن وجده، ج ۲، ص ۶۴۹ / المختصر من کتاب نشر النور والزہر فی تراجم افاضل مکہ من القرن العاشر الی القرن الرابع عشر، شیخ عبداللہ بن احمد ابوالخیر مرداد شہید مکی حنفی، تحقیق واختصار محمد سعید عامودی مکی و احمد علی بھوپالی مکی، طبع دوم ۱۴۰۶ھ / ۱۹۸۶ء، عالم المعرفہ جدہ، ص ۱۸۲ تا ۱۸۳ / نظم الدرر فی اختصار نشر النور والزہر فی تراجم افاضل مکہ من القرن العاشر الی القرن الرابع عشر، شیخ عبداللہ بن محمد غازی ہندی مکی، مخطوط بخط مصنف کا عکس مخزونہ بہاء الدین زکریا لائبریری ضلع چکوال، ص ۱۲۰ / نزہۃ الفکر، ج ۱، ص ۳۲۵

[۳]- سید زینی مزہر کے حالات: نزہۃ الفکر، ج ۱، ص ۴۳۶

[۴]- شیخ عبدالرحمن جمال کبیر کے حالات: اعلام المملکین، ج ۱، ص ۳۴۳ / مختصر مختصر نشر النور، ص ۲۴۰ / نظم الدرر، ص ۱۲۷ تا ۱۲۸

[۵]- شیخ عبدالرحمن کزبری کے حالات: الاعلام، قاموس تراجم لاشہر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین، خیر الدین زرکلی دمشقی، طبع ششم ۱۹۸۴م دارالعلم للملایین بیروت، ج ۳، ص ۳۳۳ / حلیۃ البشر فی تاریخ القرن الثالث عشر، شیخ عبدالرزاق بن حسن بیطار دمشقی، طبع ۱۳۸۰ھ / ۱۹۶۱ء، مجمع اللغة العربیۃ دمشق، ج ۲، ص ۸۳۳ تا ۸۳۶ / فہرس الفہارس والاثبات وجمع المعاجم والمشیختات والمسلسلات، سید محمد عبدالحی کتانی، تحقیق ڈاکٹر احسان عباس، طبع

دوم ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء، دارالغرب الاسلامی بیروت، ج ۱، ص ۲۸۵ تا ۲۸۸ / فہرست المخطوطات،
مصطلح الحدیث، فواد سید، طبع ۱۳۷۵ھ/۱۹۵۶ء، دارالکتب المصریۃ قاہرہ، ج ۱، ص ۶۱۳ تا ۶۱۵، ۲۰۵ /
معجم مؤلفی مخطوطات مکتبۃ الحرم المکی الشریف، شیخ عبداللہ بن عبدالرحمن معلمی مکی، طبع اول ۱۴۱۶ھ/
۱۹۹۶ء، شاہ فہد قومی کتب خانہ ریاض، ص ۴۲۵

[۶]۔ شیخ عبداللہ سراج کے حالات: اعلام المکیین، ج ۱، ص ۴۹۹ / فہرس الفہارس، ج
۲، ۷۵۲ تا ۷۵۳ / مختصر نشر النور، ص ۲۹۷ تا ۳۰۰ / نزہۃ الفکر، ج ۲، ص ۶۵ تا ۶۶ / نظم الدرر،
ص ۱۳۲ تا ۱۳۳

[۷]۔ شیخ عمر بن عبدالکریم کے حالات: سیر و تراجم بعض علمائنا فی القرن الرابع عشر
الہجرۃ، عمر عبدالجبار مکی، طبع سوم ۱۴۰۳ھ/۱۹۸۲ء، مکتبۃ تہامہ جدہ، ص ۶۲ حاشیہ / اعلام المکیین، ج ۱،
ص ۱۱۸ تا ۱۱۹ / فہرس الفہارس، ج ۲، ص ۷۹۶ تا ۷۹۷ / مختصر نشر النور، ص ۳۷۸ تا ۳۸۰ / نزہۃ الفکر،
ج ۲، ص ۳۰۲ تا ۳۰۳ / نظم الدرر، ص ۱۴۰ تا ۱۴۲

[۸]۔ شیخ سید محمد سنوسی کے حالات: اعلام المکیین، ج ۱، ص ۵۳۱ تا ۵۳۲ / الاعلام،
ج ۶، ص ۲۹۹ / فہرس الفہارس، ج ۱، ص ۱۰۳ تا ۱۰۴، ج ۲، ص ۱۰۴۰ تا ۱۰۴۹ / مختصر نشر النور، ص ۴۲۳
تا ۴۲۴ / نظم الدرر، ص ۱۴۶ تا ۱۴۷

[۹]۔ شیخ محمد صالح ریس کے حالات: اعلام المکیین، ج ۱، ص ۴۶۱ / الاعلام، ج ۶، ص
۱۶۳ / مختصر نشر النور، ص ۲۱۴ تا ۲۱۶ / نظم الدرر، ص ۱۲۳ تا ۱۲۴

[۱۰]۔ مولانا محمد عابد سندھی کے حالات: الامام الفقیہ المحدث الشیخ محمد عابد السندی
الانصاری رئیس علماء المدینۃ المنورۃ فی عصرہ، شیخ سائد بکد اش حلبی، طبع اول ۱۴۲۳ھ، دارالبشائر
الاسلامیۃ بیروت، کل صفحات ۵۶۰ / نزہۃ النواظر و بھجۃ المسامع والنواظر، حکیم عبداللہ لکھنوی ندوی
و ابوالحسن علی ندوی، طبع اول ۱۴۲۰ھ/۱۹۹۹ء، دارالان حزم بیروت، صفحہ ۱۰۹۶ تا ۱۰۹۸ / الاعلام،
ج ۶، ص ۱۷۹ / فہرس الفہارس، ج ۱، ص ۳۶۳ تا ۳۷۱، ج ۲، ص ۷۲۰ تا ۷۲۲

[۱۱]- شیخ سید محمد یسین میر غنی کے حالات: اعلام المکینین - ج ۲، ص ۹۵۳/ فہرس

الفہارس، ج ۲، ص ۱۱۳۷/ مختصر نشر النور، ص ۲۹۲ تا ۲۹۳/ نظم الدرر، ص ۱۵۴

[۱۲]- شیخ ابراہیم عقیلی کے حالات: نشر الدرر فی تزییل نظم الدرر فی تراجم علماء مکہ من

القرن الثالث عشر الی الرابع عشر، شیخ عبداللہ بن محمد غازی ہندی مکی، مخطوط بخط مصنف کا عکس مخزونہ

بہاء الدین زکریا لائبریری ضلع چکوال، ص ۴ ضمیمہ/ اعلام المکینین، ج ۲، ص ۶۹۱/ مختصر نشر النور،

ص ۵۰/ نظم الدرر، ص ۱۵۸

[۱۳]- شیخ جمال بن عبداللہ کے حالات: ماہنامہ العرب ریاض، شمارہ دسمبر ۱۹۶۷ء،

ص ۲۰۰/ اعلام المکینین، ج ۱، ص ۶۸ تا ۶۹/ الاعلام، ج ۲، ص ۱۳۲، ۱۳۵/ سیر و تراجم، ص ۶۰

حاشیہ/ مختصر نشر النور، ص ۱۶۱ تا ۱۶۲/ نزہۃ الفکر، ج ۱، ص ۲۶۸ تا ۲۷۲/ نظم الدرر، ص ۱۱۸ تا ۱۱۹

[۱۴]- شیخ عباس بن جعفر کے حالات: اعلام المکینین، ج ۱، ص ۷۶/ سیر و تراجم،

ص ۱۷۳ تا ۱۷۴/ فہرس الفہارس، ج ۲، ص ۶۸۶/ مختصر نشر النور، ص ۲۲۸ تا ۲۲۹/ نشر الدرر، ص ۳،

۸ ضمیمہ/ نظم الدرر، ص ۱۸۵ تا ۱۸۶

[۱۵]- شیخ عبدالقادر خویر کے حالات: سیر و تراجم، ص ۲۳۳/ نشر الدرر، ص ۳،

۷ ضمیمہ/ نزہۃ الفکر، ج ۲، ص ۲۰۳ تا ۲۰۵

[۱۶]- شیخ سید محمد علی وتری کے حالات: اتحاد الاخوان باختصار مطبح الوجدان فی

اسانید الشیخ عمر حمدان، شیخ محمد یاسین بن محمد عیسیٰ فادانی مکی، طبع دوم ۱۴۰۶ھ/ ۱۹۸۵ء، دار البصائر

دمشق و بیروت، ص ۲۳ تا ۲۴/ الاعلام الشرقیۃ فی المائۃ الرابعۃ عشرۃ الحجریۃ، شیخ زکی محمد مجاہد مصری،

طبع دوم ۱۹۹۴ء، دار الغرب الاسلامی بیروت، ج ۲، ص ۹۱۹/ الدلیل المشری الی فلک اسانید

الاتصال بالجیب البشیر صلی اللہ علیہ و علی آلہ ذوی الفضل الشہیر و صحبہ ذوی القدر الکبیر، شیخ ابوبکر بن

احمد حبشی علوی مکی، طبع اول ۱۴۱۸ھ/ ۱۹۹۷ء، مکتبہ مکیہ مکہ مکرمہ، ص ۲۲۳ تا ۲۲۵/ معجم الشیوخ المدہش

المطرب، شیخ عبدالحفیظ فاسی، طبع ۱۳۵۰ھ/ ۱۹۳۱ء، مطبع وطنیہ فاس، ج ۲، ص ۱۲۱ تا ۱۲۶/ معجم

الموضوعات المطر وقتہ فی التالیف الاسلامی و بیان ما الف فیہا، شیخ عبداللہ بن محمد حبشی یمنی، طبع
۲۰۰۰ء، کلچرل فاؤنڈیشن ابو ظہبی، ج ۲، ص ۱۳۵۸ / الاعلام، ج ۶، ص ۳۰۱ / فہرس الفہارس، ج ۱،
ص ۱۰۶ تا ۱۱۰ / معجم مؤلفی مخطوطات مکتبۃ الحرم المکی الشریف، ص ۵۰۶

[۱۷] - نزہۃ الفکر، ج ۱، ص ۲۹۶ تا ۲۹۸

[۱۸] - نزہۃ الفکر، ج ۲، ص ۵۱

[۱۹] - مختصر نشر النور، ص ۲۲۰ تا ۲۲۱

[۲۰] - شیخ عبدالوہاب برہانپوری چشتی قادری شاذلی (م ۱۰۰۱ھ / ۱۵۹۳ء) کے

حالات: اخبار الاخیار فی احوال الابرار، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، فارسی سے اردو ترجمہ اقبال
الدین احمد، طبع اول کمپیوٹر ۱۹۹۷ء، دارالاشاعت اردو بازار کراچی، ص ۳۵۵ تا ۳۶۴ / نزہۃ
الخواطر، ص ۵۸۳ تا ۵۸۴ / نظم الدرر، ص ۲۴۲ تا ۲۵۲

[۲۱] - اعلام المکین، ج ۲، ص ۸۰۹ / مختصر نشر النور، ص ۲۲۰ تا ۲۲۱ / نزہۃ الفکر، ج ۲،

ص ۵۲ تا ۵۱ / نظم الدرر، ص ۱۲۲

[۲۲] - سیر و تراجم، ص ۱۳۹ حاشیہ

[۲۳] - اعلام المکین، ج ۲، ص ۸۰۹

[۲۴] - اہل الحجاز بعقبہم التاریخی، حسن عبدالحی قزاز مکی، طبع اول ۱۳۱۵ھ / ۱۹۹۴ء،

مطابع المدینۃ جدہ، ص ۱۸۴ / ماہنامہ المنہل جدہ، شمارہ دسمبر ۱۹۸۸ء، ص ۱۶۵ / سیر و تراجم، ص ۱۱۱

[۲۵] - علامہ سید احمد دحلان کے حالات: تاریخ مکہ، احمد سباعی مکی، طبع

چہارم ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ء، دارمکتبۃ للطباعة مکہ مکرمہ، ص ۵۸۷ / رجال من مکتبۃ المکرمۃ، زہیر محمد جمیل

کتبی مکی، طبع اول ۱۳۱۲ھ / ۱۹۹۲ء، دارالفنون جدہ، ج ۳، ص ۱۸۸ تا ۱۹۶ / فہرس مخطوطات مکتبۃ

مکتبۃ المکرمۃ، پروفیسر ڈاکٹر عبدالوہاب ابراہیم سلیمان مکی وغیرہ دس اہل علم نے مل کر مرتب کی، طبع

۱۳۱۸ھ / ۱۹۹۷ء، شاہ فہد قومی کتب خانہ ریاض، ص ۵۱۳ / نشر المآثر فی من اورکتہ من الاکابر، شیخ

عبدالستار دہلوی مکی، مخطوط بخط مصنف کا عکس مخزونہ بہاء الدین زکریا لائبریری ضلع چکوال، ص ۱۰ تا ۱۱، ۴۸ / ماہنامہ العرب ریاض، شماره مئی ۱۹۷۱ء، ص ۸۶۴ تا ۸۶۸ / سالنامہ معارف رضا کراچی، شماره ۱۳۱۹ھ / ۱۹۹۸ء، ص ۱۷۷ تا ۱۷۸ / اعلام المکین، ج ۱، ص ۵۹ / الاعلام، ج ۱، ص ۱۲۹ / الاعلام الشرقية، ج ۱، ص ۲۶۵ تا ۲۶۶ / حلیۃ البشر، ج ۱، ص ۱۰۴ تا ۱۸۱ تا ۱۸۳ / فہرس القہارس، ج ۱، ص ۳۹۰ تا ۳۹۲ / معجم مؤلفی مخطوطات مکتبۃ الحرم المکی الشریف، ص ۶۸، ۳۱۲ / نزہۃ الفکر، ج ۱، ص ۱۸۶ تا ۱۹۰ / نظم الدرر، ص ۱۵۹ تا ۱۶۰

[۲۶] - مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے حالات عربی کتب میں: اعلام الحجاز فی القرن الرابع عشر للهجرة، محمد علی مغربی، طبع دوم ۱۳۱۵ھ / ۱۹۹۴ء، مطابع دارالبلاد جدہ، ج ۲، ص ۲۸۶ تا ۳۱۳ / الحركة الادبية في المملكة العربية السعودية، ڈاکٹر بکری شیخ امین، طبع چہارم ۱۹۸۵ء، دارالعلم للملایین بیروت، ص ۱۴۷ تا ۱۴۸ / علماء العرب في شبه القارة الهندية، شیخ یونس ابراہیم سامرائی، طبع ۱۹۸۶ء، وزارت اوقاف بغداد عراق، ص ۷۵۰ / المدرسة الصولتية، ڈاکٹر احمد حجازی السقا، طبع اول ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ء، دارالانصار قاہرہ، ص ۲۵ تا ۳۲ / من تاریخنا، محمد سعید عامودی مکی، طبع سوم ۱۴۰۱ھ / ۱۹۸۱ء، دارالاصالة ریاض، ص ۲۶۱ تا ۲۷۱ / ماہنامہ البعث الاسلامی لکھنؤ، شماره اگست ستمبر ۱۹۸۸ء، ص ۷۰ تا ۷۷ / ماہنامہ المنہل جدہ، شماره دسمبر ۱۹۸۸ء، ص ۱۵۲ تا ۱۶۶ / اعلام المکین، ج ۲، ص ۶۵۸ تا ۶۶۱ / الاعلام، ج ۳، ص ۱۸ / اهل الحجاز، ص ۱۸۶ تا ۱۸۷ / تاریخ مکہ، ص ۵۸۰ تا ۵۸۱ / سیر و تراجم، ص ۱۰۸ تا ۱۸۷ / تاریخ مکہ، ص ۵۸۰ تا ۵۸۱ / سیر و تراجم، ص ۱۰۸ تا ۱۱۲ / نزہ الخواطر، ص ۱۲۲۸ تا ۱۲۲۹

[۲۷] - اعلام المکین، ج ۲، ص ۸۱۰ / اهل الحجاز، ص ۲۷۵ / سیر و تراجم، ص ۱۳۹ / مختصر

نشر النور، ص ۳۷۲

[۲۸] - شیخ حسین دحلان کے حالات: اعلام المکین، ج ۱، ص ۲۲۵ / سیر و تراجم،

ص ۱۱۰ حاشیہ / مختصر نشر النور، ص ۱۷۹ / نظم الدرر، ص ۱۷۳

[۲۹]- شیخ محمد مرزوقی کے حالات: تذکرہ خلفائے اعلیٰ حضرت، محمد صادق قسوری

و پروفیسر مجید اللہ قادری، طبع ۱۴۱۳ھ/۱۹۹۲ء ادارہ تحقیقات امام احمد رضا کراچی، ص ۸۰ تا ۸۳/

تشذیف الاسماع بشیوخ الاجازة والسماع، شیخ محمود سعید ممدوح، طبع اول، سن تصنیف ۱۴۰۳ھ، مطبع

شباب قاہرہ، ص ۵۰۷ تا ۵۰۸/ سالنامہ معارف رضا کراچی، شمارہ ۱۹۹۹ء، ص ۱۹۷/ اعلام المکملین،

ج ۲، ص ۸۶۳ تا ۸۶۴/ اہل الحجاز، ص ۲۸۳ تا ۲۸۴/ الدلیل المشر، ص ۳۸۳ تا ۳۸۸/

سیر و تراجم، ص ۲۴۰ تا ۲۴۳/ مختصر نشر النور، ص ۴۰۲ تا ۴۰۳/ نظم الدرر، ص ۲۱۱ تا ۲۱۲

[۳۰]- حسام الحرمین علی منخر الکفر والمین، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، طبع ۱۳۹۵ھ/

۱۹۷۵ء، مکتبہ نبویہ لاہور، ص ۴۴

[۳۱]- حسام الحرمین، ص ۴۵

[۳۲]- اعلام المکملین، ج ۲، ص ۸۱۰/ اہل الحجاز، ص ۲۷۵/ سیر و تراجم، ص ۱۳۹/ مختصر

نشر النور، ص ۳۷۲/ نظم الدرر، ص ۲۰۱ تا ۲۰۲

[۳۳]- آپ کی زندگی میں آپ کی جو تصنیف مکہ مکرمہ سے شائع ہوئی اس کے سرورق

پر محمد صالح کمال درج ہے، اہل الحجاز، ص ۲۸۲/ تشذیف الاسماع، ص ۵۰۷/ سیر و تراجم، ص ۱۱۱،

۲۳۳، ۲۳۵ تا ۲۳۶/ فہرس مخطوطات مکتبہ مکتہ المکرمہ، ص ۱۷۵

[۳۴]- اہل الحجاز، ص ۲۸۲/ سیر و تراجم، ص ۲۳۳/ مختصر نشر النور، ص ۲۱۹

[۳۵]- شیخ عمر بقاعی کے حالات: اعلام المکملین، ج ۱، ص ۳۰۰ تا ۳۰۱/ سیر و تراجم،

ص ۱۹۶ حاشیہ/ مختصر نشر النور، ص ۲۱۹، ۳۷۵ تا ۳۷۶/ معجم منوفی مخطوطات مکتبہ الحرم المکی الشریف،

ص ۲۰۲/ نزہۃ الفکر، ج ۲، ص ۳۰۳ تا ۳۰۴/ نشر المآثر، ص ۱۵/ نظم الدرر، ص ۱۹۵

[۳۶]- سید عبدالمطلب بن غالب تین بار گورنر مکہ مکرمہ کے منصب پر فائز رہے،

۱۲۳۳ھ میں پانچ ماہ تک پھر ۱۲۶۷ھ سے ۱۲۷۲ھ اور ۱۲۹۷ھ سے ۱۲۹۹ھ تک۔ (الاعلام،

ج ۲، ص ۱۵۴/ تاریخ مکتہ، ص ۵۱۷ تا ۵۵۰)

[۳۷]- سید عون رفیق پاشا ۱۲۹۹ھ سے اپنی وفات ۱۳۲۳ھ تک گورنر مکہ مکرمہ رہے، طائف میں وفات پائی۔ (الاعلام، ج ۵، ص ۹۷ تا ۹۸ / الاعلام الشرقية، ج ۱، ص ۳۳ / تاریخ مکہ، ص ۵۵۰ تا ۵۵۷)

[۳۸]- نثر الدرر، ص ۲ ضمیمہ

[۳۹]- تاریخ مکہ، ص ۵۹۰ / سیر و تراجم، ص ۲۳۳

[۴۰]- امام یمن محمد بن یحییٰ کے حالات: الاعلام، ج ۷، ص ۱۲۲

[۴۱]- امام یمن یحییٰ بن محمد کے حالات: الاعلام، ج ۸، ص ۱۷۰ تا ۱۷۱ / تشنیف

الاسماع، ص ۵۷۰ تا ۵۷۲

[۴۲]- سلطان عبدالحمید خان دوم ۱۲۹۳ھ / ۱۸۷۶ء سے ۱۳۲۷ھ / ۱۹۰۹ء تک حکمران

رہے، آپ چونتیسویں عثمانی خلیفہ تھے۔ (الاعلام الشرقية، ج ۱، ص ۲۹ تا ۳۰ / تاریخ مکہ،

ص ۵۵۸ تا ۵۵۹ / حلیۃ البشر، ج ۲، ص ۹۷ تا ۸۲۰)

[۴۳]- سید علی پاشا ۱۳۲۳ھ / ۱۹۰۵ء سے ۱۳۲۶ھ / ۱۹۰۸ء تک مکہ مکرمہ کے گورنر

رہے، قاہرہ میں وفات پائی۔ (الاعلام، ج ۴، ص ۳۰۹ / تاریخ مکہ، ص ۵۵۷ تا ۵۶۰)

[۴۴]- شیخ عبداللہ صدیق کے حالات: المملووظ، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، مدینہ

پبلشنگ کمپنی کراچی، ج ۲، ص ۱۳۷ تا ۱۳۸ / اعلام لمکیین، ج ۱، ص ۷۷ / سیر و تراجم، ص ۱۲۳ / مختصر

نشر النور، ص ۳۰۴ تا ۳۰۵ / نثر المآثر، ص ۱۱ / نظم الدرر، ص ۱۹۸ تا ۱۹۹

[۴۵]- تاریخ مکہ، ص ۵۹۰ / سیر و تراجم، ص ۱۴۹ تا ۱۵۰ / مختصر نشر النور، ص ۳۰۴ تا ۳۰۵

[۴۶]- شیخ محمد سعید باہصیل کے حالات پر راقم کا مضمون ”فاضل بریلوی اور شیخ

الاسلام محمد سعید باہصیل مکی شافعی“ ملاحظہ فرمائیں

[۴۷]- سید حسین بن علی ۱۳۲۶ھ کو گورنر مکہ مکرمہ تعینات ہوئے اور ۱۳۳۴ھ / ۱۹۱۶ء کو

پورے حجاز مقدس کو خلافت عثمانیہ سے الگ کر کے مملکت ہاشمیہ حجاز قائم کر لی اور خود اس کے

بادشاہ ہوئے، مسجد اقصیٰ میں قبر واقع ہے۔ (الاعلام، ج ۲، ص ۲۲۹ تا ۲۵۰ / الاعلام الشرقية، ج ۱، ص ۲۲ تا ۲۳ / تاریخ مکہ، ص ۵۶۲ تا ۵۹۷، ۶۷۸ تا ۵۹۷)

[۴۸]۔ شیخ ابو بکر خویر کے حالات: معجم مصنفات الحنابلة، ڈاکٹر عبداللہ بن محمد طریقی، طبع اول ۱۴۲۲ھ / ۲۰۰۱ء، مصنف نے ریاض سے شائع کی، ج ۶، ص ۲۹۲ تا ۲۹۵ / نموزج الاعمال الخیریہ فی ادارۃ الطباعة المنیریہ، شیخ محمد منیر عبدۃ آغا دمشق، طبع دوم ۱۴۰۹ھ / ۱۹۸۸ء، مکتبۃ امام شافعی ریاض، ص ۹۸ تا ۱۰۱ / اعلام المکیین، ج ۱، ص ۳۱۵ تا ۳۱۶ / الاعلام، ج ۲، ص ۷۰ / سیر و تراجم، ص ۲۲ تا ۲۳ / نثر الدرر، ص ۱۷

[۴۹]۔ شیخ بکر تہنی کے حالات: تشنیف الاسماع، ص ۱۲۱ تا ۱۲۲

[۵۰]۔ شیخ عبدالقادر کردی کے حالات اردو و عربی کی متداول کتب میں درج نہیں تاہم حسب ذیل کتب میں آپ کا مختصر ذکر ہے / الاجازات المتمینۃ لعلماء بکۃ والمدینۃ، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، سن اشاعت درج نہیں، منظمۃ الدعوة الاسلامیۃ اندرون لوہاری دروازہ لاہور، ص ۱۲، ۱۳، ۵۴، ۵۵ / بواکیر الطباعة والمطبوعات فی بلاد الحرمین الشریفین، ڈاکٹر احمد محمد ضییب، طبع ۱۴۰۸ھ / ۱۹۸۷ء، شاہ فہد قومی کتب خانہ ریاض، ص ۳۳ / الطباعة فی المملكة العربیة السعودیة، ڈاکٹر عباس بن صالح تاشقندی، طبع اول ۱۴۱۹ھ / ۱۹۹۹ء، شاہ فہد قومی کتب خانہ ریاض، ص ۹۱ / علماء عرب کے خطوط فاضل بریلوی کے نام، محمد شہاب الدین رضوی، طبع اول ۱۴۱۷ھ / ۱۹۹۶ء، رضا اکیڈمی بمبئی، ص ۳۴ / مکتبۃ مکتۃ المکترمة، ڈاکٹر عبدالوہاب ابراہیم ابوسلیمان، طبع ۱۴۱۶ھ / ۱۹۹۵ء، شاہ فہد قومی کتب خانہ ریاض، ص ۶۶ / تذکرہ خلفائے اعلیٰ حضرت، ص ۶۷ / المملفوظ، ج ۲، ص ۱۳۵

[۵۱]۔ شیخ عبدالقادر سقاف کے حالات: الدلیل المشریح، ص ۱۸۹ تا ۱۹۳

[۵۲]۔ شیخ عربی سجینی کے حالات: اعلام المکیین، ج ۱، ص ۳۹۵ / اہل الحجاز، ص ۲۷ تا ۲۸

۲۷۹ / رجال من مکتۃ المکترمة، ج ۳، ص ۵۵ تا ۵۷، ۶۴ تا ۸۶ / سیر و تراجم، ص ۱۹۰ تا ۱۹۲

[۵۳]- شیخ محمد سلطان معصومی کے حالات: امداد الفتاح باسانید و مرویات الشیخ عبدالفتاح، شیخ محمد بن عبداللہ الرشید، طبع اول ۱۴۱۹ھ/۱۹۹۹ء، مکتبہ امام شافعی ریاض، ص ۳۱۶ تا ۳۱۷ / ماہنامہ نور الحیب بصیر پور، شمارہ مارچ ۲۰۰۰ء، ص ۶۷ / اعلام المکین، ج ۲، ص ۸۹۷ تا ۸۹۸ / سیر و تراجم، ص ۲۳۴

[۵۴]- شیخ محمد علی کتبی کے حالات: من رجال الشوری فی المملکت العربیۃ السعودیۃ، ڈاکٹر عبدالرحمن بن علی زهرانی، طبع دوم ۱۴۲۲ھ/۲۰۰۱ء، مطبع ہلا ریاض، ص ۱۳۸ تا ۱۳۹ / اعلام المکین، ج ۲، ص ۹۱ تا ۹۲ / سیر و تراجم، ص ۲۳۴

[۵۵]- شیخ محمد کامل سندھی کے حالات: اعلام المکین، ج ۱، ص ۵۳۸ / سیر و تراجم، ص ۲۳۶ تا ۲۳۸

[۵۶]- شیخ محمد یحییٰ بن امان اللہ کے حالات: اعلام المکین، ج ۱، ص ۲۳۰ تا ۲۳۱ / الدلیل المشر، ص ۳۹۸ تا ۴۰۱ / نثر الدرر، ص ۷۷ تا ۷۸

[۵۷]- اعلام المکین، ج ۲، ص ۸۰۸ / سیر و تراجم، ص ۲۳۵

[۵۸]- فہرس مخطوطات مکتبہ مکہ المکرمۃ، ص ۱۷۵

[۵۹]- نشأة الصحافة فی المملکت العربیۃ السعودیۃ، ڈاکٹر محمد عبدالرحمن شامخ، طبع اول ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء، دارالعلوم ریاض، ص ۲۳

[۶۰]- وسائل الاعلام السعودیۃ والعالمیۃ، النشأة والنظور، ڈاکٹر محمد فرید محمود عزت، طبع اول ۱۴۱۰ھ/۱۹۹۰ء، دارالشرق جدہ، ص ۶۷

[۶۱]- بواکیر الطباعة، ص ۳۳

[۶۲]- براہمین قاطعہ کیوں تصنیف کی گئی، اس کی کون سی عبارات تفریق کا باعث ہوئیں، اس کی اشاعت پر عرب و عجم میں کیا رد عمل ہوا، ان تینوں سوالات کے جواب میں راقم السطور کی تالیف ”براہمین قاطعہ، پسمنظر، مندرجات، رد عمل“ بڑی تقطیع کے ایک سو چالیس صفحات

پر غیر مطبوع موجود ہے۔

[۶۳]۔ رسائل رضویہ، مولانا احمد رضا خاں بریلوی، طبع دوم ۱۹۸۸ء، مکتبہ حامد یہ

لاہور، پہلی جلد کے صفحہ ۵۲ تا ۲۷۵ پر فتاویٰ الحرمین برہف ندوۃ المین کا عربی متن وارد ترجمہ درج

ہے۔

[۶۴]۔ المملفوظ، ج ۲، ص ۱۲۷

[۶۵]۔ المملفوظ، ج ۲، ص ۱۲۸

[۶۶]۔ فہرس الفہارس، ج ۱، ص ۲۵۶

[۶۷]۔ معجم المطبوعات المغربیہ، شیخ ادریس بن ماجی قیطونی حسینی فاسی، طبع ۱۹۸۸ء،

مطابع سلا، سلامراکش، ص ۳۰۴

[۶۸]۔ اشرف الامانی فی ترجمۃ الشیخ سیدی محمد کتانی، شیخ محمد باقر بن محمد بن عبدالکبیر

کتانی، طبع ۱۳۸۰ھ، مراکش، ص ۱۶۰

[۶۹]۔ تذکرہ علمائے اہل سنت ضلع چکوال، علامہ حافظ عبدالخلیم نقشبندی، طبع

اول ۱۹۹۷ء، جامعہ انوار الاسلام غوثیہ رضویہ چکوال، ص ۱۲۱

[۷۰]۔ سہ ماہی الدراسات الاسلامیہ، عالمی یونیورسٹی اسلام آباد، شمارہ جولائی تا

ستمبر ۲۰۰۰ء، ص ۲۵۶ تا ۲۵۷

[۷۱]۔ معجم مؤلفی مخطوطات مکتبۃ الحرم المکی الشریف، ص ۲۷۶

[۷۲]۔ الدلیل المشیر، ص ۱۲۷

[۷۳]۔ تاریخ علماء دمشق فی القرن الرابع عشر الهجری، شیخ محمد مطیع الحافظ و نزار ابانہ،

طبع اول ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء، دار الفکر دمشق، ج ۲، ص ۹۶۹

[۷۴]۔ ربیع الانتساب، پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد، اردو سے عربی ترجمہ ڈاکٹر لبنی محمد

اسلام، سن اشاعت درج نہیں تاہم ۱۴۱۰ھ/۱۹۹۴ء کے بعد شائع ہوئی، ادارہ مسعودیہ کراچی،

[۷۵]- شیخ احمد ابوالخیر مرداد کے حالات: ماہنامہ معارف رضا کراچی، خصوصی شمارہ

۲۰۰۰ء، ص ۶۳

[۷۶]- الملقو ظ، ج ۲، ص ۱۲۹

[۷۷]- الملقو ظ، ج ۲، ص ۱۲۹

[۷۸]- الملقو ظ، ج ۲، ص ۱۳۰

[۷۹]- الملقو ظ، ج ۲، ص ۱۳۰

[۸۰]- الملقو ظ، ج ۲، ص ۱۳۰ تا ۱۳۱

[۸۱]- الملقو ظ، ج ۲، ص ۱۳۰ تا ۱۳۵

[۸۲]- الملقو ظ، ج ۲، ص ۱۳۶

[۸۳]- الملقو ظ، ج ۲، ص ۱۳۰

[۸۴]- الملقو ظ، ج ۲، ص ۱۳۹

[۸۵]- الملقو ظ، ج ۲، ص ۱۳۱

[۸۶]- الملقو ظ، ج ۲، ص ۱۳۳

[۸۷]- الملقو ظ، ج ۲، ص ۱۳۴

[۸۸]- حسام الحرمین، ص ۴۱

[۸۹]- الاجازات المتینة، اس کے صفحہ ۳۴ تا ۴۸ پر الاجازة الرضویة کا متن درج ہے

[۹۰]- الملقو ظ، ج ۲، ص ۱۳۰

[۹۱]- الاجازات المتینة، ص ۱۶/ تذکرہ خلفائے اعلیٰ حضرت، ص ۵۲/ علماء عرب کے

خطوط، ص ۳۷

[۹۲]- نشأة الصحافة، ص ۲۳/ وسائل الاعلام، ص ۶۷

[۹۳]۔ عبدالحسن صحاف کے حالات: اعلام المکیین، ج ۲، ص ۶۰۵/الاعلام، ج ۴،

ص ۱۵۳/الحركة الادبية، ص ۲۳۶، ۳۲۲، ۳۷۶، ۳۷۸

[۹۴]۔ سیر و تراجم، ص ۲۳۲

[۹۵]۔ سیر و تراجم، ص ۲۳۵

[۹۶]۔ نظم الدرر، ص ۱۸۲

[۹۷]۔ نثر الدرر، ص ۷۷

[۹۸]۔ حسام الحرمین، ص ۳۹

[۹۹]۔ المملفوظ، ج ۲، ص ۱۲۰، ۱۴۰

[۱۰۰]۔ تذکرہ علمائے اہل سنت، علامہ محمود احمد کانپوری، طبع دوم ۱۹۹۲ء، سنی

دارالاشاعت علویہ رضویہ فیصل آباد، ص ۲۳ تا ۲۴ حاشیہ/سالنامہ معارف رضا، شمارہ ۱۴۲۰ھ/

۱۹۹۹ء، ص ۱۹۵ تا ۱۹۶/اعلام المکیین، ج ۲، ص ۸۰۷ تا ۸۰۸/اہل الحجاز، ص ۲۸۲/تاریخ مکہ،

ص ۵۸۵، ۵۹۰/تذکرہ خلفائے اعلیٰ حضرت، ص ۹۲ تا ۱۰۱/سیر و تراجم، ص ۲۳۳ تا ۲۳۵/

مختصر نثر النور، ص ۲۱۹/نظم الدرر، ص ۱۸۲ تا ۱۸۳

<http://t.me/Tehqiqat>

الّی مقیم بالمدینة الامینة منذ سنین ویا تیهامن الہند
 الوف من العلمین - فیہم علماء وصلاحاء اتقیاء، رأیتہم یدرون
 فی سلك البید لا یلتفت الیہم من اہلہ احد وادی
 العلماء الکبار العظماء الیک صہر عین و باجلاک مسرعین
 ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم

(ترجمہ تلخیص) میں کسی سال سے مدینہ منورہ میں مقیم ہوں، ہندوستان سے ہزاروں
 صاحب علم آتے ہیں ان میں علماء، صلحاء، اتقیاء سب ہی ہوتے ہیں۔ میں نے
 دیکھا کہ وہ شہر کے گلی کوچوں میں مارے مارے پھرتے ہیں اور کوئی بھی ان کو ٹرک
 نہیں دیکھتا، لیکن فاضل بریلوی (کی شان عجیب ہے) یہاں کے علماء اور بزرگ
 سب ہی ان کی طرف جوق درجوق چلے آ رہے ہیں اور ان کی تعظیم میں
 تعجیل کو شاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل خاص ہے جسے ہرگز نہ

(مولانا عبدالکریم مہاجر مکی رحمہ اللہ)